

بَابُ الْبُرْهَانِ الْقَدِيمِ
بَابُ الْبُرْهَانِ الْقَدِيمِ

بُرْهَانُ الْقَدِيمِ

عَلامة قاری محمد طیب نقشبندی

نظم جامعہ رسولیہ اسلامک سٹڈیز ماہنامہ انگلینڈ

جلد ہشتم

مکتبہ بزرگ القرآن

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم دلیل آئی ہے
(النساء: ۱۳۶)

تفسیر بُرْهَانُ الْقُرْآنِ

جلد ہشتم

فہارس و ماخذ و مراجع

مصنف

علاقاری محمد طیب نقشبندی

ناظم جامعہ رسولیہ اسلامک سنٹر مانچسٹر یو کے

مکتبہ بزرگ القرآن



154692

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

11822
۷۰۷

Name Book : Tafseer Burhan ul Quran
Author : Qari Muhammad Tayyib Naqshbandi
Book : 8th
Year : August 2016
Edition : 1st (2 Color)
Publisher : Maktaba Burhan ul Quran
Data Darbar Market Lahore

نام کتاب : تفسیر برہان القرآن
مصنف : علامہ قاری محمد طیب نقشبندی
جلد : ہشتم
سن اشاعت : ذوالقعدہ 1437ھ
ایڈیشن : اول (2 کالر)
الناشر : مکتبہ برہان القرآن
داتا دربار مارکیٹ لاہور
0321-4298570

ملنے کے پتے

| | |
|------------------------------------|--|
| نظامیہ کتاب گھر (آردو بازار لاہور) | علامہ فضل حق خیر آبادی (داتا دربار مارکیٹ لاہور) |
| نعیمیہ بک سٹال (آردو بازار لاہور) | ضیاء القرآن (داتا دربار مارکیٹ لاہور) |
| مکتبہ غوثیہ (کراچی) | دارالنور (داتا دربار مارکیٹ لاہور) |
| اسلامک بک کارپوریشن (راولپنڈی) | مکتبہ قادریہ (داتا دربار مارکیٹ لاہور) |
| فیضان مدینہ (سر دارآباد) | مکتبہ اعلیٰ حضرت (داتا دربار مارکیٹ لاہور) |
| مکتبہ واضحی (آردو بازار لاہور) | کتب خانہ امام احمد رضا (داتا دربار مارکیٹ لاہور) |

Find us in UK

Jamia Rasoolia Islamic Center
250 Upper Chorlton Road Old Trafford Manchester M16 0BL
Mob: 07999312666 07450005809

فہارس برہان القرآن

بقلم: صاحب تفسیر علامہ قاری محمد طیب نقشبندی

۱ ایمان

① اہمیت ② قدر و قیمت ③ تقاضے

۲ اللہ ﷻ

① اسماء حسنی ② صفات الہیہ ③ دلائل توحید

۳ محمد رسول اللہ ﷺ

① اسماء نبویہ ② مکمل سیرت النبی ③ خصائص رسول فضائل نبویہ ④ حقوق مصطفیٰ

⑤ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

۴ انبیاء کرام

① خصائص انبیاء ② اخلاق انبیاء ③ تاریخ انبیاء

۵ فرق باطلہ

① یہودیت ② نصرانیت ③ مشرکین ④ قادیانیت ⑤ رافضیت ⑥ خارجیت

۶ فضائل

① فضائل صحابہ ② فضائل ابوبکر صدیق ③ فضلیت صدیق اکبر ④ فضائل عمر فاروق
⑤ فضائل عثمان غنی ⑥ فضائل مولیٰ علی ⑦ فضائل اہلبیت کرام ⑧ فضائل ازواج رسول
⑨ فضائل اولیاء اللہ ⑩ فضائل علماء ⑪ فضائل امت محمدیہ ⑫ مقامات مقدسہ ⑬ ایام مقدسہ

۷ قرآن

① خصائص ② فضائل ③ حقوق ④ پیش گوئیاں ⑤ سائنسی انکشافات ⑥ آداب تلاوت

۸ عبادات

① طہارت ② نماز ③ زکوٰۃ ④ روزہ ⑤ حج ⑥ دعا ⑦ ذکر ⑧ قربانی

۹ نکاح ۱۰ طلاق ۱۱ بیوع

۱۲ حدود ۱۳ اخلاق ۱۴ حقوق

۱۵ آداب ۱۶ صید و ذبائح ۱۷ میراث

۱۸ جہاد ۱۹ سیاست اسلامیہ

۲۰ اسلام پہ اعتراضات (دہشت گردی، مسئلہ غلامی، حقوق نسواں)

۲۱ جدید فقہی مسائل

① چلتی ٹرین اور حوائی جہاز میں نماز ② کیا انجکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے

③ اعضاء کی پیوند کاری ④ بیمہ و انشورنس

⑤ مشینی ذبیحہ ⑥ برتھ کنٹرول

④ مروج لاٹری و پگڑی وغیرہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض احوال

”تفسیر برہان القرآن“ جب پریس میں جا چکی تھی اور پہلی تین جلدوں کا مسودہ چھپ چکا تھا تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داعیہ پیدا ہوا۔ میرے دل میں آیا کہ سارے قرآن کریم میں پھیلے ہوئے مضامین کی فہرستیں تیار کی جائیں اور ان کو یکجا کر کے پیش کیا جائے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ، اسکی صفات اور دلائل توحید خداوندی کے چمکتے موتی قرآن میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں انکی اجمالی فہرست پیش کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ بچپن سے وصال تک قرآن میں جا بجا متفرق مقامات پر موجود ہے۔ آپ کا بچپن، جوانی، بعثت، طویل مکی دور میں ہونے والے واقعات، ہجرت، غزوات اور وصال کے اشارے موجود ہیں۔ ان سب کو مربوط فہارس کی شکل میں لکھا جانا چاہیے تاکہ سیرت حبیب رحمان بزبان قرآن سامنے آئے۔ اسی طرح آپ کے اخلاق، خصائص، معجزات اور حقوق کو بھی مرتب کیا جاسکتا ہے۔

یونہی انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق، خصائص اور احوال کو ترتیب ملنی چاہیے قرآن کریم کے فضائل، خصائص، پیش گوئیاں اور قرآن کے سائنسی انکشافات جو پہلے انسانوں کو معلوم نہ تھے جا بجا منتشر ہیں، انہیں اکٹھا کر کے پیش کیا جائے۔ پھر قرآن کریم مکمل ضابطہ زندگی پیش کرتا ہے۔ عبادات، نکاح و طلاق، بیوع و اجارات، حدود، اخلاق، حقوق اور آداب زندگی کی مکمل ہدایت قرآن میں جا بجا مذکور ہے۔

آج مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا اور قرآن کو دہشت گردی کی کتاب بتایا جاتا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن امن و سلامتی سکھانے والی کتاب ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ دہشت گردی، خونریزی اور فتنہ و فساد کے خلاف قرآنی تعلیمات کو یکجا کر کے پیش کیا جائے۔

تو میں نے ”تفسیر برہان القرآن“ کی طباعت کرنے والی ٹیم کو حکم دیا کہ یہ کام یہیں روک دو۔ اور میں نے اللہ رب العزت کی توفیق و اعانت سے یہ کام شروع کر دیا اور ایک ماہ بیس دن کی شبانہ روز محنت شاقہ سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا جو آپ کے سامنے ہے۔ اسکے ذریعے پوری ”تفسیر برہان القرآن“ میں پھیلے ہوئے مضامین کو الگ الگ کر کے

ڈھونڈنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ جو عالم یا محقق ایک موضوع پہ تمام آیات قرآنیہ کو یکجا دیکھنا چاہے اسکے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مجموعی فضائل، فضائل سیدنا ابو بکر صدیق، فضائل حضرت عمر فاروق، فضائل عثمان غنی ذوالنورین، فضائل مولیٰ علی المرتضیٰ، فضائل اہل بیت، فضائل ازواج مطہرات، فضائل اولیاء اللہ اور فضائل مقامات مقدسہ و ایام مقدسہ پر قرآن کی روشنی میں بات کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ گناہگار و سیاہ کار انسان کی یہ محنت قبول فرمائے اور اسے میرے لیے اور قارئین کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین۔

وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین

محمد طیب غفرلہ

25 ستمبر 2016 بمطابق 22 ذی الحجہ 1437ھ

تمام فہارس کا اجمالی نقشہ

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 14 | ایمان | 1 |
| 15 | اہمیت | 1 |
| 15 | قدر و قیمت | 2 |
| 15 | تقاضے | 3 |
| 21 | اللہ ﷻ | 2 |
| 22 | صفات الہیہ | 4 |
| 31 | اسماء حسنی | 5 |
| 44 | دلائل توحید خداوندی | 6 |
| 54 | محمد رسول اللہ ﷺ | 3 |
| 55 | سیرت النبی ﷺ (ولادت سے وصال تک) | 7 |
| 74 | اسماء نبویہ ﷺ | 8 |
| 89 | علم مصطفیٰ ﷺ | 9 |
| 95 | فضائل نبویہ ﷺ | 10 |
| 91 | نورانیت مصطفیٰ ﷺ | 11 |
| 94 | آپ کا حاضر و ناظر ہونا | 12 |
| 95 | افضلیت مصطفیٰ بر سائر انبیاء | 13 |
| 97 | خصائص رسول ﷺ | 14 |
| 109 | حضور ﷺ کے مناقب عالیہ | 15 |

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 117 | اخلاق مصطفیٰ ﷺ | 16 |
| 121 | حقوق مصطفیٰ ﷺ | 17 |
| 128 | انبیاء کرام ﷺ | 4 |
| 128 | عقائد متعلقہ انبیاء کرام | 18 |
| 135 | صفات عالیہ و اخلاق انبیاء | 19 |
| 139 | تاریخ انبیاء کرام | 20 |
| 165 | القیامۃ | 5 |
| 171 | احوال قیامت | 21 |
| 173 | جنت کی نعمتیں | 22 |
| 176 | دوزخ کے عذابات | 23 |
| 178 | الْمَلٰئِكَةُ | 6 |
| 180 | القدر | 7 |
| 180 | تقدیر پر ایمان رکھنا کس قدر ضروری ہے | 24 |
| 183 | فضائل | 8 |
| 184 | فضائل اصحاب الرسول | 25 |
| 192 | فضائل ابو بکر صدیق | 26 |
| 195 | افضلیت صدیق اکبر | 27 |
| 196 | فضائل عمر فاروق | 28 |
| 198 | فضائل عثمان غنی | 29 |
| 198 | فضائل مولیٰ علی المرتضیٰ | 30 |
| 202 | فضائل اہل بیت کرام | 31 |

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 204 | فضائل ازواج رسول ﷺ | 32 |
| 208 | فضائل اولیاء اللہ | 33 |
| 211 | فضائل علماء | 34 |
| 214 | فضائل امتِ محمدیہ | 35 |
| 217 | فضائل مقاماتِ مقدسہ | 36 |
| 219 | ایام مقدسہ | 37 |
| 223 | فرق باطلہ | 9 |
| 223 | ردّ یہودیت | 38 |
| 228 | ردّ نصرانیت | 39 |
| 229 | ردّ مشرکین | 40 |
| 235 | دلائل ختم نبوت اور ردّ قادیانیت | 41 |
| 259 | ردّ شیعیت | 42 |
| 275 | ردّ نجدیت | 43 |
| 292 | قرآنِ کریم | 10 |
| 293 | خصائصِ قرآن | 44 |
| 301 | فضائلِ قرآن | 45 |
| 304 | قرآن کے سائنسی انکشافات | 46 |
| 305 | قرآن اور سائنس | 47 |
| 308 | حقوقِ قرآن | 48 |
| 313 | العبادات | 11 |
| 314 | طہارت | 49 |

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 315 | نماز | 50 |
| 325 | زکوٰۃ | 51 |
| 328 | صوم (روزہ) | 52 |
| 329 | حج | 53 |
| 333 | الدعا والذکر | 54 |
| 335 | نکاح و طلاق | 12 |
| 336 | اہمیت نکاح | 55 |
| 331 | اولاد اور تربیت اولاد | 56 |
| 339 | حلال اور حرام رشتے | 57 |
| 340 | رضاعت | 58 |
| 341 | حقوق الزوجین | 59 |
| 344 | حق مہر کے احکام | 60 |
| 345 | طلاق | 61 |
| 346 | ظہار کے احکام | 62 |
| 346 | عدت | 63 |
| 348 | نسب کے احکام | 64 |
| 349 | البیوع | 13 |
| 350 | تجارت کے احکام | 65 |
| 352 | حرام ذرائع آمدن کی مذمت | 66 |
| 353 | حرمت سود | 67 |
| 355 | حدود | 14 |

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 356 | حد ارتداد | 68 |
| 356 | حد سرقہ | 69 |
| 356 | حد زنا | 70 |
| 357 | حد قذف | 71 |
| 358 | حد قطع طریق | 72 |
| 358 | قصاص و دیت | 73 |
| 361 | ایمان و شہادت | 15 |
| 365 | صيد و ذبائح | 16 |
| 367 | قربانی | 17 |
| 369 | آداب زندگی | 18 |
| 370 | کیا کھانا پینا حلال ہے یا حرام | 74 |
| 373 | کیا پہننا جائز ہے کیا ناجائز | 75 |
| 375 | آداب گفتگو | 76 |
| 378 | آداب پردہ داری | 77 |
| 383 | سوار ہونے کے آداب | 78 |
| 383 | آداب مجلس | 79 |
| 383 | آداب مہمان نوازی | 80 |
| 384 | آداب رہائش | 81 |
| 385 | آداب خواب و بیداری | 82 |
| 387 | احکام میراث | 19 |
| 389 | بِرّ و احسان | 20 |

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 390 | والدین سے حسن سلوک | 83 |
| 392 | قریبی رشتہ داروں | 84 |
| 392 | یتامی و مساکین | 85 |
| 394 | پڑوسی سے حسن سلوک | 86 |
| 394 | مہمان اور ملازمین سے حسن سلوک | 87 |
| 394 | تمام مسلمانوں سے حسن سلوک | 88 |
| 396 | اخلاق | 21 |
| 397 | اخلاقِ جلیلہ | 89 |
| 407 | اخلاقِ رزیلہ | 90 |
| 416 | اصولِ شریعت | 22 |
| 423 | انسان | 23 |
| 423 | فطرتِ انسان | 91 |
| 430 | شیطان | 24 |
| 431 | شیطان کی تخلیق عادات اور انسان دشمنی | 92 |
| 436 | سیاستِ اسلامیہ | 25 |
| 437 | مسلمانوں کی خارجہ پالیسی | 93 |
| 441 | مسلمانوں کی داخلہ پالیسی | 94 |
| 445 | جہاد | 26 |
| 446 | اسکی فرضیت | 95 |
| 446 | احکامِ جہاد | 96 |
| 450 | مقاصدِ جہاد | 97 |

| صفحہ نمبر | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|--|-----------|
| 451 | ثواب شہادت فی سبیل اللہ | 98 |
| 452 | غلبہ اسلام | 27 |
| 452 | قرآن نے غلبہ اہل ایمان کا بار بار وعدہ دلایا ہے، مگر اسکی شرائط کیا بتاتی ہیں؟ | 99 |
| 455 | اسلام پر وارد شبہات کا ازالہ | 28 |
| 456 | دہشت گردی | 100 |
| 458 | مسئلہ غلامی | 101 |
| 459 | حقوق نسواں | 102 |
| 462 | حقیقت دنیا و فکرِ آخرت | 29 |
| 470 | بعض جدید فقہی مسائل | 30 |



الایمان

و

الاسلام

ایمان کی اہمیت اور قدر و قیمت

رشتہ ایمان کی برتری

فطرت اسلام پر انسان کی تخلیق

الایمان والاسلام

ایمان کی اہمیت اور قدر و قیمت، رشتہ ایمان کی برتری، فطرت اسلام پر انسان کی تخلیق

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ | 1 | 131 |
| 2 | الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (بقرہ: 3) ایمان بالغیب۔ غیب کا معنی۔ | 1 | 131 |
| 3 | وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (بقرہ: 8) اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقت ایمان ہے۔ | 1 | 146 |
| 4 | مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا (بقرہ: 62) عقیدہ جڑ ہے اور عمل اسکا پھل۔ | 1 | 228 |
| 5 | فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (بقرہ: 132) دین اسلام ہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ نجات اخروی کا مدار سلامتی ایمان پر ہے۔ | 1 | 385 |
| 6 | وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (بقرہ: 177) چند بنیادی ایمانی تقاضے۔ | 1 | 387 |
| 7 | لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ (بقرہ: 177) اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اعمال کی قبولیت صحت ایمان پر موقوف ہے۔ گناہ کرنے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ | 1 | 390 |
| 8 | ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً (بقرہ: 208) اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمانوں کو کوئی غیر اسلامی رسم نہیں اپنانی چاہیے۔ | 1 | 450 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 553 | 1 | يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (بقرہ: 257) ظلمتیں کئی ہیں نور صرف ایک ہے۔ | 9 |
| 578 | 1 | لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ (بقرہ: 272) اسلام رواداری کا مذہب ہے۔ | 10 |
| 13 | 2 | أُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (آل عمران: 10) مومن جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ دنیا میں دائمی غلبہ صرف اسلام کا ہے۔ | 11 |
| 23 | 2 | إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (آل عمران: 19) حقانیت اسلام اور اہل کتاب کا اس سے حسد۔ | 12 |
| 105 | 2 | وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران: 85) دین اسلام ہی ذریعہ نجات ہے۔ | 13 |
| 139 | 2 | لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ (آل عمران: 116) روز قیامت مومن کو اس کا مال بھی فائدہ دے گا اور اولاد بھی۔ | 14 |
| 139 | 2 | هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (آل عمران: 116) کوئی مسلمان ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ | 15 |
| 410 | 2 | أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (نساء: 97) وطن جائیداد اور خاندان، ہر چیز سے اہم تر دین ہے۔ ہجرت کا ثواب قرآن حدیث کی روشنی میں۔ | 16 |
| 520 | 2 | وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (مائدہ: 3) اللہ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ | 17 |
| 63 | 3 | وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَا أَتَّخِذُ أَصْنَامًا (انعام: 74) نبی سے قریبی رشتہ داری ایمان کے بغیر کام نہیں آتی۔ | 18 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 19 | وَ اَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (اعراف: 29) انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسی پر اٹھے گا۔ | 3 | 169 |
| 20 | اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (اعراف: 125) نجات کا دار و مدار حسن خاتمہ پر ہے۔ | 3 | 230 |
| 21 | وَ اَشْهَدُهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (اعراف: 172) ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نا سمجھی کی عمر میں فوت ہونے والی اولاد کفار بھی جنت میں جائے گی۔ | 3 | 283 |
| 22 | قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ (انفال: 38) اسلام لانے والے شخص کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ | 3 | 347 |
| 23 | اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ (براءت: 19) ایمان کے بغیر کعبہ کی خدمت بھی کام نہیں آسکتی۔ | 3 | 408 |
| 24 | لَا تَتَّخِذُوا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ (براءت: 23) ایمانی رشتہ کے بغیر جسمانی رشتہ بے کار و بے معنی ہے۔ | 3 | 469 |
| 25 | يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِاٰيٰتِنَا يَمْشِيْنَ مِنَ الْجِبَالِ اَنْهَارٌ (يونس: 9) جنت میں داخلہ کا اصل سبب ایمان ہے۔ اعمال بلندی درجات کے لیے ہیں۔ | 3 | 541 |
| 26 | حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَآءِيْلَ (يونس: 90) بوقت موت فرعون کا ایمان کیوں قبول نہ کیا گیا؟ اس لیے کہ موت کے وقت ایمان بالغیب نہیں ہے۔ بوقت موت فرعون کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کا کچھڑ ٹھونسنا۔ | 3 | 592 |
| 27 | فَمَنْ اٰهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ (يونس: 108) کسی کو زبردستی اسلام میں لانا جائز نہیں ہے۔ | 3 | 603 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 28 | إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (هود: 46) ایمان کے بغیر نبی کا نسب بھی فائدہ نہیں دیتا۔ | 3 | 636 |
| 29 | يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ (ابراہیم: 10) اسلام لانے سے دور کفر کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ | 4 | 141 |
| 30 | كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (ابراہیم: 24) کلمہ اسلام کو درخت کھجور سے تشبیہ دینے کی حکمتیں۔ | 4 | 152 |
| 31 | رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوِ كَانُوا مُسْلِمِينَ (حجر: 2) ایمان کی وجہ سے ہر مومن کو جہنم سے نکال لیا جائے گا تب کفار تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ | 4 | 170 |
| 32 | فَالْقَوْمَ الْسَلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ (نحل: 28) موت کے وقت ہر کافر ایمان لاتا ہے۔ | 4 | 223 |
| 33 | إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (نحل: 106) زبردستی کلمہ کفر کہلوائے جانے سے ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر بولنے کا شرعی حکم۔ | 4 | 272 |
| 34 | وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (بنی اسرائیل: 15) کفار کے چھوٹے بچے اور مجانبین جنت میں جائیں گے۔ | 4 | 328 |
| 35 | فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (طہ: 74) کافر جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا، مگر مومن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایک موت مارے گا پھر شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا، از حدیث۔ | 4 | 550 |
| 36 | وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ (مومنون: 27) نوح علیہ السلام کا سگایا عدم ایمان کے سبب ہلاک ہو گیا۔ ایمان کے بغیر نبی رسول بھی کام نہیں دیتا چہ جائیکہ کوئی اور نبی۔ | 5 | 18 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 187 | 5 | قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (شعراء: 50) ایمان کی قوت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ سابق جاوگر ایمان لانے کے بعد سولی پر جھول گئے مگر فرعون کے آگے سر نہیں جھکایا۔ | 37 |
| 376 | 5 | إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (عنکبوت: 56) دین و ایمان کو قوم، وطن، خاندان اور مال و تجارت سب پر فوقیت حاصل ہے۔ جہاں دین پر عمل مشکل ہو وہاں سے ہجرت لازم ہے۔ | 38 |
| 402 | 5 | فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (روم: 30) ہر بچہ فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کفار کے ناسمجھ بچے جنتی ہیں۔ | 39 |
| 273 | 6 | بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ (شوریٰ: 13) سب انبیاء کا ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے۔ | 40 |
| 426 | 6 | كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ (سورۃ محمد: 2) جو لوگ اسلام لے آئیں اللہ ان کے تمام سابقہ گناہوں کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کی قبل ایمان والی زندگی کو اچھالتے ہیں وہ خود ایمان سے محروم ہیں۔ | 41 |
| 521 | 6 | وَإِنْ طَآفَتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا (حجرات: 9) معلوم ہو اٹل جیسے گناہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ | 42 |
| 536 | 6 | قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (حجرات: 14) ایمان اور اسلام میں فرق۔ | 43 |
| 709 | 6 | وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (حدید: 27) اسلام میں رہبانیت کا کوئی جواز نہیں۔ | 44 |
| 39 | 7 | لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ (حشر: 8) معلوم ہو دین و ایمان کو بچانے کے لیے وطن، گھر بار اور اموال و اسباب چھوڑ کر ہجرت بھی۔ | 45 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 46 | کرنی پڑے تو کرو۔ نظریہ پاکستان کی حقانیت۔ | 7 | 39 |
| 47 | وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (بروج:8) اہل ایمان جان دے کر بھی ایمان کا تحفظ کرتے ہیں۔ | 7 | 368 |
| 48 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (بنہ:7) بندہ مومن (ولی اللہ) کا درجہ ملائکہ و کعبہ سے برتر ہے، حدیث سے۔ | 7 | 498 |
| 49 | إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر:3) اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار ایمان اور عمل صالح ہے۔ | 7 | 523 |
| 50 | لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِى دِينِ (الکافرون:6) اسلام کو کسی دوسرے دین کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سب کفر ایک ہی ملت ہے۔ | 7 | 558 |
| 51 | تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّتْ (لہب:1) معلوم ہوا اسلام میں نسب کا نہیں ایمان کا اعتبار ہے۔ | 7 | 567 |
| 52 | ایمان کے بغیر قرابت رسول کام نہیں آسکتی۔ | 7 | 570 |



اللَّهُ جَدَّ جَلَالُهُ

☆ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات اور بندوں پہ اس کے حقوق۔

☆ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حُسنیٰ۔

☆ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں
ارض و سما میں، سمندروں، پہاڑوں، نباتات،
حیوانات اور جمادات میں اور خود انسان میں۔

اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات اور بندوں پہ اسکے حقوق

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-------------|-------------------|
| 1 | اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ (بقرہ: 47) اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ | 1 | 206 |
| 2 | وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الذِّينَ اَعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ (بقرہ: 65) عبادت کا وقت کاروبار میں لگانا عذاب الہی کو دعوت ہے۔ | 1 | 234 |
| 3 | لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبٰى (بقرہ: 83) سب سے پہلے حقوق اللہ پھر حقوق العباد۔ | 1 | 253 |
| 4 | وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ (بقرہ: 116) اللہ کے اولاد سے پاک ہونے پر چند عقلی دلائل۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارنا جائز نہیں جو مخلوق کیساتھ خاص ہیں۔ | 1 | 300 301 |
| 5 | فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي (بقرہ: 150) اللہ کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے نہ کہ بندوں کی ناراضگی کا۔ | 1 | 354 |
| 6 | اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ (بقرہ: 164) کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے۔ محبت الہی کے چار تقاضے۔ | 1 | 370 |
| 7 | وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (بقرہ: 212) اللہ کے بے حساب دینے کے معانی۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں۔ | 1 1 1 | 371 452 452 |
| 8 | الحی القيوم کا اسم اعظم ہونا | 1 | 548 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 9 | رَبِّي الَّذِي يُعْجِبُ وَيُبَيِّتُ (بقرہ: 258) زندگی اور موت اللہ کے قبضہ میں ہے۔ | 1 | 555 |
| 10 | هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران: 6) کسی کے چہرہ کا مذاق اڑانا گناہ ہے یہ تصویر اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ | 2 | 6 |
| 11 | قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران: 26) عزت، ذلت، موت و حیات سب قبضہ الہی میں ہے۔ | 2 | 31 |
| 12 | هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ (آل عمران: 38) اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ | 2 | 48 |
| 13 | وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران: 191) کسی رسول کی دعوت نہ ملے تب بھی توحید کا سوال ہوگا۔ | 2 | 233 |
| 14 | رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا (آل عمران: 191) اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ | 2 | 234 |
| 15 | أَنْتَ لَا أَضِيعُ عَمَلٍ مِّنْكُمْ (آل عمران: 195) اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا۔ | 2 | 237 |
| 16 | إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (نساء: 40) اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ | 2 | 327 |
| 17 | وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا (نساء: 40) اللہ نیکی کو کس قدر بڑھاتا ہے۔ | 2 | 327 |
| 18 | نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (مائدہ: 18) اللہ کے لیے اولاد ماننا کفر ہے۔ | 2 | 557 |
| 19 | الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (انعام: 1) ارض و سما، ظلمت و نور اور انسان سب اللہ کی مخلوق ہے۔ | 3 | 4 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 20 | رَدِّ لَانْدَبِيْتِ - | 3 | 5 |
| 21 | قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ (انعام: 12) زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ | 3 | 12 |
| 22 | كَتَبَ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (انعام: 12) اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر رحمت لکھ لینے کا معنی۔ | 3 | 12 |
| 23 | وَ هُوَ يُطْعَمُ وَ لَا يُطْعَمُ (انعام: 14) اللہ تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے پاک ہونا۔ | 3 | 13 |
| 24 | وَ اِنْ يَّسْئَلْكُ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ (انعام: 17) ہر نفع و نقصان کا مالک اللہ ہی ہے وہی قبلہ حاجات ہے۔ | 3 | 15 |
| 25 | مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ (انعام: 41) اللہ کافروں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ | 3 | 15 |
| 26 | فَتَحْنًا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ (انعام: 44) نافرمانیوں کے باوجود نعمت کی کثرت اللہ کی پکڑ ہے۔ | 3 | 35 |
| 27 | وَ عِنْدَهَا مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ (انعام: 59) علم غیب کا مالک اللہ ہی ہے، بالذات وہی غیب جانتا ہے اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو پانچ بڑے علوم غیب بھی عطا فرماتا ہے۔ | 3 | 49 50 |
| 28 | وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا (انعام: 59) اللہ تعالیٰ کا علم محیط۔ | 3 | 50 |
| 29 | وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (انعام: 61) وہ قادر ہے عزت و ذلت، صحت و مرض اسکے ہاتھ میں ہے۔ | 3 | 51 |
| 30 | قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ (انعام: 63) اللہ زمین اور پانی پر آنے والے مصائب سے بچاتا ہے۔ | 3 | 55 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 85 | 3 | إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ (انعام: 95) مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالنے کا معنی۔ | 31 |
| 90 | 3 | لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (انعام: 103) دیدارِ الہی کے امکان پر اہل سنت کے دلائل۔ روایت باری تعالیٰ کا ثبوت کتب شیعہ سے۔ اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج اللہ کو نہ دیکھنے کا استدلال اور اس کا جواب۔ | 32 |
| 93 | 3 | وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ (انعام: 133) اللہ کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں۔ | 33 |
| 116 | 3 | لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا (انعام: 148) اللہ کی رضا اور اس کی مشیت میں فرق۔ | 34 |
| 129 | 3 | ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (اعراف: 54) استواء معلوم ہے کیفیت مجہول ہے۔ | 35 |
| 192 | 3 | وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ (اعراف: 57) ہواؤں کا پھرنا بادل برسانا اناج اگانا۔ | 36 |
| 195 | 3 | وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (اعراف: 180) اللہ رب العزت کے 99 اسماء کی عظمت و برکت۔ | 37 |
| 289 | 3 | وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ (اعراف: 180) اللہ کے ناموں میں الحاد کی تشریح۔ | 38 |
| 489 | 3 | ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (براءت: 94) عالم الغیب کہلانا صرف اللہ جل شانہ سے خاص ہے۔ | 39 |
| 509 | 3 | إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (براءت: 111) | 40 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 41 | مومن کی ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ | 3 | 509 |
| 42 | إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (یونس: 3) چھ دنوں میں ارض و سما کی تخلیق کس معنی میں ہے؟ | 3 | 537 |
| 43 | ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ (یونس: 3) (سجدہ: 4) (اعراف: 54) استواء معلوم ہے اس کا کیف مجہول ہے اس پر ایمان لازم ہے اور اسکے متعلق سوال بدعت ہے۔ | 3 | 537 |
| 44 | هُوَ الَّذِي يُسَبِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (یونس: 22) | 3 | 551 |
| 45 | قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْلُغُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ (یونس: 31) صفات الہیہ اور مشرکین کو حکیمانہ دعوت توحید۔ | 3 | 557 |
| 46 | قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (یونس: 34) مشرکین کو حکیمانہ دعوت توحید۔ | 3 | 559 |
| 47 | هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ (یونس: 56) اس میں درس توکل ہے۔ | 3 | 569 |
| 48 | وَإِنْ يَسْسُوكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (یونس: 107) ہر نفع و ضرر کا مالک اللہ ہی ہے اسکی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ | 3 | 602 |
| 49 | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود: 6) ہر ذی نفس کا رزق اللہ کے ذمے ہے مگر وہ رزق ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ | 3 | 609 |
| 50 | وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا (ہود: 6) مستقر اور مستودع میں کیا فرق ہے؟ | 3 | 610 |
| 51 | وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (ہود: 7) اللہ کا عرش پانی پہ کیسے تھا؟ | 3 | 616 |
| 52 | وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ (ہود: 123) اللہ ہی حقیقت میں ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ | 3 | 676 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 53 | وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾ (رعد: 6) اللہ کی رحمت اسکے غضب پر غالب ہے۔ | 4 | 96 |
| 54 | اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحِيلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ (رعد: 8) اللہ کا علم و اختیار اور اسکی تدبیر کائنات۔ | 4 | 99 |
| 55 | إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ (ابراہیم: 19) اللہ جب چاہے کسی قوم کو بھی ہلاک کر کے انکی جگہ نئی قوم لے آئے۔ | 4 | 145 |
| 56 | اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ — اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (ابراہیم: 32-33) اللہ نے ساری کائنات انسان کے لیے تابع فرمان کی ہوئی ہے۔ | 4 | 157 |
| 57 | وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۗ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (حجر: 21) ہر چیز کا خزانہ آسمان سے اُتارا جاتا ہے۔ | 4 | 182 |
| 58 | نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ (حجر: 49) اللہ کی رحمت کی وسعت کا کیا عالم ہے؟ حدیث سے۔ | 4 | 192 |
| 59 | وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (نحل: 18) اللہ کی نعمتوں کا گنا کیوں کرنا ممکن ہے؟ | 4 | 216 |
| 60 | وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ — مَا يُؤْمَرُونَ (نحل: 49-50) ہر چیز اپنی حالت کے مطابق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ | 4 | 235 |
| 61 | وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ — بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (نحل: 53-54) نعمت اللہ کی طرف سے ہے وہی انسان کے نفع و نقصان کا مالک ہے تو وہی مستحق عبادت ہے۔ | 4 | 237 |
| 62 | وَلَوْ يَوَّاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ (نحل: 61) اللہ کا حلم ہے کہ وہ قوموں کو اپنا فرمان دیکھتا ہے پھر بھی انہیں مہلت دیتا ہے۔ | 4 | 241 |
| 63 | وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (نحل: 71) رزق میں کمی بیشی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ | 4 | 254 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 351 | 4 | وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (بنی اسرائیل: 44) اللہ کے منکرین اللہ کی تسبیح کیسے کہتے ہیں؟ ہر خشک وتر اور زندہ و مردہ چیز اللہ کی تسبیح کہتی ہے۔ ہر شئی کی تسبیح کے بارے میں ایک سوال کا جواب۔ | 64 |
| 366 | 4 | رَبُّكُمْ الَّذِي يُزَيِّجُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ (بنی اسرائیل: 66) کشتیوں اور بحری جہازوں کا سمندر پہ چلنا اللہ کی عظیم نشانی اور توحید باری تعالیٰ کی اعلیٰ دلیل ہے۔ | 65 |
| 398 | 4 | فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا (کہف: 79) خضر علیہ السلام نے عیب کی نسبت اپنی طرف کی اور بھلائی کی اللہ کی طرف۔ | 66 |
| 457 | 4 | فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا (کہف: 82) کمال عبدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے ارادہ کو ارادہ مولیٰ میں فنا کر دے۔ | 67 |
| 516 | 4 | وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا — تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ (مریم: 88-90) اللہ کیلئے اولاد ماننا وہ جرم ہے جس سے زمین و آسمان کانپ اٹھتے ہیں۔ | 68 |
| 523 | 4 | وَأِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (طہ: 7) سراور اخی میں کیا فرق ہے؟ | 69 |
| 597 | 4 | وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ (انبیاء: 16) کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ | 70 |
| 599 | 4 | لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (انبیاء: 22) توحید باری تعالیٰ کی مضبوط دلیل۔ | 71 |
| 604 | 4 | وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (انبیاء: 30) پانی کی قدر و قیمت اور اسکے ضیاع کا گناہ۔ | 72 |
| 658 | 4 | وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ (حج: 18) | 73 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 74 | ہر چیز حسب حال اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ | 4 | 658 |
| 75 | أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ (حج: 65) | 4 | 692 |
| 76 | وَيُتْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ (حج: 65) آسمان کو اللہ کے حکم نے گرنے سے روک رکھا ہے جب یہ حکم ہٹے گا تو آسمان زمین پر آ رہے گا۔ | 4 | 693 |
| 77 | قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ (مومنون: 86) عرش عظیم کی عظمت حدیث سے۔ | 5 | 34 |
| 78 | أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتْ ۗ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ (نور: 41) ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے جو حالی بھی ہے مقالی بھی۔ | 5 | 101 |
| 79 | أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (نمل: 62) اللہ کے سوا مشکلیں کون آسان کرتا ہے؟ یہ اللہ کے موجود و متصرف واحد ہونے کی دلیل ہے۔ | 5 | 265 |
| 80 | قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ (نمل: 65) علم غیب کے بارے میں سوال کا جواب۔ | 5 | 268 |
| 81 | وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَعَتْ كُلُّهُ ۗ (لقمان: 27) اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔ | 5 | 443 |
| 82 | إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ (زمر: 38) بندے کا ہر نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ | 6 | 143 |
| 83 | وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ (زمر: 67) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت منبر پر پڑھی تو منبر اسکے جلال سے لرزنے لگا۔ قریب تھا | 6 | 163 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 84 | کہ آپ نیچے گر جائیں۔ | 6 | 163 |
| 85 | لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ (شوری: 11) اللہ تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے پاک ہونا۔ | 6 | 272 |
| 86 | وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ (ق: 16) اللہ انسان کی شہ رگ سے زیادہ اسکے قریب ہے۔ | 6 | 546 |
| 87 | الرَّحْمَنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٢١﴾ (رحمان: 2,1) اسم رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی خاص ہے کسی دوسرے کے لیے نہیں بولا جاسکتا۔ | 6 | 639 |
| 88 | وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ (رحمان: 27) اللہ کے اسم ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ کی فضیلت۔ | 6 | 647 |
| 89 | هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴿٣﴾ (حدید: 3) اللہ کا اول و آخر اور ظاہر و باطن ہونا حدیث سے۔ | 6 | 680 |
| 90 | قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴿١﴾ (مجادلہ: 1) اللہ تعالیٰ خفیہ سے خفیہ آواز بھی سنتا ہے۔ | 7 | 2 |
| 91 | مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴿٧﴾ (مجادلہ: 7) اللہ ہر سرگوشی کا جاننے والا ہے۔ | 7 | 8 |
| 92 | هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴿٢٢﴾ (حشر: 22) اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ اور اسماء حسنیٰ۔ | 7 | 53 |
| 93 | وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ (اخلاص: 4) اللہ تعالیٰ کا جسم و جسمانیات سے پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کیلئے عرش پر استواء، ہاتھوں اور چہرے کا ذکر تشابہات میں سے ہے۔ | 7 | 573 |



اسماء اللہ الحسنیٰ

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 6 | 1 | اللہ | 1 |
| | | اللہ رب العزت کا اسم جلالت اللہ قرآن میں ستائیس سو ستائیس مرتبہ آیا ہے۔ اسم اللہ کے معارف۔ | |
| 97 | 1 | الرحمن | 2 |
| | | اللہ رب العزت کا اسم الرحمن قرآن میں پچاس مرتبہ آیا ہے۔ اسم الرحمن کی عظمت و فضیلت۔ | |
| 53 | 7 | الرحیم | 3 |
| | | اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک ایک سو دس مرتبہ آیا ہے۔ الرحمن اور الرحیم میں فرق۔ | |
| 53 | 7 | المَلِکُ | 4 |
| | | یہ اسم مبارک قرآن میں پانچ بار آیا ہے۔ جیسے فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِکُ الْحَقُّ (طہ: 114) (المومنون: 116) هُوَ اللَّهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ (حشر: 23) الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ (جمہ: 1) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ الْمَلِکِ النَّاسِ ۝ (الناس: 2) اسم الملک کی وسعت۔ | |
| 53 | 7 | القدوس | 5 |
| | | یہ اسم قرآن کریم میں دو بار آیا ہے۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ (حشر: 23) يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ (جم: 1) اسم قدوس کا مفہوم۔ | | |
| 6 | السلام | 7 | 53 |
| | اسم السلام کی وضاحت۔ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ (حشر: 23) | | |
| 7,8 | المؤمن المهيمن | 7 | 53 |
| | اسم المؤمن اور اسم المهيمن کی وضاحت۔ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ (حشر: 23) | | |
| 9 | العزیز | 7 | 53 |
| | یہ اسم مبارک قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے لیے اسی (80) بار آیا ہے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ (بقرہ: 129) | | |
| 11,10 | الجبار المتكبر | 7 | 53 |
| | الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ﴿٢٣﴾ (حشر: 23) اللہ کو الجبار اور المتکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ | | |
| 12 | الخالق | 7 | 54 |
| | یہ اسم مبارک قرآن میں آٹھ بار آیا ہے جیسے: خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ﴿١٠٢﴾ (انعام: 102) | | |
| 13 | البارئ | 7 | 54 |
| | یہ اسم مبارک قرآن پاک میں تین بار آیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ ﴿٥٤﴾ (بقرہ: 54) ذِكْمُ خَيْرٍ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴿٥٤﴾ (بقرہ: 54) | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| | | هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ (حشر: 24) الخالق اور البارئ میں کیا فرق ہے؟ | |
| 54 | 7 | المصوّر | 14 |
| | | اسم المصور کی عظمت: الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ (حشر: 24) | |
| 555 | 4 | الغفار | 15 |
| | | یہ اسم مبارک قرآن پاک میں پانچ بار آیا ہے جیسے: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ (طہ: 82) أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (زمر: 5) اسم الغفار کی عظمت۔ | |
| 37 | 4 | القہار | 16 |
| | | یہ اسم مبارک قرآن پاک میں چھ بار آیا ہے، جیسے: أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (یوسف: 39) وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (رعد: 16) اللہ کی شان قہاری۔ | |
| 11 | 2 | الوہاب | 17 |
| | | یہ اسم مبارک قرآن پاک میں تین بار آیا ہے جیسے: إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران: 8) (ص: 35) خَزَّابِئِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (ص: 9) | |
| 572 | 6 | الرزاق | 18 |
| | | إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (ذاریات: 58) | |
| 601 | 5 | الفتاح | 19 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ (سبا: 26) الفتاح کی وضاحت۔ | | |
| 20 | العلیم | | |
| | یہ اسم مبارک اللہ رب العزت کیلئے قرآن میں ایک سو ساٹھ بار آیا ہے۔ | | |
| 21 | القابض | 1 | 522 |
| | وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ﴿٢٤٥﴾ (بقرہ: 245) | | |
| 22 | الباسط | 4 | 343 |
| | إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴿٣٠﴾ (اسراء: 30) | | |
| 23 | الرافع | 4 | 92 |
| | اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴿٢﴾ (رعد: 2) | | |
| 25, 24 | المُعَزِّزُ الْمُدِلُّ | 2 | 31 |
| | وَتُعَزِّزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ ﴿٢٦﴾ (آل عمران: 26) وہ کیسا المعز اور المذل ہے؟ | | |
| 26 | السمیع | | |
| | یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنا لیس (47) بار آیا ہے۔ | | |
| 27 | البصیر | | |
| | یہ اسم اللہ جل جلالہ کے لیے اڑتالیس (48) مرتبہ آیا ہے۔ | | |
| 28 | الحکم | 3 | 46 |
| | إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴿٥٧﴾ (انعام: 57) | | |
| 29 | العدل | 7 | 342 |
| | فَسَوِّدْكَ فَعَدَلْكَ ﴿٣﴾ (انفطار: 3) | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 91 | 3 | اللطف | 30 |
| | | یہ اسم پانچ بار آیا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (انعام: 103) | |
| 464 | 6 | الخبیر | 31 |
| | | یہ اسم قرآن میں اللہ تعالیٰ کیلئے چھتالیس (46) بار آیا ہے جیسے: بَلْ كَانِ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ (نح: 11) | |
| 183 | 2 | العلیم | 32 |
| | | یہ اسم تیرہ (13) بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے جیسے: إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (آل عمران: 155) | |
| 546 | 1 | العظیم | 33 |
| | | یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں چھ بار آیا ہے جیسے: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (بقرہ: 255) | |
| | | الغفور | 34 |
| | | یہ اسم قرآن مجید میں بانویں 92 بار آیا ہے۔ | |
| | | الشکور | 35 |
| | | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں چار بار آیا ہے جیسے: إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر: 30) إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (فاطر: 34) إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (شوری: 23) وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن: 17) | |
| 546 | 1 | العلیُّ | 36 |
| | | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے نو بار آیا ہے جیسے: | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (بقرہ: 255) | | |
| 37 | الکبیر | 4 | 691 |
| | یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں سات بار آیا ہے جیسے: وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (حج: 62) | | |
| 38 | الحمیظ | | |
| | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں تین بار ہے جیسے: إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (حود: 57) وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (سبا: 21) اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ (شوری: 6) | | |
| 39 | المقیمت | 2 | 388 |
| | وَ كَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمَتًا (نساء: 85) | | |
| 40 | الحسب | 2 | 389 |
| | یہ اسم قرآن مجید میں تین بار آیا ہے جیسے: وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا (نساء: 6) (احزاب: 39) إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (نساء: 86) اللہ تعالیٰ سلام کا جواب نہ دینے والے کا بھی حساب لے گا | | |
| 41 | الجلیل | 6 | 646 |
| | يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (رحمان: 27) | | |
| 42 | الکریم | 7 | 343 |
| | یہ اسم تین بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوا ہے۔ جیسے: مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (انفطار: 6) وہ کیسا رب کریم ہے؟ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 672 | 2 | الرقیب | 43 |
| | | یہ تین بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ جیسے كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (مائدہ: 117) | |
| 410 | 1 | المجیب | 44 |
| | | أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (بقرہ: 186) | |
| 546 | 1 | الواسع | 45 |
| | | وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (بقرہ: 255) | |
| | | الحکیم | 46 |
| | | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں 94 بار آیا ہے۔ | |
| 661 | 3 | الودود | 47 |
| | | یہ اسم قرآن مجید میں دو بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (ہود: 90) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (بروج: 14) اللہ کیسا ودود ہے؟ | |
| 372 | 7 | المجید | 48 |
| | | ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (بروج: 15) ذوالعرش اور المجید ہونے کا مفہوم۔ | |
| 28 | 3 | الباعث | 49 |
| | | وَالْمَوْتِ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ (انعام: 36) | |
| 311 | 2 | الشہید | 50 |
| | | یہ اسم قرآن مجید میں بیس بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ جیسے: | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ (نساء: 33) | | |
| 51 | الحق | 3 | 51 |
| | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے چھ بار آیا ہے۔ جیسے: ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ (انعام: 62) | | |
| 52 | الوكيل | 6 | 157 |
| | یہ اسم اللہ رب العزت کے لیے چودہ بار قرآن میں آیا ہے۔ جیسے: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (زمر: 62) | | |
| 53 | القوي | 3 | 646 |
| | یہ اسم قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے چھ بار آیا ہے۔ جیسے: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (هود: 66) | | |
| 54 | المتين | 6 | 572 |
| | إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ (ذاریات: 58) اللہ کو المتین کہنے کا مفہوم۔ | | |
| 55 | الولي | 1 | 553 |
| | یہ اسم اثباتاً و سلباً 20 بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ جیسے: اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا (بقرہ: 257) | | |
| 56 | الحميد | 4 | 691 |
| | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے سترہ بار آیا ہے۔ جیسے: إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (ج: 64) | | |
| 57 | المحصى | 7 | 242 |
| | وَ أَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (جن: 28) | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | اسم المحصى کی وسعت۔ | |
| 371 | 7 | المُبْدِئُ المَعِيدُ | 59،58 |
| | | إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (بروج:13) | |
| 411 | 5 | المُحْيِي | 60 |
| | | إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى (روم:50) | |
| 31 | 5 | المُصِثُ | 61 |
| | | وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (مومنون:80) | |
| 548 | 1 | الحَيُّ | 62 |
| | | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے پانچ بار آیا ہے۔ جیسے: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (بقرہ:255) | |
| 548 | 1 | الْقَيُّومُ | 63 |
| | | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں تین بار آیا ہے۔ جیسے اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (بقرہ:255) (آل عمران:2) وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (طہ:111) | |
| 98 | 6 | الوَاحِدُ | 64 |
| | | إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا (ص:44) | |
| | | الْمَاجِدُ | 65 |
| | | سبحان ذي المجد و الكرم (ترذی کتاب الدعوات باب 30) | |
| 167 | 4 | الوَاحِدُ | 66 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | یہ اسم اللہ رب العزت کے لیے بیس بار آیا ہے۔ جیسے: وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (ابراہیم: 48) | | |
| 67 | الاحد | 7 | 573 |
| | قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (اخلاص: 1) اسم الاحد کی عظمت۔ | | |
| 68 | الصمد | 7 | 573 |
| | اللَّهُ الصَّمَدُ (اخلاص: 2) الصمد کی وضاحت | | |
| 69 | القادر | 3 | 55 |
| | یہ اسم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے سات بار آیا ہے۔ جیسے: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ (انعام: 65) | | |
| 70 | المقتدر | | |
| | یہ اسم قرآن مجید میں تین بار آیا ہے۔ جیسے: فَأَخَذْنَاهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ (قر: 42) وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (کہف: 45) عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ (قر: 55) | | |
| 71 | المقدم | 3 | 534 |
| | أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (یونس: 2) | | |
| 72 | المؤخر | 3 | 666 |
| | وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ (هود: 104) | | |
| 74,73 | الاول — الآخر — الظاهر — الباطن | 6 | 679 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (حدید:3) | 76,75 |
| | | اللہ کے الاول، الآخر، الظاہر اور الباطن ہونے کی وضاحت حدیث نبوی سے | |
| 305 | 3 | الوالی | 77 |
| | | وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (اعراف:196) | |
| 571 | 4 | المتعالی | 78 |
| | | فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ (طہ:114) | |
| 581 | 6 | البر | 79 |
| | | إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (طور:28) | |
| | | اسم البر کا مفہوم | |
| 212 | 1 | التَّوَابِ | 80 |
| | | یہ اسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے 11 بار آیا ہے۔ جیسے: | |
| | | إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُّ الرَّحِيمُ (بقرہ:54) | |
| 461 | 5 | المنتقم | 81 |
| | | إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (سجدہ:22) | |
| 690 | 4 | العَفْوُ | 82 |
| | | یہ اسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے پانچ بار آیا ہے۔ جیسے: | |
| | | إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (حج:60) | |
| | | اللہ رب العزت کی شان عفو۔ | |
| 449 | 1 | الرَّءُوفِ | 83 |
| | | یہ اسم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں گیارہ بار آیا ہے۔ جیسے | |
| | | وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ (بقرہ:207) | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 84 | مالک الملک | 2 | 31 |
| | قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ (آل عمران: 26) | | |
| 85 | ذوالجلال والاکرام | 6 | 656 |
| | تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾ (رحمن: 78) اسم ذوالجلال والاکرام کی فضیلت حدیث سے | | |
| 86 | المقسط | 3 | 167 |
| | قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (اعراف: 29) | | |
| 87 | الجامع | | |
| | یہ اسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے دوبار آیا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ (آل عمران: 9) إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ (نساء: 140) | | |
| 88 | الغنی | 1 | 572 |
| | یہ اسم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے 17 بار آیا ہے۔ جیسے: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَسِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (بقرہ: 267) | | |
| 89 | المغنی | 3 | 416 |
| | فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (توبہ: 28) اللہ رب العزت کیسا المغنی ہے؟ | | |
| 90 | المعطي | 7 | 442 |
| | وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾ (ضحیٰ: 5) | | |
| 91 | المانع | | |
| | وَلَا مُعْطَىٰ لِمَا مَنَعَتْ (علم کتاب الصلوٰۃ حدیث: 205) | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 464 | 6 | الضار — النافع | 93,92 |
| | | قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا (تخ: 11) ہر نفع اور ہر ضرر حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ | |
| 93 | 5 | النور | 94 |
| | | اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (نور: 35) اللہ تعالیٰ کا خود کو نور فرمانے کا معنی۔ | |
| 683 | 4 | الہادی | 95 |
| | | وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ح: 54) | |
| 301 | 1 | البديع | 96 |
| | | یہ اسم قرآن مجید میں دو بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے۔ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (بقرہ: 117) (انعام: 101) البديع کا مفہوم۔ | |
| 646 | 6 | الباقي | 97 |
| | | وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ (رحمن: 27) اللہ کا الباقي ہونا کیسا ہے؟ | |
| 183 | 4 | الوارث | 98 |
| | | وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (حجر: 23) | |
| 405 | 4 | الرشيد | 99 |
| | | وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا (کہف: 10) | |
| | | الصبور | 100 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان لله تسعۃ و تسعین اسماء، اللہ الصبور (ترمذی کتاب الدعوات باب 82) لیس احدٌ اصبر علی اذی سمعه من اللہ (بخاری کتاب الادب باب 70) | |

دلائل توحید خداوندی

ارض و سما میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 169 | 1 | فَسَوَّيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (بقرہ: 29) آسمان موجود ہے۔ | 1 |
| 4 | 3 | خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (انعام: 1) ہر جگہ آسمان کے لیے صیغہ جمع اور زمین کے لیے صیغہ واحد بولا گیا۔ | 2 |
| 86 | 3 | وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا (انعام: 96) شمسی و قمری دونوں نظام الاوقات درست ہیں دونوں کو سمجھنا چاہیے۔ | 3 |
| 86 | 3 | وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ستاروں کے بغیر آج بھی سمندری سفر ممکن نہیں۔ (انعام: 97) | 4 |
| 191 | 3 | خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (اعراف: 54) آسمان و زمین کا چھ دنوں میں بننا، اس کا مطلب کیا ہے؟ | 5 |
| 429 | 3 | إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ (براءت: 36) سال کے بارہ ہی مہینے ہیں۔ | 6 |
| 538 | 3 | هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا --- وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا | 7 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ (یونس: 5) چاند کی منازل کی تفصیل۔ | | |
| 8 | قرآن مجید کتاب سائنس بھی ہے۔ علم فلکیات مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ | 3 | 538 |
| 9 | اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا (رعد: 2) وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى (رعد: 2) کوئی رب ہے جو نظام شمس و قمر کو چلا رہا ہے تو وہ اللہ کے سوا کون ہے؟ | 4 | 92 |
| 10 | وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا (رعد: 3) زمین پر پہاڑ رکھے گئے تاکہ زمین پانی کی حرکت سے لرزتی نہ رہے۔ | 4 | 93 |
| 11 | وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ (حجر: 16) آسمانی بارہ بروج کی تفصیل۔ | 4 | 180 |
| 12 | وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (نحل: 12) دن رات، سورج چاند اور تارے اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ | 4 | 214 |
| 13 | وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ————— وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ (بنی اسرائیل: 12) نظام شب و روز ایسا مضبوط و مربوط ہے کہ ہزار ہا برس سے درست آرہا ہے ایک منٹ کا بھی فرق نہیں۔ جو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اللہ ہی چلا رہا ہے۔ | 4 | 326 |
| 14 | أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (انبیاء: 30) (Big Bang) تھیوری کو اگر حکم الہی سے مانا جائے تو وہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ | 4 | 603 |
| 15 | مذہب اور سائنس میں فرق؟ | 4 | 603 |
| 16 | وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٣﴾ (انبیاء: 33) سب سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور ہر سیارے کا مدار کیا ہے؟ | 4 | 605 |
| 17 | قرآن کتاب سائنس بھی ہے۔ | 4 | 606 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 18 | أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا (نور: 43) بادلوں سے مینہ کیسے برسایا جاتا ہے یہ قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ | 5 | 101 |
| 19 | فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ (نور: 43) اللہ بادلوں کو جدھر چاہے لیجاتا ہے۔ یہ اسکی توحید پر عظیم دلالت ہے۔ | 5 | 101 |
| 20 | يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (نور: 44) دن رات کے آنے جانے میں وجود باری تعالیٰ کی عظیم دلیل ہے۔ | 5 | 102 |
| 21 | أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ (فرقان: 45) سلسلہ شب و روز اللہ رب العزت کی عظیم قدرت اور اسکی نشانی ہے۔ | 5 | 157 |
| 22 | تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا (فرقان: 61) آسمانی بروج کی تفصیل۔ | 5 | 163 |
| 23 | وَمِن آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ (روم: 25) زمین کی گردش کی تفصیل سائنس کی روشنی میں، آخر یہ گردش کون دے رہا ہے؟ | 5 | 398 |
| 24 | وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ (یس: 38) سورج کا حجم کتنا بڑا ہے سائنس کی روشنی میں۔ سورج کا چلنا اور عرش کے نیچے سجدہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ | 6 | 16 |
| 25 | وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ (یس: 39) چاند کی گردش کی سائنسی تشریح اور منازل قمر کی تفصیل۔ | 6 | 18 |
| 26 | وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (صافات: 5) مشرق، مغرب، مشرقین و مغربین اور مشرق و مغارب میں کیا فرق ہے؟ | 6 | 38 |
| 27 | يُنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (ملک: 4) نظام کائنات میں کہیں کوئی خرابی نہیں۔ آخر یہ خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ | 7 | 59 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | زمین میں نشانہائے قدرت | | |
| 28 | هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا (ملک: 15) اگر اللہ رب العزت زمین کو لوہے کی طرح سخت بنا دیتا تو انسان اس پر جی نہ سکتا۔ | 7 | 163 |
| 29 | إِنْ أَصْبَحَ مَاءٌ وَكُمُ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ (ملک: 30) اگر زمین کا پانی نیچے اتر جائے تو اسے اللہ کے سوا کون اوپر لاسکتا ہے؟ | 7 | 167 |
| 30 | وَمَا تَحْتِ الثَّرَى (طہ: 6) انسان کے قدموں کے نیچے گیلی مٹی کی تہہ کیوں بچھائی گئی؟ | 4 | 523 |
| | نباتات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں | | |
| 31 | فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا (نمل: 60) پانی سے باغات کا لہلہانا وحدت الوہیت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ | 5 | 264 |
| 32 | وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (یس: 34) زمین میں چشموں کا نکلنا بھی عظیم نشان قدرت ہے۔ | 6 | 15 |
| 33 | فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (رحمن: 11-12) نباتات اور پھولوں پھلوں میں اللہ کی قدرتیں اس کے وجود اور اسکی توحید پر دال ہیں۔ | 6 | 642 |
| 34 | وَالزَّيْتُونَ (التین: 1) انجیر اور زیتون کی اہمیت و فضیلت۔ | 7 | 469 |
| 35 | فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَّتْرًا كَبِيرًا (انعام: 99) دانوں کی حفاظت کے قدرتی ذرائع۔ | 3 | 88 |
| 36 | وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ (انعام: 99) کھجور کے درخت کی زالی شان۔ | 3 | 88 |
| 37 | وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ (انعام: 99) | 3 | 89 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|--------|---|-----------|
| | | پھل بظاہر ایک جیسے ہیں مگر ذائقے جدا گانہ، یہ نشان قدرت ہے۔ | |
| 89 | 3 | أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ (انعام: 99) پھل کس طرح آہستہ آہستہ پک کر تیار ہوتا ہے اور اس میں مٹھاس کون بھرتا ہے؟ | 38 |
| 122 | 3 | وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ (انعام: 141) پھلوں کے مختلف رنگ اور ذائقے کس نے بنائے؟ | 39 |
| 196 | 3 | وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ (اعراف: 58) کوئی زمین شاداب ہے کوئی بخر ہے۔ | 40 |
| 94 | 4 | وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنَوَانٍ وَغَيْرِ صِنَوَانٍ يُسْقَىٰ بِبِئَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ (رعد: 4) درختوں کی رنگارنگی اور پھلوں کے مختلف حجم اور ذائقے بتاتے ہیں کہ کوئی رب ہے جس نے یہ اختلاف بنایا ہے۔ | 41 |
| 152 | 4 | كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (ابراہیم: 24) درخت کھجور کی فضیلت حدیث سے | 42 |
| 182 | 4 | وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ (حجر: 19) تمام پھل خاص موسم میں ایک اندازے کے مطابق پیدا کیے جاتے ہیں اور ہر درخت کی ایک عمر رکھی گئی ہے۔ | 43 |
| 540 13 | 4 5 | فَأَخْرَجْنَا بِهَآزِوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (طہ: 53) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحٍ كَثِيرَةٌ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ (مومنون: 19) زمین سے اُگنے والے درختوں، پودوں، پھلوں اور بوٹیوں کی رنگارنگی بتاتی ہے کہ کوئی رب ہے جو یہ سب کچھ اُگاتا ہے۔ | 44 |
| 14 | 5 | وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ (مومنون: 20) | 45 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|--------|------------|
| | درخت زیتون کی فضیلت حدیث سے۔ | | |
| | سمندروں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں | | |
| 46 | وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا (نمل: 61) دو سمندروں کا باہم ملنا اور خلط نہ ہونا عظیم نشانِ توحید ہے۔ | 5 | 265 |
| 47 | أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ (لقمان: 31) سَخَّرَ لَكُمْ الْفُلُكَ لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَ سَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (ابراہیم: 32) وہ کونسی طاقت ہے جو ہزاروں ٹن وزنی بحری جہازوں کو سمندر میں غرق نہیں ہونے دیتی؟ | 5 4 | 444 157 |
| 48 | وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا (نمل: 14) انسان سمندر کی تہہ سے ہیرے موتی نکالتا ہے۔ اور مچھلیوں کی شکل میں انسان کیلئے ایسی لذیذ غذا کس نے بنائی؟ | 4 | 215 |
| 49 | وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۗ (شوری: 32-33) پہاڑوں جیسے بحری جہازوں کا سمندروں پہ چلنا اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ | 6 | 293 |
| 50 | مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۗ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۗ (رحمن: 19-20) دو سمندروں کا باہم اکٹھے بہنا اور خلط نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ | 6 | 645 |
| 51 | وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۗ (رحمن: 24) پہاڑوں کی طرح بلند بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہیں ڈوبتے نہیں، یہ عظیم آیت قدرت ہے۔ | 6 | 645 |
| | پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں | | |
| 52 | وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ (انبیاء: 31) اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پانی کی حرکت سے زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی یا لرزتی رہتی۔ | 4 | 604 |
| 53 | وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (انبیاء: 31) | 4 | 604 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| | پھاڑ دیواروں کی طرح اٹھائے گئے بلکہ ان میں راستے رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کا ادھر ادھر آنا جانا بند نہ ہو۔ | | |
| 54 | وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ (لقمان: 10) زمین پر پہاڑوں کا رکھنا، زمین کو زلزلوں سے بچانے کے لیے ہے۔ | 5 | 432 |
| 55 | وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيبُ سُودٌ (ناظر: 27) پہاڑوں میں رنگوں کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے۔ | 5 | 633 |
| حیوانات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں | | | |
| 56 | وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ (مائدہ: 4) کتے کو جب سکھا دیا جائے تو وہ خواہش کے باوجود شکار میں سے کچھ نہیں کھاتا۔ | 2 | 522 |
| 57 | فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ (مائدہ: 31) کوئے کے ذریعے پہلے مرنے والے انسان کی تدفین سکھائی گئی۔ | 2 | 567 |
| 58 | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ (انعام: 38) روز قیامت جانوروں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ | 3 | 32 |
| 59 | وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَ فَرَشَاتٌ (انعام: 142) جانوروں میں سے کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے کوئی نہیں۔ یہ فرق کون بناتا ہے۔ | 3 | 123 |
| 60 | وَ الْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَ مَنَافِعُ (نحل: 5) جانوروں میں انسان کے لیے کیا کیا فوائد ہیں؟ | 4 | 210 |
| 61 | جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم۔ | 4 | 211 |
| 62 | وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّرِبِ ۖ ﴿٦٦﴾ (نحل: 66) جانوروں میں سے دودھ کا پیدا ہونا اللہ رب العزت کی عظیم شان قدرت ہے۔ | 4 | 242 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 15 | 5 | وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢١﴾ (مومنون: 21-22) وجود باری تعالیٰ کی قوی تردلیل۔ | 63 |
| 250 | 4 | وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ (نحل: 68-69) مکھی کے پیٹ سے شہد جیسا لذیذ ترین مشروب نکالنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ | 64 |
| 260 | 4 | الْمُيَرُوا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۗ مَا يَتَسَكَّنْنَ إِلَّا اللَّهَ ۗ (نحل: 79) پرندوں کا اڑنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ | 65 |
| 104 | 5 | فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۗ (نور: 45) کوئی جانور کیسے چلتا ہے، کوئی کیسے؟ یہ بھی وجود صانع و باری کی دلیل ہے۔ | 66 |
| 246 | 5 | وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ ۗ (نمل: 20) ہد ہد پرندے کی فضیلت و افادیت۔ | 67 |
| 365 | 5 | مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۗ (عنکبوت: 41) مکڑی کی مثال اور حقیقت دنیا۔ | 68 |
| 31 | 6 | وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ (يس: 72) جانوروں کو کس نے انسان کے تابع کیا؟ | 69 |
| 164 | 7 | أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ (ملک: 19) پرندوں کو ہوا میں کس نے روکا ہوا ہے؟ وہ صرف رحمن ہے۔ | 70 |
| 392 | 7 | أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ (غاشیہ: 17) اونٹ کے میجر العقول خصال بتاتے ہیں کہ کوئی خالق ہے اور وہ اللہ کے سوا کون ہے؟ | 71 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | خود انسان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت کی نشانیاں | | |
| 72 | هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (آل عمران: 6) | 2 | 6 |
| | اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اور اربوں کھربوں شکلیں ماؤں کے رحموں میں بنائی ہیں، کوئی انسان دوسرے انسان کی شکل پر نہیں بنایا۔ یہ دلیل ہے کہ کوئی رب ہے جو یہ شکلیں بنا رہا ہے۔ | | |
| 73 | وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنْتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ (روم: 22) | 5 | 397 |
| | انسانوں کی مختلف بولیاں اور مختلف رنگ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ آخر یہ بولیاں کس نے بنائیں؟ | | |
| 74 | اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً (روم: 54) | 5 | 418 |
| | انسان میں ضعف سے قوت پھر قوت سے ضعف اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ | | |
| 75 | ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ - وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ (سجده: 8-9) | 5 | 454 |
| | پانی کے چند قطروں کو سمیع و بصیر انسان بنا دینا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ | | |
| 76 | سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (احم سجده: 53) | 6 | 262 |
| | عالم کبیر اور عالم صغیر کی وضاحت۔ | | |
| 77 | يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْثَاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَ إِنْثَاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً (شوری: 50) | 6 | 303 |
| | ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق اولاد کیوں حاصل نہیں کر لیتا؟ اللہ ہی جسے جو چاہے دے یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ | | |
| 78 | وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَةٌ (جاثیہ: 4) | 6 | 373 |
| | انسان کے وجود میں توحید ربانی کی بعض دلیلیں۔ | | |
| 79 | بَلَىٰ قَدَرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (قیامہ: 4) | 7 | 271 |
| | اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی انگلیوں کی لکیں (فنگر پرنٹ) دوسرے تمام انسانوں سے۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | مختلف بنائی ہیں۔ تو اس سے بڑا انا و مدبر کون ہو سکتا ہے؟ | |
| 271 | 7 | الْم نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿٩﴾ وَ لِسَانًا وَ شَفَتَيْنِ ﴿٨﴾ (بلد: 8-9) آنکھوں، زباں اور ہونٹوں میں اللہ رب العزت کی قدرتیں۔ | 80 |

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

محمد رسول اللہ ﷺ

- [1] مکمل سیرت النبی ﷺ ولادت سے وصال تک نسب مبارک کی طہارت۔
بچپن۔ جوانی۔ بعثت۔ مکی دور۔ ہجرت۔ مدنی زندگی۔ غزوات۔ وصال۔
- [2] اسماء النبی ﷺ۔
- [3] علم مصطفیٰ ﷺ۔
- [4] نورانیت مصطفیٰ ﷺ۔
- [5] آپ کا حاضر و ناظر ہونا۔
- [6] افضلیت مصطفیٰ ﷺ بر سائر انبیاء علیہم السلام۔
- [7] خصائص مصطفیٰ ﷺ۔
- [8] فضائل مصطفیٰ ﷺ۔
- [9] معجزات مصطفیٰ ﷺ۔
- [10] اخلاق مصطفیٰ ﷺ۔
- [11] حقوق مصطفیٰ ﷺ۔

سیرۃ النبی ﷺ

زندگانی مصطفیٰ ﷺ ولادت سے وصال تک

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | نسب مبارک کی طہارت | | |
| 1 | وَتَقَلَّبَكَ فِي السُّجْدَيْنِ ﴿٢١٩﴾ (شعراء: 219) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں و تقلبک من نبی الی نبی | 5 | 225 |
| | طہارت نسب رسول ﷺ احادیث صحیحہ سے | 5 | 225 |
| 2 | وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ (زخرف: 28) نسل ابراہیمی میں کلمہ اسلام ہمیشہ باقی رہا، ایمان آباء رسول ﷺ۔ | 6 | 323 |
| 3 | لَا يَلِفُ قُرَيْشٌ ﴿١﴾ الْفِهْمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ (قریش: 1) حضرت ہاشم بن عبدمناف کا ذکر خیر اور قریش کا تعارف۔ | 7 | 534 |
| | بچپن | | |
| 4 | أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ﴿٦﴾ (ضحیٰ: 6) بچپن میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم و تکریم کا عالم اور آپ پہ رحمتوں کی برسات۔ | 7 | 451 |
| 5 | رسول اللہ ﷺ کو یتیم پیدا کیے جانے کی حکمتیں۔ | 7 | 452 |
| | جوانی | | |
| 6 | فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ﴿١٦﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ (یونس: 16) یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ آقا ﷺ کی جوانی عظمت کردار کی نشانی ہے۔ اور دشمنوں کو بھی اس میں اعتراض کی کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ | 3 | 546 |
| 7 | وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ (قصص: 86) | 5 | 338 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | اس آیت کے تحت یہ تحقیق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس سے قبل اپنی نبوت کا علم تھا۔ | | |
| | | | |
| 8 | يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱﴾ قُمْ إِلَيْنَا يَا قَلِيلًا ﴿۱﴾ (مزل: 1) آغاز نزول وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا: ذَمِّلُونِي | 7 | 244 |
| 9 | إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي النَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ (مزل: 20) آغاز بعثت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر طویل قیام السیل فرض تھا جو سال بھر رہا پھر اسے منسوخ کر کے بصورت تہجد نفل بنا دیا گیا۔ | 7 | 254 |
| 10 | اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿۱﴾ (علق: 1) جب یہ وحی اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا بقاری کیوں فرمایا؟ | 7 | 477 |
| 11 | پہلی وحی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرانا اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانا کیوں تھا؟ | 7 | 478 |
| 12 | أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿۱﴾ (فیل: 1) ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پچاس دن قبل ہونے والے واقعہ فیل کی تفصیل۔ | 7 | 530 |
| 13 | تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿۱﴾ (لہب: 1) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وعظ مبارک اور ابو لہب کی گستاخی۔ | 7 | 566 |
| 14 | وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۱﴾ (شعرا: 214) آغاز اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قبیلہ کو دعوت اسلام دینا۔ | 5 | 222 |
| 15 | رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے قبل اپنی نبوت کا علم تھا، احادیث کی روشنی میں | 4 | 489 |
| 16 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی نبی ہونا۔ | 4 | 490 |
| | | | |
| 17 | قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ (نساء: 77) مکی دور میں جہاد کا فرض نہ کیا جانا۔ | 2 | 376 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 628 | 2 | وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ (مائدہ: 83) سن بعثت 5 میں حبشہ کے عیسائی علماء کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر رونا اور ایمان لانا۔ | 18 |
| 8 | 3 | وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ (انعام: 7) کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہوئی کتاب کا نزول مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ | 19 |
| 13 | 3 | قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (انعام: 14) کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ قریش کے آباء و اجداد کے دین پر چلو۔ | 20 |
| 17 | 3 | قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ (انعام: 19) کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہمیں کوئی معقول آدمی آپ کی گواہی دیتا نظر نہیں آتا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ | 21 |
| 21 | 3 | وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ (انعام: 25) کفار مکہ کا چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننا۔ | 22 |
| 103 | 4 | وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ (رعد: 13) ایک منکر کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کرنا اور اس پر بجلی کا گرنا۔ | 23 |
| 30 | 3 | وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ (انعام: 37) (رعد: 27) کفار مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے من پسند فرمائی معجزے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار۔ | 24 |
| 29 | 3 | کیا نبی سے معجزہ کا ظہور اسکے اختیار کے بغیر ہوتا ہے؟ | 25 |
| 40 | 3 | وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (انعام: 52) جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اپنے پاس سے غریب و نادار صحابہ کو اٹھا دیں تاکہ ہم بیٹھیں۔ | 26 |
| 44 | 3 | وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (انعام: 53) جب کفار مکہ نے کہا ہم اس شرط پر ایمان لائیں گے کہ نماز میں ہم اگلی صف میں کھڑے ہونگے۔ | 27 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 28 | لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (انعام: 92) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیوں معبود کیا گیا (کیونکہ وہ زمین کا سنتر ہے اسکے دلائل۔ | 3 | 79 |
| 29 | جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا (انعام: 109) جب کفار نے مکہ نے سوال کیا کہ کوہ صفا کو سونا بنا دیا جائے۔ | 3 | 97 |
| 30 | وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى (انعام: 111) کفار مکہ کا مطالبہ کہ اگر قصی بن کلاب زندہ ہو کر آئیں اور گواہی دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ | 3 | 98 |
| 31 | أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ (اعراف: 184) جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعوتِ اسلام کے لیے پکارتے رہے حتیٰ کہ کفار نے مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسکا جواب دیا۔ | 3 | 293 |
| 32 | قَالُوا قَدْ سَبَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا (انفال: 31) نضر بن حارث کا کہنا کہ قرآن جیسے قصے میں بھی سنا سکتا ہوں۔ | 3 | 342 |
| 33 | وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ (انفال: 32) کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا طلب کرنا۔ | 3 | 343 |
| 34 | أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ (یونس: 15) کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنا کہ کوئی قرآن لاؤ جس میں لات و عزیٰ کی برائی نہ ہو۔ | 3 | 545 |
| 35 | وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى (رعد: 31) کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین فرمائی معجزے مانگنا۔ | 4 | 119 |
| 36 | وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (حجر: 6) کفار مکہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہہ کر آپ کی دل آزاری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ | 4 | 172 |
| 37 | قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (نحل: 24) | 4 | 221 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 37 | نضر بن حارث نے کہا قرآن چند قصے کہانیوں کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ | 4 | 221 |
| 38 | وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ (نمل: 103) کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کوئی آدمی یہ قرآن سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ | 4 | 276 |
| 39 | وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿٤٥﴾ (بنی اسرائیل: 45) جب ام جمیل زوجہ ابولہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سے حملہ آور ہوئی مگر آپ کو دیکھ نہ سکی۔ | 4 | 352 |
| 40 | وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل: 85) جب کفار مکہ نے یہود کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت روح، اصحاب اور شاہ ذی القرنین کے بارے میں سوال کیا اور صداقت محمدیہ ظاہر ہوئی۔ | 4 | 383 |
| 41 | وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۖ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ (بنی اسرائیل: 90-94) جب کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف فرمائشی معجزات مانگے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ | 4 | 387 |
| 42 | وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٤﴾ (بنی اسرائیل: 94) کفار مکہ کا کہنا کہ رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا جواب۔ | 4 | 389 |
| 43 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴿٥٢﴾ (حج: 52) کیا مکہ میں کسی موقع پر شیطان نے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کفریہ کلمات جاری کر دیے تھے؟ | 4 | 684 |
| 44 | ان روایات کے بطلان پر قرآنی دلائل۔ | 4 | 685 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 45 | اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (حج: 75) یہ آیت تب اتری جب کفار مکہ نے کہا ہم سب کو چھوڑ کر محمد پر ہی ذکر کیوں اُتارا گیا ہے؟ | 4 | 697 |
| 46 | وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آفِكُ افْتَرَاهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ (فرقان: 4) کفار مکہ کا کہنا کہ یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض یہودی سکھاتے ہیں اور اسکا جواب۔ | 5 | 136 |
| 47 | وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمشِي فِي الْأَسْوَاقِ (فرقان: 7) کفار مکہ کا یہ شبہ کہ یہ رسول تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے۔ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ | 5 | 137 |
| 48 | لَوْ لَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ نُورًا رِيبًا (فرقان: 21) کفار مکہ کا کہنا ہم فرشتہ وحی کو کیوں نہیں دیکھ سکتے یا خود رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ (درمیان میں نبی کی کیا ضرورت ہے؟) | 5 | 145 |
| 49 | يُؤَيِّلَتِي لِيَتَنِي لَمْ آتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (فرقان: 28) اس آیت کے تحت یہ ذکر کہ عقبہ بن ابی معیط نے کس طرح گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور برباد ہوا۔ | 5 | 148 |
| 50 | وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا (قصص: 53) اس آیت کا شاہ نجاشی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے اُترنا۔ | 5 | 317 |
| 51 | إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (قصص: 56) بقول امام قرطبی اجماع مفسرین ہے کہ یہ آیت ابوطالب کے بارے میں اُتری۔ | 5 | 318 |
| 52 | إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلًا (سج: 8) یہ آیات تب اتریں جب ابو جہل اور اسکے ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ | 5 | 651 |
| 53 | قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُوتِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (زمر: 64) جب کفار مکہ نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے پر ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو (معاذ اللہ)۔ | 6 | 158 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | ہجرت | | |
| 63 | وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ (انفال: 30) | 3 | 340 |
| | شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت۔ | | |
| 64 | أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (انفال: 72) | 3 | 382 |
| | ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے مابین مواخات کا قیام۔ | | |
| 65 | إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (براءت: 40) | 3 | 433 |
| | سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں پناہ لینا۔ | | |
| 66 | وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا (نحل: 41) | 4 | 229 |
| | مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت بزبان رب العزت۔ | | |
| 67 | فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ (نحل: 112) | 4 | 284 |
| | ہجرت کے بعد مکہ والوں پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ | | |
| 68 | إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ (قصص: 85) | 5 | 336 |
| | سفر ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یاد وطن میں تڑپتا اور اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں آپ سے وعدہ فرمانا کہ اللہ آپ کو واپس وطن میں ضرور لایگا۔ | | |
| 69 | كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ (سورہ محمد: 13) | 6 | 437 |
| | یہ آیت تب اتری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے اسکی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی۔ | | |
| | مدنی زندگی | | |
| | منافقین کی جماعت کا پیدا ہونا | | |
| 70 | کیا آج اعتقادی منافقین پائے جاسکتے ہیں؟ | 1 | 147 |
| 71 | يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَاكُمُ إِلَى الطَّاغُوتِ (نساء: 60) | 2 | 351 |
| | منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کا ہن سے فیصلہ کروانا۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 423 | 2 | وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿۱۰۵﴾ (نساء: 105) | 72 |
| | | منافقین میں سے طعمہ بن ابیرق کا چوری کرنا اور اسکے اہل قبیلہ منافقین کا اسے بچانے کی کوشش کرنا۔ | |
| 448 | 3 | وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴿۵۸﴾ (براءت: 58) | 73 |
| | | منافقین کا رسول اللہ ﷺ کی تقسیم غنائم کو غیر عادلانہ کہنا۔ | |
| 457 | 3 | وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ﴿۶۱﴾ (براءت: 61) | 74 |
| | | نبی اکرم ﷺ کی شان میں منافقین کی گستاخیاں۔ | |
| | | مسجد قبا کی تعمیر (بحری 1) | |
| 504 | 3 | لَسَجْدٌ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ﴿۱۰۸﴾ (توبہ: 108) | 75 |
| | | ہجرت کے فوراً بعد مدینہ طیبہ میں پہلی مسجد مسجد قبا تھی جو بنائی گئی، نیز مسجد قبا کی فضیلت۔ | |
| | | مہاجرین و انصار کے درمیان عقد مواخات کا قیام (بحری 1) | |
| 382 | 3 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴿۷۲﴾ (انفال: 72) | 76 |
| | | جب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان عقد مواخات قائم کیا گیا اور انہیں ایک دوسرے کا وارث بنایا گیا۔ | |
| | | تحويل قبلہ (بحری 2) | |
| 339 | 1 | سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمْ ﴿۱۴۲﴾ (بقرہ: 142) | 77 |
| | | رضائے رسول ﷺ کیلئے اللہ تعالیٰ کا قبلہ کو تبدیل کرنا۔ | |
| 351 | 1 | وَلِكُلِّ وَّجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيُهَا ﴿۱۴۸﴾ (بقرہ: 148) | 78 |
| | | تحويل قبلہ پر اعتراضات کے جوابات۔ تحويل قبلہ کن مقاصد کے تحت کی گئی۔ | |
| | | غزوة بنی نضیر (بحری 2) | |
| 539 | 2 | إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴿۱۱﴾ (مائدہ: 11) | 79 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 79 | یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کرنا۔ | 2 | 539 |
| 80 | لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (انفال: 27) حضرت ابولبابہ کا واقعہ۔ | 3 | 338 |
| 81 | هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ یہود بنی نضیر کے مدینہ طیبہ سے اخراج کا واقعہ۔ (حشر: 2) | 7 | 26 |
| 82 | يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ (حشر: 2) یہود بنی نضیر اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کرنے لگے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آسکیں۔ | 7 | 28 |
| 83 | وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (حشر: 2) اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کے دلوں میں رعب ڈالا اور وہ مدینہ طیبہ سے نکل گئے۔ | 7 | 26 |
| 84 | مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً (حشر: 5) جب بنو نضیر کے نخل ہائے عجوہ کاٹے گئے۔ | 7 | 28 |
| 85 | لَيْنٍ أُخْرِجْتُمْ لِنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطْبِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا (حشر: 11) منافقین کا یہود بنی نضیر سے کہنا کہ مدینہ مت چھوڑو ڈٹے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ | 7 | 47 |
| | عزروہ بنو قینقاع کا ذکر (بحری: 2) | | |
| 86 | كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ (حشر: 15) یہود بنو قینقاع کی بد عہدی اور انکا مدینہ طیبہ سے اخراج۔ | 7 | 48 |
| | عزروہ بنو کادکر (بحری: 2) | | |
| 87 | قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَّتَابُؤِ (آل عمران: 13) بدر میں کفار کو مسلمانوں کی تعداد دو گنا دکھائی گئی۔ | 2 | 15 |
| 88 | وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ (آل عمران: 123) جب بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتے اتارے گئے۔ | 2 | 147 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 318 | 3 | کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ (انفال: 5) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے لیے جانا۔ | 89 |
| 319 | 3 | وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ (انفال: 7) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصل میں ایک تجارتی قافلہ پکڑنے نکلے تھے۔ | 90 |
| 320 | 3 | غزوہ بدر کے وقوع کے کیا اسباب ہوئے؟ | 91 |
| 322 | 3 | إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ (انفال: 9) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز جنگ سے قبل رو کر دعا فرمانا اے اللہ! اگر یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو کبھی تیری عبادت نہ ہوگی (از کتب شیعہ)۔ | 92 |
| 324 | 3 | إِذْ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ (انفال: 11) بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اونگھ کا طاری ہونا۔ | 93 |
| 324 | 3 | وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (انفال: 11) بدر میں جنگ سے قبل بارانِ رحمت کا نزول۔ | 94 |
| 325 | 3 | إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ يَمَعَكُمْ (انفال: 12) بدر میں فرشتوں کے قتل کی کیفیت۔ | 95 |
| 328 | 3 | وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (انفال: 17) بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار پر کنکریاں پھینکنا۔ | 96 |
| 330 | 3 | إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ (انفال: 19) ابو جہل کی دعاء اور بدر میں اسکا انجام۔ | 97 |
| 331 | 3 | بدر میں ابو جہل کی موت کا منظر۔ | 98 |
| 346 | 3 | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (انفال: 36) مسلمانوں سے جنگی مقابلہ کے لیے کفار مکہ کا مال اکٹھا کرنا۔ | 99 |
| 351 | 3 | يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَبْعِنِ (انفال: 41) | 100 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------------|--|-----|-----------|
| 100 | یوم الفرقان (یوم بدر) کی کچھ تفصیلات۔ | 3 | 351 |
| 101 | اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا (انفال: 43) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بدر میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی۔ | 3 | 353 |
| 102 | وَ اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ التَّقِيْتُمْ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا (انفال: 44) جب کفار کو مومنوں کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی۔ | 3 | 353 |
| 103 | وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا (انفال: 47) کفار مکہ کا بدر میں اترتے ہوئے آنا۔ | 3 | 357 |
| 104 | وَ اِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِيْثَتَيْنِ نَكَّصَ عَلٰى عَقْبَيْهِ (انفال: 48) بدر میں شیطان کفار کے ساتھ آیا اور فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ | 3 | 358 |
| 105 | اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هُوْلَاءِ دِيْنُهُمْ (انفال: 49) منافقوں کا اہل بدر کا مذاق اڑانا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ | 3 | 359 |
| 106 | مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى (انفال: 67) اسیران بدر سے فدیہ لینے پر اللہ رب العزت کا اظہار ناپسندیدگی۔ | 3 | 378 |
| 107 | لَوْ لَا كَتَبَ مِنْ اللّٰهِ سَبَقَ (انفال: 68) اہل بدر کے لیے وعدہ بخشش (ازکتب شیعہ)۔ | 3 | 378 |
| 108 | اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا اِیُّوْتِكُمْ خَيْرًا (انفال: 70) اس آیت کا اسیران بدر میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اترنا۔ | 3 | 380 |
| غزوہ احد کا ذکر (بجری 3) | | | |
| 109 | وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ (آل عمران: 121) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ پہن کر احد کے لیے نکلنا۔ | 2 | 144 |
| 110 | حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ پہن کر نکلنا اعجازی شان کے ساتھ تھا۔ | 2 | 145 |
| 111 | وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا (آل عمران: 139) | 2 | 160 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 111 | احد میں جنگ کا پانسہ پلٹنا اور صحابہ پر شدید تکلیف کا آنا۔ | 2 | 160 |
| 112 | أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ط (آل عمران: 144) جب غزوہ احد میں افواہ پھیلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ | 2 | 164 |
| 113 | یہ افواہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ | 2 | 165 |
| 114 | سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ (آل عمران: 151) احد میں کفار پہ دوبار رعب ڈالا گیا۔ | 2 | 174 |
| 115 | وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ط (آل عمران: 152) احد میں مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی۔ | 2 | 175 |
| 116 | ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا (آل عمران: 154) مسلمانوں پر احد میں اونگھ طاری کی گئی۔ | 2 | 180 |
| 117 | وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ (آل عمران: 153) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں ایک لمحہ کے لیے بھی تنہا نہیں ہوئے۔ | 2 | 178 |
| 118 | يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط (آل عمران: 154) احد میں آنے والے دو تین منافقوں کا خوف سے بُرا حال۔ | 2 | 181 |
| 119 | لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا (آل عمران: 156) احد میں منافقین کا کہنا اگر مسلمان ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ | 2 | 186 |
| 120 | لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ ط (آل عمران: 167) احد میں منافقین کا منافقانہ کردار۔ | 2 | 204 |
| 121 | وَأَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ط (سورہ محمد: 11) یہ آیت تب اتری جب غزوہ احد کے آخر میں ابوسفیان نے کہا لانا العزی ولا عزی لکم اسکے جواب میں کہا گیا اللہ مولانا ولا مولی لکم۔ | 6 | 435 |
| | غزوہ حمراء الاسد (بجری 3) | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 122 | الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (آل عمران: 172) احد کے بعد زخمی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حمراء الاسد تک کفار کا تعاقب کرنا۔ | 2 | 212 |
| 123 | وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران: 173) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس غزوہ میں جذبہ ایمانی۔ | 2 | 215 |
| | غزوہ بدر صغریٰ کا ذکر (بحری 3) | | |
| 124 | فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ (آل عمران: 174) اس غزوہ میں مسلمانوں کی فتح۔ | 2 | 217 |
| | غزوہ احزاب کا ذکر (بحری 5) | | |
| 125 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ (احزاب: 9) غزوہ احزاب کب ہوا اور اس کے کیا اسباب تھے؟ | 5 | 479 |
| 126 | ہوا کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی۔ | 5 | 480 |
| 127 | مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (احزاب: 12) غزوہ احزاب کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و ایران اور یمن کی فتوحات کی بشارات دیں۔ | 5 | 482 |
| 128 | قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا (احزاب: 18) غزوہ احزاب میں منافقین کا شرمناک کردار۔ غزوہ احزاب کا مختصر نقشہ احوال۔ | 5 | 486 |
| | غزوہ بنی قریظہ کا ذکر (بحری 5) | | |
| 129 | وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (احزاب: 26) غزوہ بنو قریظہ کا مختصر واقعہ۔ | 5 | 495 |
| | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے ایلاء فرمانا | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------------------------------|-----|--|-----------|
| 496 | 5 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسْرِحْكِ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿٢٨﴾ (احزاب: 28) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے زیورات مانگے تو آپ نے ان سے ایک ماہ علیحدگی فرمائی۔ | 130 |
| 138 | 7 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴿١﴾ (تحریم: 1) اس آیت کا نزول واقعہ ایلاء کا سبب بنا۔ حدیث بخاری | 131 |
| غزوہ حدیبیہ کا ذکر (جری 6) | | | |
| 647 | 2 | لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ (مائدہ: 94) سفر حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شکار سے رکنے کی آزمائش۔ | 132 |
| 399 | 3 | إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿٧﴾ (براءت: 7) یہ معاہدہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ | 133 |
| 452 | 6 | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ (فتح: 1) صلح حدیبیہ کو فتحِ مبین کیوں کہا گیا؟ | 134 |
| 462 | 6 | إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴿١٠﴾ (فتح: 10) بیعتِ حدیبیہ کا سبب کیا تھا اور کن حالات میں ہوئی؟ | 135 |
| 464 | 6 | سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا ﴿١١﴾ (فتح: 11) سفر حدیبیہ میں کوئی منافق شامل نہ ہو اور سب پیچھے رہ گئے۔ | 136 |
| 472 | 6 | لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿١٨﴾ (فتح: 18) جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کی افواہ پر ان کے بدلہ کے لیے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعتِ رضوان ہوئی، اسکے کچھ احوال۔ | 137 |
| 479 | 6 | وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ﴿٢٤﴾ (فتح: 24) حدیبیہ میں کفار کا مسلمانوں پہ حملہ اور مسلمانوں کا انہیں گرفتار کر لینا۔ | 138 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------------------------|---|-----|-----------|
| 139 | وَالْهَدَىٰ مَعَكُمْ فَأَنْ يَبْلُغَ مَجَلَّةً (ن: 25) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں جانور ساتھ کیوں لے کر گئے تھے؟ | 6 | 482 |
| غزوہ خیبر کا ذکر (بجری 7) | | | |
| 140 | سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا (ن: 15) اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ سے واپسی پر فتح خیبر اور مال غنیمت کا وعدہ فرمایا تو منافقین بھی غزوہ خیبر کے لیے تیار ہو گئے مگر انہیں روک دیا گیا۔ | 6 | 468 |
| 141 | وَإِثَابَهُمْ فَتَحَّا قَرِيْبًا (ن: 18) غزوہ خیبر میں فتح کی پیش گوئی پہلے ہو چکی تھی۔ | 6 | 471 |
| 142 | وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ (ن: 20) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی خیبر کے بعد ایک قوم نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال کر انہیں روکا۔ | 6 | 478 |
| غزوہ بنی مصطلق (بجری 5) | | | |
| 143 | وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ (مائدہ: 6) اس آیت کا غزوہ مصطلق سے واپسی پر نازل ہونا، اس کا واقعہ۔ | 2 | 533 |
| 144 | إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِأِلْفِكِ عَصَبَةٌ مِّنْكُمْ (نور: 11) غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر راستہ میں منافقین کا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت رکھنا۔ | 5 | 56 |
| 145 | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسِهِمْ (منافقون: 5) غزوہ بنی مصطلق میں عبداللہ بنی ابی منافق کا گستاخانہ کردار۔ | 7 | 103 |
| 146 | يَقُولُونَ لَيْسَ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذَلَّ (منافقون: 8) غزوہ بنی مصطلق میں عبداللہ بن ابی کا کہنا عزت والے ذیلیوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ | 7 | 104 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | عمرة القضا کا ذکر (بجری 7) | | |
| 147 | قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (بقرہ: 190) راہِ خدا میں جہاد کا حکم۔ | 1 | 426 |
| 148 | لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينِينَ (فتح: 27) اس آیت میں مذکور خواب کے تحت نبی اکرم ﷺ کا عمرہ قضا کے لیے جانا۔ | 6 | 483 |
| | فتح مکہ کا ذکر (بجری 8) | | |
| 149 | تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ (ممتحنہ: 1) فتح مکہ سے قبل حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا کفار مکہ کو خط لکھنے کی غلطی کرنا۔ | 7 | 58 |
| 150 | عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوَدَّةً (ممتحنہ: 7) یہ آیت فتح کی بشارت دیتی ہے۔ | 7 | 62 |
| 151 | إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (نصر: 1) فتح مکہ کب اور کیسے ہوئی اور اسکے کیا اثرات ہوئے؟ | 7 | 561 |
| | غزوہ حنین (بجری 8) | | |
| 152 | وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمْ (براءت: 25) غزوہ حنین میں مسلمانوں کا اپنی کثرت پہ ناز کرنا اور مشکل میں آنا۔ | 3 | |
| 153 | غزوہ حنین کا مختصر نقشہ۔ | 3 | 413 |
| 154 | غزوہ حنین میں حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی قربانی۔ | 3 | 414 |
| | وفد نصاریٰ نجران کی آمد (بجری 9) | | |
| 155 | فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ (آل عمران: 61) وفد نجران کو دعوتِ مہابہ۔ | 2 | 74 |
| 156 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ | 3 | 431 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------|---|-----|-----------|
| 156 | إِلَى الْأَرْضِ ط (براءت: 38) اس آیت میں مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کی ترغیب دی گئی۔ | 3 | 431 |
| 158 | لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَ سَفَرًا قاصِدًا لَا تَبْعُوكَ وَ لَكِن بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ (براءت: 42) منافقین کا حیلے بہانے کر کے غزوہ تبوک سے رہ جانا۔ | 3 | 439 |
| 159 | عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (براءت: 43) منافقین کا سفر تبوک سے بہانے بنانا اور اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی فرمانا۔ | 3 | 440 |
| 160 | إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (براءت: 50) منافقین کا تمنا رکھنا کہ مسلمان غزوہ تبوک میں رومی کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہوں اور بعد میں انکی شدید مایوسی کا بیان۔ | 3 | 445 |
| 161 | وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ (براءت: 54) منافقین کا سفر تبوک میں شامل ہونے کی بجائے مال پیش کرنا اور وہ ان سے قبول نہ کیا جانا۔ | 3 | 447 |
| غزوہ تبوک (بجری 9) | | | |
| 162 | يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ (براءت: 74) سفر تبوک میں بارہ منافقین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش۔ | 3 | 469 |
| 163 | ان بارہ منافقین کے نام، ولدیت قبیلہ از حدیث۔ | 3 | 469 |
| 164 | وَ قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ط (براءت: 81) غزوہ تبوک میں شرکت سے منافقین کا انکار اور گرمی کا بہانہ بنانا۔ | 3 | 478 |
| 165 | وَ آخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا (براءت: 102) غزوہ تبوک سے رہ جانے والے دس میں سے سات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لینا اور ان کو معاف کیا جانا۔ | 3 | 499 |
| 166 | وَ آخِرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ (براءت: 106) | 3 | 501 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 166 | غزوہ تبوک سے رہ جانے والے دس میں سے تین صحابہ رضی اللہ عنہم کا معاملہ مؤخر کیا گیا۔ | 3 | 501 |
| 167 | الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (براءت: 117) غزوہ تبوک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مالی و جانی قربانیاں۔ | 3 | 516 |
| 168 | وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلْفُوا ۗ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ (براءت: 118) غزوہ تبوک سے رہ جانے والے تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم الشان قبولیت توبہ۔ | 3 | 519 |
| سن بجزی 9 میں منافقین کا مسجد ضرار بنانا | | | |
| 169 | وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا (براءت: 107) منافقین کے مسجد ضرار بنانے کا واقعہ۔ | 3 | 502 |
| سن بجزی 9 میں عبد اللہ بن ابی ابن سلول کی موت اور منافقین کا خاتمہ | | | |
| 170 | اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ (براءت: 80) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اللہ بن ابی کے کفن میں اپنی قمیص ڈالنا۔ | 3 | 476 |
| 171 | وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدَا ۚ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ (براءت: 84) یہ آیت عبد اللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائے جانے کے بعد فوراً نازل ہوئی۔ | 3 | 480 |
| بجزی 9 کا حج اور مشرکین کا جزیرہ عرب سے اخراج | | | |
| 172 | فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (براءت: 2) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر الحج بنایا جانا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اعلان براءت فرمانا۔ | 3 | 390 |
| حجۃ الوداع اور اعلان تکمیل دین | | | |
| 173 | الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (مائدہ: 3) | 2 | 515 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 173 | امت محمدیہ کیلئے تکمیل دین کا اعلان۔ | 2 | 515 |
| 174 | اس اعلان کا عظیم پس منظر۔ | 2 | 515 |
| 175 | تکمیل دین کے تین معانی۔ | 2 | 515 |
| | وصال نبوی کے اشارے | | |
| 176 | اَفَايْنُ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ (آل عمران: 144) اس آیت کا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کی راہنمائی کرنا۔ | 2 | 164 |
| 177 | اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (نصر: 1) | 7 | 563 |

اسماء النبی ﷺ وَالْاٰلِ وَتَلَمَّ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سب سے زیادہ قابل تعریف) | | |
| | وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ (آل عمران: 144) اسم محمد کے معارف۔ | 2 | 166 |
| | مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَّ (احزاب: 40) | 5 | 520 |
| | وَاٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ (محمد: 2) معارف اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 6 | 427 |
| | مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (ت: 29) نام محمد اور نام احمد میں فرق۔ | 6 | 488 |
| | نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایمان افروز خصوصیات۔ | 6 | 490 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| | | احمد <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> (سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کہنے والے) | 2 |
| 77 | 7 | وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (ص:6) | |
| | | نام احمد <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی فضیلت۔ | |
| 77 | 7 | نام محمد اور احمد میں فرق۔ | |
| | | الانسان الكامل <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> (ہر لحاظ سے کامل انسان) | 3 |
| 640 | 6 | خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (رحمن:3-4) | |
| | | حضرت عبداللہ بن عباس <small>رضی اللہ عنہما</small> کے نزدیک یہاں انسان سے محمد مصطفیٰ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> مراد ہیں۔ | |
| 640 | 6 | رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کو انسان کا نام کیوں عطا فرمایا گیا؟ | |
| | | اول المسلمین <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> (سب سے پہلے مسلمان) | 4 |
| 141 | 3 | وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (انعام:163) | |
| | | نبی اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کس طرح اول المسلمین ہیں۔ | |
| | | أحب الناس <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> (سب انسانوں سے زیادہ محبوب) | 5 |
| 410 | 3 | قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا (توبہ:24) | |
| | | جب تک تمام انسانوں سے بڑھ کر نبی اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے محبت نہ ہو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ احادیث | |
| | | امین <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> (امانت والے) | 6 |
| 338 | 7 | مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ (تکویر:21) | |
| | | اکثر اجلہ مفسرین نے اس آیت کو رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی صفات پر مشتمل قرار دیا ہے۔ | |
| | | أذن خیر <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> (بھلائی سننے والے) | 7 |
| 457 | 3 | قُلْ أذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ (توبہ:61) | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|--|-----------|
| | یعنی آپ عیوب سن کر پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ | | |
| 8 | أُمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (جمہوں نے اللہ کے سوا کسی سے نہ پڑھا) | | |
| 261 | 3 | الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (اعراف: 157) | |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنے کے تین معانی۔ | | |
| 9 | أُولَى الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مومنوں کیلئے انکی جانوں سے قریب تر) | | |
| 474 | 5 | النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (احزاب: 6) | |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کیلئے اولیٰ قرار دینے کے تین معانی۔ | | |
| 10 | بَشِيرًا وَنَذِيرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بشارت سنانے والے) | | |
| 302 | 1 | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (ناظر: 24) (بقرہ: 119) | |
| 11 | بَشِيرًا وَنَذِيرًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (کاملی دلیل) | | |
| 496 | 7 | حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (بنہ: 1) | |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت الوہیت کی دلیل ہیں۔ | | |
| 12 | بُرْهَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خود بخود برہان کی سب سے بڑی دلیل) | | |
| 496 | 2 | يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرًا بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ (نساء: 174) | |
| | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین معانی میں اللہ رب العزت کی برہان ہیں۔ | | |
| 13 | جَوَادِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بہت سخی) | | |
| 343 | 4 | وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ (اسراء: 29) | |
| 14 | حَسَنًا وَجَمَالًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حسن و جمال والے) | | |
| 343 | 7 | وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (ضحیٰ: 1) | |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثال حسن و جمال احادیث سے۔ | | |
| 15 | حَقًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سچے رسول) | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 105 | 2 | وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ (آل عمران: 86) | |
| | | حاکم علیہ السلام (حکومت والے) | 16 |
| 361 | 2 | فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (نساء: 65) | |
| | | جو شخص ہر معاملہ میں آپ کو حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ | |
| | | حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے محبوب) | 17 |
| 38 | 2 | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: 31) | |
| | | آپ اللہ کے ایسے حبیب ہیں کہ جو آپ کی اتباع کرے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ۔ | |
| | | حریص (علیکم) صلی اللہ علیہ وسلم (بخشش امت کے شدید متنبی) | 18 |
| 527 | 3 | حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (توبہ: 128) | |
| | | آپ کو امت کی بخشش کا کس قدر فکر تھا۔ | |
| | | حیی صلی اللہ علیہ وسلم (حیا والے) | 19 |
| 555 | 5 | إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِ مِنْكُمْ (احزاب: 53) | |
| | | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حیا والے ہیں۔ | |
| | | حافظ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم (حافظ قرآن) | 20 |
| 383 | 7 | سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ (اعلیٰ: 6) | |
| | | جسکو اللہ خود قرآن سکھائے وہ کیسے بھول سکتا ہے اور اس سے مضبوط تر حافظ قرآن کون ہو سکتا ہے سو اس کے اللہ کچھ منسوخ کر دے۔ | |
| | | خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم | 21 |
| 522 | 5 | مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (احزاب: 40) | |
| | | خاتم النبیین کی تفسیر اور اس میں معنوی تحریف کا جواب۔ | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | داعی رسول اللہ ﷺ (اللہ کی طرف دعوت دینے والے) | 22 |
| 295 | 4 | أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (نحل: 125) | |
| 546 | 5 | وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ (احزاب: 46) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حکیمانہ دعوت حق دیتے تھے؟ | |
| | | ذو مکانہ رسول اللہ ﷺ (عظمت والے) | 23 |
| | | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں اس قدر و منزلت کے حامل ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں نام لے کر نہیں پکارا آپ کی صفات عالیہ کے ساتھ پکارا ہے۔ اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے۔ | |
| | | ذو فضل عظیم رسول اللہ ﷺ (صاحب فضل عظیم) | 24 |
| 427 | 2 | وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (نساء: 113) اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ | |
| | | ذی قوۃ رسول اللہ ﷺ (قوت والے) | 25 |
| 338 | 7 | ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (نکویر: 20) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی قوت ہونے کی تشریح | |
| | | ذکر اللہ رسول اللہ ﷺ (اللہ کا ذکر) | 26 |
| 133 | 7 | قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ وَرَسُولًا لِيُنزِلَ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ (طلاق: 11) | |
| | | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے رسول) | 27 |
| 487 | 6 | مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ (نح: 29) جب صلح حدیبیہ میں لفظ رسول اللہ کٹوا یا گیا تو آپ کے دل پہ غم آیا اللہ نے قرآن میں اتارا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تاکہ وہ عربوں کا غم دور لکھا جائے۔ | |
| | | رسول جمیع الناس صلی اللہ علیہ وسلم (تمام انسانوں کے لیے رسول) | 28 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (اعراف: 158) | 3 | 268 |
| 29 | رَأَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اللہ کے دیدار پانے والے) | | |
| | وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ (تکویر: 23) | 7 | 340 |
| | بقول حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش سے اوپر جا کر اللہ کا دیدار حاصل کیا۔ | | |
| | مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿١١﴾ --- مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٢﴾ (نجم: 11) | 6 | 598 |
| 31,30 | رءوفٌ --- رحيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مہربان رحم فرمانے والے) | | |
| | بِالْمُؤْمِنِينَ رءوفٌ رَحِيمٌ (توبہ: 128) | 3 | 527 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے لیے عمومی اور مومنوں کے لیے خصوصی رحمت کا بیان۔ | | |
| 32 | رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت) | | |
| | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ (انبیاء: 107) | 4 | 641 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن وجوہ سے تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ | | |
| 33 | زَاهِدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (دنیا سے بے رغبت) | | |
| | لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (طہ: 131) | 4 | 583 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و ترک دنیا کا حال۔ | | |
| 34 | سِرَاحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (آفتاب نبوت) | | |
| | وَسِرَاحًا مِّنِيرًا ﴿٤٦﴾ (احزاب: 46) | 5 | 547 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دینے کی چار وجوہ۔ | | |
| 35 | شَجَاعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بہادر) | | |
| | وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ (آل عمران: 153) | 2 | 178 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|---|-----------|
| | رسول اللہ ﷺ ساری امت سے بہادر ہیں۔ | | |
| 36 | صاحب اللہ ﷺ (گواہ) | | |
| 342 | 1 | وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ (بقرہ: 143) | 342 |
| | نبی اکرم ﷺ امت کے اعمال پر گواہ ہیں۔ | | |
| 37 | صاحب اللہ ﷺ (صبر فرماتے والے) | | |
| 426 | 4 | وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ (کہف: 28) | 426 |
| 38 | صاحب اللہ ﷺ (سچے) | | |
| 138 | 6 | وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ (زمر: 33) | 138 |
| 39 | صاحب المقام محمود ﷺ (مقام محمود کے مالک) | | |
| 376 | 4 | عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ (اسراء: 79) | 376 |
| | نبی اکرم ﷺ کے مقام محمود کی وضاحت۔ | | |
| 40 | صاحب الاسراء والمعراج ﷺ (اسراء و معراج کی شان والے) | | |
| 299 | 4 | سُبْحٰنَ الَّذِي اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (اسراء: 1) | 299 |
| | معجزہ معراج مصطفیٰ ﷺ | | |
| 41 | صاحب الدرجۃ الرفیعۃ ﷺ (بلند درجہ والے) | | |
| 540 | 1 | وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ (بقرہ: 253) | 540 |
| | باجماع مفسرین اس میں رفعت درجہ رسول اللہ ﷺ کا بیان ہے اور آپ کی افضلیت کے دلائل۔ | | |
| 42 | صاحب الاسوۃ الحسنۃ ﷺ (اسوۃ حسنہ کے مالک) | | |
| 488 | 5 | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: 21) | 488 |
| | نبی اکرم ﷺ کے اسوۃ حسنہ کی تشریح۔ | | |
| 43 | صاحب الخلق العظیم ﷺ (خلق عظیم کے مالک) | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 171 | 7 | وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ (قلم/ن:4) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کی وضاحت۔ | |
| | | صاحب العزۃ صلی اللہ علیہ وسلم (عزت والے) | 44 |
| 104 | 7 | وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (منافقون:8) | |
| | | صاحب الفتح المبین صلی اللہ علیہ وسلم (فتح مبین والے) | 45 |
| 452 | 6 | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ (فتح:1) فتح مبین کی وضاحت۔ | |
| | | صاحب الکوثر صلی اللہ علیہ وسلم (مالک کوثر) | 46 |
| 543 | 7 | إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ ﴿١﴾ (کوثر:1) کوثر کے دس معانی۔ | |
| | | طہ صلی اللہ علیہ وسلم (طہ) | 47 |
| 521 | 4 | طه ﴿١﴾ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿١﴾ (طہ:1) بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا معنی محبوب ہے۔ | |
| | | طیب صلی اللہ علیہ وسلم (پاکیزہ) | 48 |
| 72 | 5 | الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ﴿٢٦﴾ (نور:26) | |
| | | عاف صلی اللہ علیہ وسلم (معاف فرمانے والے) | 49 |
| 546 | 2 | وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿١٥﴾ (مائدہ:15) | |
| | | عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے بندہ خاص) | 50 |
| 299 | 4 | سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ﴿١﴾ (اسراء:1) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عبدیت۔ | |
| | | قائم اللیل صلی اللہ علیہ وسلم (شب زندہ دار) | 51 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | ان رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي النَّيْلِ (مزل: 20) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل قیام اللیل حتی کہ پاؤں مبارک کا متورم ہو جانا۔ | 7 | 254 |
| 52 | قاری القرآن صلی اللہ علیہ وسلم (قرآن کی تلاوت فرمانے والے) | | |
| | اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (علق: 1) | 7 | 476 |
| | وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (اسراء: 45) | 4 | 352 |
| 53 | کریم صلی اللہ علیہ وسلم (صاحب عزت و کرامت) | | |
| | إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (مکویر: 19) رسول اللہ کی کرامت و وجاہت۔ | 7 | 338 |
| 54 | مزمّل صلی اللہ علیہ وسلم (چادر اوڑھنے والے) | | |
| | يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الْيَلِ (مزل: 1) | 7 | 244 |
| 55 | مدثر صلی اللہ علیہ وسلم (کھلی والے) | | |
| | يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (مدثر: 1) | 7 | 258 |
| 56 | مبشّر صلی اللہ علیہ وسلم (بشارت دینے والے) | | |
| | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا (احزاب: 45) | 5 | 543 |
| 57 | منصور صلی اللہ علیہ وسلم (مدد یافتہ) | | |
| | لَتُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (آل عمران: 81) تمام انبیاء کو آپ کی مدد کا حکم فرمایا گیا اور عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت میں آپ کی مدد کیلئے آئیں گے۔ | 2 | 96 |
| 58 | مذکر صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کی یاد دلانے والے) | | |
| | فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (غاشیہ: 21) | 7 | 39 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 59 | مُنذِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عذاب سے ڈرانے والے) | | |
| 104 | قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ (ص: 65) | 6 | 104 |
| 221 | وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (شعراء: 214) | 5 | 221 |
| 5 | لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ (س: 6) | 6 | 5 |
| 60 | مَهْدِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ہدایت یافتہ) | | |
| 453 | وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (نحی: 7) | 7 | 453 |
| 61 | مُعَلِّمُ الْقُرْآنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قرآن کے سکھانے والے) | | |
| 203 | وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران: 164) | 2 | 203 |
| 62 | مُنِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (روشن کرنے والے) | | |
| 547 | وَسِرَاجًا مُنِيرًا (احزاب: 46) | 5 | 547 |
| 63 | مُزَكِّيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اخلاق کے پاکیزہ کرنے والے) | | |
| 202 | وَيُزَكِّيهِمْ (آل عمران: 164) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ مَزَكِّيَّت - | 2 | 202 |
| 64 | مُخْتَارٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صاحب اختیار/ چنے ہوئے) | | |
| | اگر اسے بمعنی فاعل لیا جائے تو اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا ہے آپ کی حکومت ارض و سما پہ جاری کی ہے آپ احکام میں بھی مختار ہیں اور اگر بمعنی مفعول لیا جائے تو آپ اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں۔ | | |
| 65 | مُصْطَفَىٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (پسندیدہ) | | |
| 697 | اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (حج: 75) | 4 | 697 |
| 66 | مَعْرُوفٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (پہچانے ہوئے) | | |
| 350 | يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ (بقرہ: 146) | 1 | 350 |


| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | تورات و انجیل میں آپ کا مکمل حلیہ مذکور تھا۔ | | |
| 67 | مستغفر من الذنوب (امت کے لیے ملنگار بخش) | | |
| 355 | 3 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ (نساء: 64) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے در دولت پر آنے والوں کی جھولیاں مغفرت سے بھر رہے ہیں۔ | | |
| 68 | مکین صلی اللہ علیہ وسلم (مذکورہ منزلت والے) | | |
| 339 | 7 عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ (تکویر: 20) | | |
| 69 | مشروع الصدق صلی اللہ علیہ وسلم (حکایت کھولا گیا ہے) | | |
| 461 | 7 اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ (اشراخ: 1) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کے تین معانی۔ | | |
| 70 | مطلع صلی اللہ علیہ وسلم (حکایت اطاعت واجب ہے) | | |
| 339 | 7 مَطَّاعٍ (تکویر: 21) | | |
| 71 | مستغفر من الذنوب (اللہ کے بڑھائے ہوئے) | | |
| 428 | 2 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ﴿١١٣﴾ (نساء: 113) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محیط۔ | | |
| 72 | مطلع صلی اللہ علیہ وسلم (بیخام الہی کے بچانے والے) | | |
| 613 | 2 يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴿٦٧﴾ (مائدہ: 67) آپ پر کس علم کی تبلیغ ضروری تھی کس کی نہیں۔ | | |
| 73 | مطلع الغیب صلی اللہ علیہ وسلم (غیب بر مطلع) | | |
| 221 | 2 مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿١٧٩﴾ (آل عمران: 179) اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کے کیا کیا خزانے کھولے۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| | | مؤمن من رسولہ ﷺ (ایمان والے) | 74 |
| 607 | 1 | أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ (بقرہ: 285) نبی کو اپنی وحی میں تردد نہیں ہو سکتا۔ | |
| | | مصدق من رسولہ ﷺ (انبیاء کی تصدیق کرنے والے) | 75 |
| 81 | 2 | ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ (آل عمران: 81) آپ کا مصدق انبیاء ہونا آپ کی شان ختم نبوت بتاتا ہے۔ | |
| | | معصوم من رسولہ ﷺ (اللہ کی طرف سے حفاظت یافتہ) | 76 |
| 612 | 2 | وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ ۗ (مائدہ: 67) اللہ نے کس طرح دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ | |
| | | متوكل من رسولہ ﷺ (اللہ پر بھروسہ کرنے والے) | 77 |
| 189 | 2 | فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾ (آل عمران: 159) | |
| | | متبع من رسولہ ﷺ (جنکی اتباع واجب ہے) | 78 |
| 39 | 2 | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران: 31) اتباع رسول ﷺ کے پانچ تقاضے۔ بغیر اتباع رسول ﷺ دعویٰ قرب خدا جھوٹ ہے۔ | |
| | | مبين من رسولہ ﷺ (بیان فرمانے والے) | 79 |
| 231 | 4 | لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل: 44) حضور ﷺ کے بیان کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ | |
| | | مصلیٰ علیہ من رسولہ ﷺ (جن پر رو رو پڑھا جاتا ہے) | 80 |
| 560 | 5 | إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ (احزاب: 56) | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کب سے جاری ہے اور کب تک رہے گا۔ | 5 | 560 |
| 81 | مُعَزَّرٌ صلی اللہ علیہ وسلم (جنکی تعظیم واجب ہے) | | |
| | فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ (اعراف: 157) تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ | 3 | 265 |
| 82 | مُسْتَجَابٌ صلی اللہ علیہ وسلم (جنکا حکم ماننا واجب ہے) | | |
| | اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (انفال: 24) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر لازم تھا کہ نماز توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں۔ | 3 | 334 |
| 83 | مُهَاجِرٌ (فی اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم (راہ حق میں ہجرت فرمانے والے) | | |
| | إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (براءت: 40) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سفر ہجرت۔ | 3 | 432 |
| 84 | مُجَاهِدٌ (فی اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم (اللہ کے لیے جہاد کرنے والے) | | |
| | يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (براءت: 73) | 3 | 467 |
| 85 | مُحَلُّ الطَّيِّبَاتِ صلی اللہ علیہ وسلم (عمرہ چیزوں کو حلال فرمانے والے) | | |
| | وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ (اعراف: 157) | 3 | 265 |
| 86 | مُحَرَّمٌ الخَبَائِثِ صلی اللہ علیہ وسلم (بری چیزوں کو حرام ٹھہرانے والے) | | |
| | وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (اعراف: 157) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محل الطیبات اور محرم الخبائث ہیں۔ | 3 | 265 |
| 87 | مَرْضِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم (جنکی رضا چاہی جائے) | | |
| | وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿٥﴾ (ضحیٰ: 5) | 7 | 447 |
| | فَلَنُوَلِّينَاكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (بقرہ: 144) اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ | 1 | 347 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 88 | مُبَشِّرٌ مِّنَ الرَّسُولِ (جنکی بشارت انبیاء دیتے رہے) | | |
| | وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (صف: 6) | 7 | 76 |
| 89 | مُتَمِّمٌ النِّعْمَةِ مِّنَ الرَّسُولِ (جن پر نعمت کی انتہا کی گئی) | | |
| | وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (ن: 2) | 6 | 457 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ہائے الہیہ کی تکمیل۔ | | |
| 90 | مَرْفُوعُ الذِّكْرِ مِّنَ الرَّسُولِ (جن کا ذکر بلند کیا گیا ہے) | | |
| | وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (انشریح: 4) | 7 | 464 |
| | اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا؟ | | |
| 91 | مکتوب فی التوراة والانجیل مِّنَ الرَّسُولِ (جنکی صورت تورات وانجیل میں لکھی ہے) | | |
| | الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (اعراف: 157) | 3 | 262 |
| | تورات میں آپ کا ذکر مبارک۔ | | |
| | انجیل میں آپ کا ذکر مبارک۔ | 3 | 263 |
| 92 | نِعْمَةُ اللَّهِ مِّنَ الرَّسُولِ (اللہ کی نعمت عظمیٰ) | | |
| | وَلَا تَمَنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا (بقرہ: 151) | 1 | 354 |
| | حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت تامہ ہیں۔ | | |
| 93 | نُورٌ مِّنَ الرَّسُولِ (سراپانور) | | |
| | قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ (مائدہ: 15) | 2 | 546 |
| | تمام ثقہ ائمہ مفسرین نے نور سے ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لی ہے۔ اور آپ کے نور ہونے کا بیان احادیث سے۔ | | |
| 94 | نَصِيرٌ مِّنَ الرَّسُولِ (مددگار) | | |
| | وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥٢﴾ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٥٣﴾ (نساء: 75) | 2 | 372 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|---|-----------|
| 95 | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (غیب کی خبریں دہانے والے) | | |
| | یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قرآن کریم میں چالیس بار آیا ہے۔ | | |
| 96 | نَادِیْكَ اللَّهُمَّ (برائی سے روکنے والے) | | |
| 260 | 3 | يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (اعراف: 157) | |
| 97 | نَذِيرٌ لِّلْعَالَمِينَ (اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے) | | |
| 543 | 5 | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ (احزاب: 45) | |
| 203 | 4 | وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْبَيِّنُ ﴿٨٩﴾ (حجر: 89) | |
| | | اس امتِ آخریں کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نذیر ہیں اور یہی معنی ختم نبوت ہے۔ | |
| 98 | هَادٍ لِّلْعَالَمِينَ (ہدایت عطا فرمانے والے) | | |
| 96 | 4 | إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ (رعد: 7) | |
| | | حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہر قوم کے ہادی ہیں یہ دلیل ختم نبوت ہے۔ | |
| 99 | رَوَّادٍ لِّلْعَالَمِينَ (دوگامات) | | |
| 602 | 2 | إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا (مائدہ: 55) | |
| 372 | 2 | وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ (نساء: 75) | |
| 100 | | وَالصَّالِحِينَ (امت سے بوجھ کو دور کرنے والے) | |
| 265 | 3 | وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ (اعراف: 157) | |
| | | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے بوجھ دور کر دیے۔ | |
| 101 | | سَيِّدٍ لِّلْعَالَمِينَ | |
| 3 | 6 | کثیر صحابہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب قرار دیا ہے۔ | |



علم مصطفیٰ ﷺ وَاللَّهُ وَتَسْمَعُ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | ذَلِكَ مِنَ الْأَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۗ (آل عمران: 44) نبی اکرم ﷺ کا علم غیب۔ | 2 | 55 |
| 2 | لَبَّرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ (آل عمران: 154) اس آیت کے تحت ابی بن خلف کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کی خبر غیب۔ | 2 | 183 |
| 3 | مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ (آل عمران: 179) آپ کے علم غیب پر منافقین کا اعتراض۔ | 2 | 221 |
| 4 | آپ کا علم غیب۔ | 2 | 222 |
| 5 | وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ (نساء: 64) نبی اکرم ﷺ زائرین کے احوال اور ارادوں سے واقف ہیں، اقوال ائمہ۔ | 2 | 355 |
| 6 | وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (نساء: 113) حضور سید عالم ﷺ کا علم محیط۔ | 2 | 428 |
| 7 | بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ (مائدہ: 67) آپ پر کس علم کا پہنچانا ضروری تھا کس کا نہیں۔ | 2 | 613 |
| 8 | حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلُ لَكُمْ ۗ (مائدہ: 101) وسعت علم مصطفیٰ ﷺ (کہ آپ سے جو پوچھا جاتا آپ جواب عطا فرماتے۔) | 2 | 654 |
| 9 | وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ (انعام: 59) علم لوح محفوظ علم مصطفیٰ ﷺ کا حصہ ہے۔ | 3 | 50 |
| 10 | وَكَذَلِكَ نُرِيٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ (انعام: 75) | 3 | 65 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 10 | حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ ارض و سما میں فرق؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو ہر وقت اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں۔ | 3 | 65 |
| 11 | إِنَّ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِيَّوتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ (انفال: 70) حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سنہری ہار کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غیب۔ | 3 | 380 |
| 12 | قَالَ لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تُرْزَقْنَاهُ إِلَّا نَبَأْتُكُمْ بَاتُوا وَيَلِيهِ (يوسف: 37) انبیاء کا علم غیب اور علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 4 | 35 |
| 13 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابراہیم: 4) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں لہذا ہر مخلوق کی زبان جانتے ہیں۔ اسی لیے ہر مخلوق کی فریاد سنتے ہیں۔ | 4 | 134 |
| 14 | وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (بنی اسرائیل: 85) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت سے واقف ہیں۔ | 4 | 384 |
| 15 | عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (نمل: 16) حضرت داؤد علیہ السلام کو صرف پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق کی بولی سکھائی گئی۔ | 4 | 239 |
| 16 | إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ (حم سجدہ: 47) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم قیامت کی نفی کی تردید۔ | 6 | 260 |
| 17 | وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ (سورہ محمد: 30) منافقین کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ | 6 | 446 |
| 18 | الرَّحْمَنُ ۗ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (رحمن: 1) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ | 6 | 639 |
| 19 | خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۗ عَلَيْهِ الْبَيَانُ (رحمن: 4) | 6 | 640 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 19 | اللہ نے آپ کو ماکان و مایکون کا علم عطا فرمایا، اقوال ائمہ سے۔ | 6 | 640 |
| 20 | عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿۲۰﴾ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ (جن: 26) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب رسول ہیں لہذا آپ کا علم غیب تمام انبیاء سے یعنی سب مخلوق سے زائد ہے۔ | 7 | 238 |
| نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر شبہات کا رد | | | |
| 21 | قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ (انعام: 50) اس آیت سے علم و اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا جواب۔ | 3 | 38 |
| 22 | قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ (اعراف: 187) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا علم رکھتے ہیں مگر آپ کو حکم انفاء ہے۔ | 3 | 297 |
| 23 | وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنَّ مِنَ الْخَيْرِ ﴿۲۳﴾ (اعراف: 188) ائمہ تفسیر کے مطابق آپ کا یہ قول بنی برتواضع ہے۔ | 3 | 298 |
| 24 | وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ (یس: 69) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم عطا فرمایا گیا۔ | 6 | 28 |
| 25 | وَمَا آدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴿۲۵﴾ (احقاف: 9) اس آیت سے یہ استدلال کہ آپ کو اپنے انجام کی خبر نہ تھی عظیم گستاخی اور الحاد ہے، یہ بنی برتواضع قول ہے۔ | 6 | 398 |

نور انبیت مصطفیٰ ﷺ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿۱﴾ (مائدہ: 15) نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ائمہ تفسیر کے اقوال سے۔ | 2 | 546 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 2 | قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہونا علماء دیوبند کی زبان سے۔ | 2 | 547 |
| 3 | سب سے پہلے نور محمدی بنایا گیا پھر اس سے سارا جہان بسایا گیا۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں۔ | 2 | 548 |
| 4 | نور محمدی کا پہلی تخلیق ہونا اقوال ائمہ دین کی روشنی میں۔ | 2 | 549 |
| 5 | نور محمدی کا تخلیق اول ہونا علماء دیوبند کے اقوال سے۔ | 2 | 551 |
| 6 | نور انیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد چند شبہات کا ازالہ۔ | 2 | 552 |
| 7 | وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (انعام: 9) نور لباس بشر میں آسکتا ہے۔ | 3 | 9 |
| 8 | وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ (انعام: 163) آپ اس لیے اول المسلمین ہیں کہ آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ | 3 | 141 |
| 9 | مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (نور: 35) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر مَثَلُ نُورِ مُحَمَّدٍ کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اقوال صحابہ | 5 | 94 |
| 10 | قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (خم سجدہ: 6) اس آیت سے آپ کی نور انیت کے خلاف استدلال کا جواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور انیت پر علامہ غلام رسول سعیدی کے اعتراضات کا جواب۔ | 6 | 225 |
| 11 | حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی فنی حیثیت و صحت۔ | 6 | 226 |
| 12 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا نور ہونا۔ | 6 | 231 |
| 13 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کا سایہ نہ تھا۔ | 6 | 232 |
| | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسے بشر کہنا سوء ادب اور طریقہ کفار ہے | | |
| 14 | مَا تَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا (هود: 27) | 3 | 624 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 14 | انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا طریقہ کفار ہے۔ | 3 | 624 |
| 15 | قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (کہف: 110) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انا بشر مِثْلُكُمْ کہنا تواضع ہے۔ | 4 | 471 |
| 16 | قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا حکم گہری حکمت پر مبنی ہے۔ | 4 | 471 |
| 17 | وَاسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (انبیاء: 3) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والوں کو اللہ نے ظالم قرار دیا۔ | 4 | 591 |
| 18 | إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (ابراہیم: 10) انبیاء کرام صلی اللہ علیہم کو اپنے جیسا بشر کہنا طریقہ کفار ہے۔ | 4 | 141 |
| 19 | وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلقاءِ الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (مومنون: 33) انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا وطیرہ ہے۔ | 5 | 19 |
| 20 | فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (مومنون: 47) فرعون اور اسکی قوم جو متکبرین تھے حضرت موسیٰ و ہارون صلی اللہ علیہم کو اپنے جیسے بشر کہتے تھے۔ | 5 | 22 |
| 21 | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَلُكُمْ (انعام: 38) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر نہیں کہنا چاہیے۔ | 3 | 31 |
| 22 | قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (شعراء: 154) جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے تھے انہوں نے نبی کو اپنے جیسا بشر کہا۔ | 5 | 209 |
| 23 | قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (یس: 15) حضرت شمعون صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے دو ساتھی رسولوں کو کفار نے اپنے جیسے بشر کہا۔ | 6 | 9 |
| 24 | فَقَالُوا ابْشِرْ يَهُدُؤُنَا فَكْفَرُوا وَتَوَلَّوْا (تغابن: 6) انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر اور منہ پھیرنے والے بتایا گیا۔ | 7 | 114 |

آپ کا حاضر و ناظر ہونا

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا (انعام: 61) بقول حدیث ساری زمین ملک الموت کے آگے رکھ دی گئی ہے جہاں سے جو چاہے اٹھا لے۔ | 3 | 53 |
| 2 | جب ملک الموت کا سارے جہان پر حاضر و ناظر ہونا ایسا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا۔ | 3 | 53 |
| 3 | آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر شارح بخاری علامہ قسطلانی کا ارشاد۔ | 3 | 53 |
| 4 | آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر امام جلال الدین سیوطی کا ارشاد۔ | 3 | 53 |
| 5 | آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر مولانا عبدالحی لکھنوی دیوبندی کا قول۔ | 3 | 54 |
| 6 | آپ کے حاضر و ناظر ہونے پر نواب صدیق حسن خاں اہل حدیث کا قول۔ | 3 | 54 |
| 7 | وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ (سود: 17) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شاہد۔ | 3 | 618 |
| 8 | يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قبر میں تشریف لانا اور مسئلہ حاضر و ناظر۔ (ابراہیم: 27) | 4 | 153 |
| 9 | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (احزاب: 45) شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہونا مفسرین کے اقوال سے۔ | 5 | 543 |
| 10 | حقیقت محمدیہ کا ساری کائنات میں جلوہ فرما ہونا۔ | 5 | 545 |

افضلیت مصطفیٰ بر سائر انبیاء

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (نساء: 41) حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ | 2 | 328 |
| 2 | وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ (نساء: 125) خلیل اللہ و حبیب اللہ میں فرق؟ | 2 | 441 |
| 3 | فَبِهَذَا بَهُمْ اِقْتَدَةٌ ﴿۹۰﴾ (انعام: 90) یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا بتاتی ہے بقول امام خازن۔ | 3 | 77 |
| 4 | آپ کی افضلیت بر انبیاء پر مفصل کلام۔ | 3 | 77 |
| 5 | وَ خَرَّ مُوسَى صَبَعًا ﴿۱۴۳﴾ (اعراف: 143) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو بے حجاب دیکھنا۔ | 3 | 247 |
| 6 | کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق۔ | 3 | 249 |
| 7 | اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَبِيْعًا ﴿۱۵۸﴾ (اعراف: 158) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نسل انسانی کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ | 3 | 268 |
| 8 | اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ﴿۹۸﴾ (یونس: 98) حضرت یونس علیہ السلام سمیت کوئی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں۔ | 3 | 597 |
| 9 | وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۳۱﴾ (یوسف: 31) حسن یوسف علیہ السلام اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 4 | 29 |
| 10 | وَ جِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلٰی هَؤُلَاءِ ﴿۸۹﴾ (نحل: 89) روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے محتاج الیہ ہونگے۔ | 4 | 267 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 307 | 4 | سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا (بنی اسرائیل: 1) | 11 |
| 492 | 4 | قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (مریم: 30) میلاد عیسیٰ علیہ السلام اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق؟ | 12 |
| 530 | 4 | وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ (طہ: 22) ید بیضاء اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 13 |
| 616 | 4 | فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ (انبیاء: 58) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر اصنام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اصنام میں فرق؟ | 14 |
| 622 | 4 | قُلْنَا إِنَارٌ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (انبیاء: 69) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیسے ٹھنڈی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے؟ | 15 |
| 322 | 5 | وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهِمْ رَسُولًا (قصص: 59) ہر رسول کسی علاقہ کے مرکزی شہر میں بھیجا گیا تا کہ اسکی دعوت آس پاس پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے مرکزی مقام مکہ میں بھیجا گیا کیونکہ آپ کی نبوت عالمگیر ہے۔ | 16 |
| 470 | 5 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ (احزاب: 1) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہیں يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ کہیں يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ کہیں يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلِّ وغیرہ فرمایا گیا کہیں یا احمد نہ فرمایا جبکہ پہلے انبیاء کو يَا أَدَمُ يَا إِبْرَاهِيمَ۔ یا مونس یا عیسیٰ یا یحییٰ وغیرہ فرمایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے پکارنے کی ممانعت۔ | 17 |
| 547 | 5 | إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (احزاب: 46) پہلے انبیاء نجوم نبوت تھے۔ آپ آفتاب نبوت ہیں۔ آپ کو آفتاب کہنے کے چار اسباب۔ | 18 |
| 96 | 6 | فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ (ص: 36) سلطنت سلیمان علیہ السلام اور سلطنت سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق؟ | 19 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 20 | وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ (انبیاء: 80) شان داؤدی اور شان محمدی میں فرق؟ | 4 | 628 |
| 21 | مِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُ صَوْنًا لَهُ (انبیاء: 82) حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اطاعت جنات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت جنات میں فرق؟ | 4 | 629 |
| 22 | وَ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ (نمل: 17) حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف جن و انس اور طیور پر تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پوری خلق خدا پر ہے۔ | 5 | 242 |
| 23 | وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (حدید: 26) اولاد ابراہیم علیہ السلام میں دیگر جمیع انبیاء ذریت اسحاق علیہ السلام میں رکھے گئے اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریت اسماعیل میں رکھا گیا۔ | 6 | 704 |

خصائص مصطفیٰ ﷺ وَاللَّهُ وَتَسْلَمُ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | پہلی خصوصیت: آپ کی مثل کا پیدا ہونا ناممکن ہے | | |
| 1 | فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ (بقرہ: 23) عقیدہ امتناع نظیر۔ | 1 | 163 |
| | دوسری خصوصیت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت الہیہ کے مظہر اتم ہیں | | |
| 2 | وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ (بقرہ: 30) آپ کا مظہر اتم ہونا۔ | 1 | 172 |
| 3 | فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (نساء: 65) | 2 | 361 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 3 | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربوبیت خدا کے مظہر اتم ہیں۔ | 2 | 361 |
| | تیسری خصوصیت: آپ انبیاء کے لیے وسیلہ ہیں | | |
| 4 | فَتَلَقْتَنِیْ اٰدَمَ مِنْ رَّبِّهِ (بقرہ: 37) توبہ آدم ﷺ بوسیلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہوئی۔ | 1 | 187 |
| | چوتھی خصوصیت: اللہ آپ کو نام لیکر نہیں پکارتا | | |
| 5 | یٰۤاٰیُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَیْكَ (مائدہ: 67) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ نام لے کر نہ پکارا۔ | 2 | 617 |
| 6 | یٰۤاٰیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شٰهِدًا (احزاب: 45) | 5 | 543 |
| 7 | یٰۤاٰیُّهَا النَّبِیُّ اِنَّا اَخْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الَّتِیْ (احزاب: 50) | 5 | 549 |
| 8 | یٰۤاٰیُّهَا النَّبِیُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (طلاق: 1) | 7 | 123 |
| 9 | یٰۤاٰیُّهَا الْمُزْمِلُ ۖ قُمْ اَلَيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا (مزمل: 1) | 7 | 244 |
| 10 | یٰۤاٰیُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَاَنْذِرْ (مدثر: 1-2) | 7 | 258 |
| | پانچویں خصوصیت: آپ انبیاء کرام کے لیے محسن ہیں | | |
| 11 | وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ (بقرہ: 102) یہود نے حضرت سلمان ﷺ کو بطور جادو گر پیش کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام ﷺ کیلئے محسن ہیں۔ | 1 | 273 |
| | چھٹی خصوصیت: آپ ساری کائنات کے لیے رسول اور رحمت ہیں | | |
| 12 | وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ (انبیاء: 107) ساری کائنات آپ کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، حدیث سے | 4 | 641 |
| 13 | ساری کائنات آپ کے نور سے وجود میں آئی، حدیث سے | 4 | 642 |
| 14 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام ﷺ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ | 4 | 643 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 15 | آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہیں۔ | 4 | 643 |
| 16 | تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (فرقان: 1) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول ہیں۔ آپ تمام مخلوق پر حاکم بھی ہیں۔ | 5 | 133 |
| 17 | قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (اعراف: 158) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ ختم نبوت۔ | 3 | 268 |
| 18 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ (النساء: 170) نبوتِ محمدیہ کی عالمگیری اور ختم نبوت۔ | 2 | 491 |
| 19 | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا: 28) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتِ عامہ۔ | 5 | 602 |
| ساتویں خصوصیت: | | | |
| اللہ تعالیٰ اپنا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواتا ہے | | | |
| 20 | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ (براءت: 33) اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواتا ہے۔ | 3 | 424 |
| 21 | الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ (کہف: 1) صدقاتِ قرآن اور بعثتِ محمدیہ کے مقاصد۔ | 4 | 402 |
| 22 | تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (فرقان: 1) اللہ تعالیٰ آپ پر قرآن اتار کر اس پر فخر و مباحات فرماتا ہے۔ | 5 | 133 |
| 23 | هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا (جمعه: 2) | 7 | 86 |
| 24 | هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ (حدید: 9) اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرواتا ہے۔ | 6 | 683 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | انہوں نے خصوصیت آپ کو امت دعا اور آیت کافرت الہی | | |
| 25 | قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا بَاطِنًا مِنْ فَوْقِكُمْ (انعام: 65) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کیلئے بڑے عذابات کو چھڑوا کر ہلکا عذاب قبول کر لیا۔ | 3 | 56 |
| 26 | إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ (انفال: 9) بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور نزول ملائکہ۔ | 3 | 321 |
| 27 | فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا (مریم: 84) اللہ نے آپ کو کفار کے خلاف دعا کرنے سے روکا تا کہ وہ ہلاک نہ ہوں، یہ آپ کی قبولیت دعا کا عالم ہے۔ | 4 | 514 |
| 28 | فَهَلِ الْكُفْرَيْنَ أَمْهَلُهُمْ رُوَيْدًا (طارق: 17) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار کے خلاف دعا کرنے سے روکا ہے۔ | 7 | 377 |
| | تو انہوں نے خصوصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے کلمہ بیان فرمایا گنا | | |
| 29 | يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۗ (بقرہ: 146) اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پسند ہے۔ | 1 | 350 |
| 30 | يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ ۗ (انعام: 20) اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ | 3 | 14 |
| 31 | يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ ۗ (اعراف: 157) تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک۔ | 3 | 262 |
| | دوسری خصوصیت آپ کو رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے کلمہ بیان فرماتا ہے | | |
| 32 | وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (انعام: 54) حاضری دربار رسالت کے وقت آج بھی آپ امت کو مشرودہ سلامتی و رحمت عطا فرماتے ہیں۔ | 3 | 44 |
| 33 | وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ (براءت: 61) | 3 | 457 |
| 34 | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 35 | بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ (براءت: 128) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کیلئے عمومی اور مومنین کے لیے خصوصی رحمت۔ نس انسانی کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نمونے۔ | 3 | 527 |
| 36 | فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ (کہف: 6) کفار کے انکار پر آپ کی بے قراری۔ | 4 | 404 |
| 37 | إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے فریاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب۔ (مائدہ: 118) | 2 | 672 |
| گیارہویں خصوصیت: آپ محبوب رب العالمین ہیں | | | |
| 38 | لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ (شعراء: 3) محبوبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدرگاہ خدا جل و علا۔ | 5 | 174 |
| 39 | مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدَّ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۗ (حم سجده: 43) حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں تو اللہ آپ کی دلداری کے لیے قرآن اتارتا ہے۔ | 6 | 256 |
| 40 | إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ۗ (مجادلہ: 12) لوگ آپ سے طویل مشاورت کرتے تھے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے گوارا نہ فرمایا اور یہ آیت اتاری۔ | 7 | 11 |
| 41 | هَآئِنْتُمْ هُوَآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ (نساء: 109) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے غلط فیصلہ کا نکلنا اللہ کو گوارا نہیں۔ | 2 | 425 |
| 42 | يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ (مائدہ: 41) منافقین نے یہود کا ساتھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو اللہ نے آپ کی دلداری کے لیے قرآن اتارا۔ | 2 | 481 |
| 43 | وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنَ النَّاسِ ۗ (مائدہ: 67) آپ کا محافظ آپ کا رب ہے۔ | 2 | 612 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 44 | قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ (انعام: 33) شان محبوبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (حضور صلی اللہ علیہ وسلم معنوم ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دلداری فرماتا ہے) | 3 | 27 |
| 45 | عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ (براءت: 43) لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ جیسے جلالی خطاب سے قبل عَفَا اللَّهُ عَنْكَ کہہ کر دلنوازی فرمائی۔ | 3 | 440 |
| 46 | إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (بنی اسرائیل: 87) اللہ رب العزت کو آپ کے قلب انور پر بوجھ کا آنا گوارا نہیں۔ | 4 | 383 |
| 47 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا (احزاب: 28) جب ازواج مطہرات کا زیور مانگنا آپ کیلئے باعثِ ملال بنا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کر آپ کا غم دور فرمایا۔ | 5 | 496 |
| 48 | تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُصَوَّبَ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (احزاب: 51) اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر کرنے کی ذمہ داری ختم فرمادی تاکہ آپ کے قلب مبارک پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ | 5 | 551 |
| 49 | حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پکارا نہیں کہ آپ کا رب کس تیزی سے آپ کی ہر خواہش کو پورا فرماتا ہے از بخاری۔ | 5 | 551 |
| 50 | إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجُ مِنْكُمْ (احزاب: 53) جب چند لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تادیر بیٹھنا آپ کے لیے باعثِ ملال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل فرمایا۔ گویا آپ کی ادنیٰ تکلیف اللہ تعالیٰ گوارا نہیں فرماتا۔ | 5 | 553 |
| بارہویں خصوصیت اللہ آپ کی بارگاہ کے آداب سکھاتا ہے | | | |
| 51 | لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا (بقرہ: 104) | 1 | 280 |
| 52 | وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ (نساء: 46) شاہان عالم کے درباروں کے آداب انکے سپاہی اور انکے کارندے سکھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفوی کے آداب سکھاتا ہے۔ | 2 | 333 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 53 | لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ؕ (مائدہ: 101) | 2 | 654 |
| | حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیکار سوالات نہ کرنے کی ہدایت۔ | | |
| 54 | وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ؕ (نور: 62) | 5 | 125 |
| | اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی صحابی بغیر اجازت لیے نہ اٹھے۔ | | |
| 55 | إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ (نور: 62) | 5 | 126 |
| | اللہ نے تعظیم رسول کو اصل ایمان قرار دیا۔ | | |
| 56 | لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ (نور: 63) | 5 | 128 |
| | جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو آپ کے بلانے کو کسی عام کا بلانا نہ سمجھو بلکہ فوراً حاضر ہو۔ | | |
| 57 | اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ؕ (انفال: 24) | 3 | 334 |
| | جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو صحابہ پر ضروری ہوا کہ نماز توڑ کر بھی حاضر ہو جائیں، دیر نہ کریں۔ | | |
| 58 | لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (حجرات: 2) | 6 | 508 |
| | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز کا اونچا کرنا ضبط اعمال کا سبب بن سکتا ہے۔ | | |
| 59 | لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (حجرات: 2) | 6 | 508 |
| | جب وفد بنو تمیم نے آپ کو حجرہ کے باہر سے آواز دی تو اللہ رب العزت کو ناگوار ہوا اور فوراً آیت اتار کر مسلمانوں کو بارگاہِ محبوب میں بولنے کا طریقہ سکھایا۔ | | |
| | تیرہویں خصوصیت: اللہ آپ کے افعال کو اپنے افعال قرار دیتا ہے | | |
| 60 | مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ؕ (نساء: 80) | 2 | 280 |
| | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ | | |
| 61 | وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ؕ (انفال: 17) | 3 | 328 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کنکریاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ نے پھینکی ہیں۔ | | |
| 62 | إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ؕ (فتح: 10) | 6 | 460 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 62 | آپ سے بیعت کو اللہ سے بیعت کرنا قرار دیا گیا۔ | 6 | 460 |
| 63 | يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (نح: 10) اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ | 6 | 462 |
| 64 | وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (نساء: 64) جو آپ کے پاس حاضر ہو گیا اس نے اللہ کو تواب و رحیم پایا۔ | 2 | 354 |
| حضور ﷺ کی خصوصیت اللہ آپ کی قسمیں یاد فرماتا ہے | | | |
| 65 | لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (حجر: 72) حضور ﷺ کی زندگی کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ | 4 | 198 |
| 66 | فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ (نساء: 65) اللہ اپنی ربوبیت کی قسم آپ کی نسبت کے حوالے سے اٹھاتا ہے کہ آپ اسکی ربوبیت کا مظہر اتم ہیں۔ | 2 | 354 |
| 67 | فَوَرَبِّكَ لَنَسُئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (حجر: 92) حضور ﷺ شاہکار قوت ہیں۔ | 4 | 204 |
| 68 | فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ (مریم: 68) اللہ رب العزت آپ کا رب ہونے پر فخر فرماتا ہے۔ | 4 | 507 |
| 69 | وَ قِيلَ لَهُ رَبِّ انَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (زخرف: 88) نبی اکرم ﷺ کے یارب یارب کہنے کی اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی۔ | 6 | 349 |
| 70 | لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (بلد: 1-2) عظمتِ خاک پائے رسول ﷺ کی بزبان عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ | 7 | 409 |
| بلدیں بولیں خصوصیت اللہ آپ کی امداد کر کرے ہے | | | |
| 71 | رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ (بقرہ: 129) | 1 | 323 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 70 | حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا کرنا۔ | 1 | 323 |
| 71 | فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ (بقرہ: 37) بروایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا کرنا اور انکی دعا کا مقبول ہونا۔ | 1 | 187 |
| 72 | وَ إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِبَنِيَّ اسْرَآءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْ بَحْدِیْ اِسْمٰهُ اَحْمَدُ ۗ (صف: 6) شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ | 7 | 76 |
| سولہویں خصوصیت: اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جانے | | | |
| 73 | فَلَنُوَلِّیْنَاكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۗ (بقرہ: 144) رضائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحویل قبلہ۔ | 1 | 346 |
| 74 | کعبۃ اللہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ | 1 | 347 |
| 75 | وَ لَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ۗ (ضحیٰ: 5) وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیں تاکہ آپ راضی ہوں۔ | 7 | 447 |
| ستارہویں خصوصیت: | | | |
| اللہ آپ کے کاموں کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے | | | |
| 76 | وَ مَا رَمِیْتَ اِذْ رَمِیْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی ۗ (انفال: 17) بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رمی (آپ کی رمی رمی خدا ہے)۔ | 3 | 328 |
| 77 | مَنْ یُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ ۗ (نساء: 80) اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت خدا ہے۔ | 2 | 380 |
| 78 | اِنَّ الَّذِیْنَ یُبٰیِعُوْنَكَ اِنَّمَا یُبٰیِعُوْنَ اللّٰهَ ۗ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ ۗ (ت: 10) اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ | 6 | 462 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | انہار بویں خصوصیت: | | |
| | اللہ رب العزت اپنے حبیب ﷺ کی طرف سے جواب دیتا ہے | | |
| 79 | ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ (سبا: 46) | 5 | 613 |
| 80 | أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ (اعراف: 184) کفار نے آپ ﷺ کو مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ | 3 | 292 |
| 81 | وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ ۗ قُلْ أذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ (براءت: 61) منافقین نے آپ کو اذُن کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ | 3 | 457 |
| 82 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ (رعد: 38) رسول اللہ ﷺ کی کثرت ازواج پر اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جواب اتارا۔ | 4 | 124 |
| 83 | فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنَاكَهَا (احزاب: 37) جب حضور ﷺ نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو کفار نے طعن کیا اللہ رب العزت نے اسکے جواب میں پورے دور کو ع اتارے اور فرمایا یہ نکاح ہم نے کیا ہے۔ | 5 | 515 |
| 84 | إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ (احزاب: 50) اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے کثیر عورتوں سے نکاح ہم نے حلال کیا ہے۔ | 5 | 549 |
| 85 | لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي ۗ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۗ (نحل: 103) کفار مکہ نے کہا آپ کو فلاں بچی غلام قرآن سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو خود عجی ہے اور قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ | 4 | 276 |
| 86 | لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۗ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (مناقون: 8) عبداللہ بن ابی نے کہا عزت والے ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اتارا۔ | 7 | 104 |
| 87 | مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۗ (ن: 2) اللہ اپنے حبیب ﷺ کی طرف سے جواب دیتا اور آپ کے گستاخ کے عیوب بتاتا ہے۔ | 7 | 169 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 88 | إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ ۗ (المائدہ: 41-42) کفار مکہ آپ کو بھی شاعر کبھی کاہن کہتے تھے اللہ رب العزت نے انکار فرمایا۔ | 7 | 199 |
| 89 | مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ اللہ رب العزت اپنے حبیب ﷺ کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ | 7 | 445 |
| 90 | إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾ (کوثر: 3) کفار نے رسول اللہ ﷺ کو ابتر کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب! آپ کا دشمن ابتر ہے۔ | 7 | 554 |
| 91 | تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ (لہب: 1) ابولہب نے ہاتھ اٹھا کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں بے ادبی کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ سورۃ اُتار کر اسکی مذمت کی۔ | 7 | 566 |
| انیسویں خصوصیت: | | | |
| اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ دونوں کے لیے تشبیہ کی بجائے ضمیر واحد | | | |
| 92 | وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ (براءت: 74) اللہ اور اسکے رسول کا غنی کرنا ایک ہی چیز ہے۔ | 3 | 74 |
| 93 | وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ (براءت: 62) اللہ اور اسکے رسول کی رضا ایک ہی چیز ہے۔ | 3 | 457 |
| 94 | اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ (انفال: 24) اللہ اور اسکے رسول کا بلانا ایک ہی چیز ہے۔ | 3 | 334 |
| 95 | إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ (نور: 51) اللہ اور اسکے رسول کا فیصلہ کرنا ایک ہی چیز ہے۔ | 5 | 105 |
| 96 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ --- وَإِنْ تَطِيعُوا تَهْتَدُوا ۗ (نور: 54) اللہ اور اسکے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ | 5 | 105 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | یسوین خصوصیت: روز جزا میں مقام مصطفیٰ ﷺ | | |
| 97 | إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ (ابراہیم: 22) کفار سے شیطان کی قیامت میں بے وفائی غداری اور مومنوں سے رسول اللہ ﷺ کی وفاداری و دلداری۔ | 4 | 149 |
| 98 | وَجُنَّابِكْ شَهِيدًا عَلَى هَوْلَاءِ (نحل: 89) رسول اللہ ﷺ روز قیامت انبیاء کے لیے گواہ ہونگے۔ | 4 | 266 |
| 99 | فَكَيْفَ إِذَا جُنَّابِكْ عَلَى هَوْلَاءِ شَهِيدًا (نساء: 41) یہ آیت سن کر نبی اکرم ﷺ رو پڑتے تھے۔ | 2 | 327 |
| 100 | لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (بقرہ: 143) رسول اکرم ﷺ کی گواہی سے انبیاء قیامت میں بری ہونگے از حدیث بخاری۔ | 1 | 341 |
| 101 | عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (بنی اسرائیل: 79) مقام محمود کی وضاحت۔ | 4 | 376 |
| 102 | وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (مریم: 71) نبی اکرم ﷺ پل صراط پر رب سلم کی صدا فرمائیں گے۔ | 4 | 510 |
| 103 | إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا (فرقان: 12) اس آیت کے تحت یہ ذکر کہ جہنم کے چنگھاڑنے پر ہر نبی نفسی پکارے گا اور آقا ﷺ امتی امتی پکاریں گے تب اللہ رب العزت شفیع روز جزا ﷺ کو امت کیلئے شفاعت عطا فرمائے گا۔ | 5 | 141 |

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گونا گوں مناقب عالیہ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (اعراف: 157) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اُمّی کہے جانے کے تین معانی۔ | 3 | 261 |
| 2 | وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط (انفال: 33) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کفار کو دنیوی عذاب سے بچا لیا گیا۔ | 3 | 343 |
| 3 | لَمْ يَكُ مَغْيِبًا نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ (انفال: 53) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت کبریٰ ہیں۔ | 3 | 361 |
| 4 | لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (ابراہیم: 1) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کون سی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ | 4 | 131 |
| 5 | فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ (حجر: 65) پہلی قوموں پر جب عذاب آتا تو انکے نبی کو وہاں سے پہلے نکال لیا جاتا۔ آج ساری دنیا کے کفار عذاب سے محفوظ ہیں کیونکہ رحمتہ للعالمین کی رداء رحمت نے سارے عالم کو گھیر رکھا ہے۔ | 4 | 194 |
| 6 | لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (حجر: 72) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کیوں اٹھائی گئی۔ | 4 | 198 |
| 7 | نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٥٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ (شعراء: 193) قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں سے مضبوط تر ہونا۔ | 5 | 218 |
| 8 | وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ (نمل: 6) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ قرآن جبریل علیہ السلام پہنچاتے تھے مگر اسکے معانی و اسرار اللہ نے آپ کو براہ راست القاء فرمائے۔ | 5 | 232 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 9 | وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ (عنکبوت: 48) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کی صداقت کی اعلیٰ دلیل تھی، آخری عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا بھی سکھا دیا گیا تھا۔ | 5 | 471 |
| 10 | النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (احزاب: 6) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیٰ ہونے کے تین معانی۔ | 5 | 474 |
| 11 | إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (سبا: 46) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ نذارت۔ | 5 | 614 |
| 12 | أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّعُ (دخان: 37) یمن کے بادشاہ تبع حمیری کا سات سو برس قبل آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور ایمان لانا۔ | 6 | 364 |
| 13 | وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (ش: 69) شاعری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانِ شان نہیں۔ | 6 | 27 |
| 14 | وَأَمَّنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ (سورہ محمد: 2) معارف اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 6 | 427 |
| 15 | وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (ت: 2) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ہائے الہیہ کی تکمیل۔ | 6 | 457 |
| 16 | مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ (ت: 29) نام محمد اور نام احمد میں فرق۔ | 6 | 488 |
| 17 | نام محمد کے بعض معارف۔ | 6 | 488 |
| 18 | نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایمان افروز خوبیاں۔ | 6 | 490 |
| 19 | وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طور: 48) یعنی اے پیارے محبوب آپ ہر وقت ہماری حفاظت میں ہیں کوئی دشمن یا کوئی شیطان آپ تک نہیں آسکتا۔ | 6 | 586 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 20 | خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ (رحمن: 4) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کیوں کہا گیا؟ | 6 | 640 |
| 21 | لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ (حشر: 8) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو سب مسلمانوں کو حکم ہجرت ہوا۔ معلوم ہوا عظمت کعبہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ بلکہ آپ ہی کے آنے کیلئے مکہ معظمہ میں کعبہ بنایا گیا۔ | 7 | 40 |
| 22 | وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (صف: 6) نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ | 7 | 77 |
| 23 | إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ (الحاقة: 40) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم کہا جانا بمعنی معزز بھی ہے اور بمعنی سخی بھی تو آپ کی عزت کیا ہے اور سخاوت کیا ہے؟ | 7 | 199 |
| 24 | يَأْتِيهَا الْمَزْمَلُ ۖ قِمِ الْبَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ (مزل: 1) اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں پسند ہیں۔ | 7 | 245 |
| 25 | إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (مزل: 15) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت اور اسکے ثمرات۔ | 7 | 252 |
| 26 | إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۖ (تکویر: 19-21) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و عظمت۔ | 7 | 338 |
| 27 | سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۖ (اعلیٰ: 6) معلوم ہوا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد صرف اللہ رب العزت ہے۔ اور جبریل علیہ السلام صرف قاصد ہیں۔ | 7 | 384 |
| 28 | لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۖ (بلد: 1-2) | 7 | 409 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 28 | عظمتِ خاک پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عظمت کا معیار ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ | 7 | 409 |
| 29 | وَ الضُّحٰی ﴿۱﴾ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ﴿۲﴾ (ضحیٰ: 1-2) اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور اور گیسوئے عنبر کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ | 7 | 442 |
| 30 | حسنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ | 7 | 443 |
| 31 | وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ﴿۷﴾ (ضحیٰ: 7) اس کی تفسیر میں آنے والے اقوال میں سب سے بہتر قول۔ | 7 | 453 |
| 32 | الْمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿۱﴾ (الم نشرح: 1) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کی تین صورتیں۔ تین بار شق صدر کیا گیا۔ | 7 | 461 |
| 33 | وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۴﴾ (الم نشرح: 4) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے بلند کیا؟ | 7 | 464 |
| 34 | حَتّٰی تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿۱﴾ رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ (بینہ: 1) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتِ الوہیت کی بیئہ عظمیٰ ہیں۔ | 7 | 496 |
| 35 | اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكُوْثَرَ ﴿۱﴾ (الکوثر: 1) اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ کے الفاظ میں مخفی نکاتِ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 7 | 543 |
| 36 | الْکُوْثَرَ کا معنی اول: نہر کوثر۔ | 7 | 544 |
| 37 | دوسرا معنی: کثرتِ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 7 | 546 |
| 38 | اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے اولیاء کا بلین۔ | 7 | 547 |
| 39 | تیسرا معنی: کثرتِ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 7 | 547 |
| 40 | چوتھا معنی: کثرتِ معجزاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 7 | 549 |
| 41 | پانچواں معنی: کثرتِ علماء امت۔ | 7 | 549 |
| 42 | چھٹا معنی: کثرتِ اولیاء اللہ۔ | 7 | 550 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 43 | ساتواں معنی: کثرت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 7 | 551 |
| 44 | آٹھواں معنی: تادسواں معنی: قرآن، نبوت عامہ، ختم نبوت اور مقام شفاعت۔ | 7 | 552 |

معجزاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | فَأَنْفَجَرْتُمْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا (بقرہ: 60) انگشتانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چشمے اُبلنا اعجازِ موسوی سے بڑھ کر ہے۔ | 1 | 221 |
| 2 | کائنات کا سب سے افضل پانی کونسا ہے۔ | 1 | 222 |
| 3 | وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ (بقرہ: 251) داؤد علیہ السلام کی رمیِ احجار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدانِ بدر میں کنکریاں پھینکنا۔ | 1 | 537 |
| 4 | وَنَعَّيْدَهُ فَاذَا هِيَ بِبَيْضَاءٍ لِلنُّظْرَيْنِ (اعراف: 108) ید بیضاء اور نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 3 | 223 |
| 5 | وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (انفال: 17) بدر میں آپ کے کنکریاں پھینکنے کی کیفیت۔ | 3 | 328 |
| 6 | وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (بنی اسرائیل: 45) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے اور ابولہب کی بیوی ام جمیل جو آپ پر پتھر پھینکنے آئی تھی وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ | 4 | 352 |
| 7 | وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (احزاب: 12) جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہٴ احزاب کے دوران فتوحاتِ روم و ایران و یمن کی غیبی | 5 | 481 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 7 | بشارات دیں اور منافقوں نے اسکا مذاق اڑایا۔ | 5 | 481 |
| 8 | اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنُّشُقُ الْقَمَرِ ﴿١﴾ (تر:1) معجزہ شق القمر احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ | 6 | 622 |
| 9 | مودودی اور سید قطب مصری کا معجزہ شق القمر سے انکار۔ | 6 | 623 |
| 10 | حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بالا پر تصرف و اختیار۔ | 6 | 624 |
| 11 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رد شمس۔ | 6 | 624 |
| 12 | حدیث رد شمس کی صحت۔ | 6 | 625 |
| 13 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران نماز جنت کے خوشے کو پکڑ لینا۔ | 6 | 625 |
| 14 | مستند معجزات سے انکار کفار مکہ کی پیروی ہے۔ | 6 | 626 |
| قرآن سے بڑا معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے | | | |
| 15 | وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ (نساء:82) گویا صرف قرآن ہی بطور معجزہ کافی ہے۔ | 2 | 383 |
| 16 | قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتِطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ (یونس:38) قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و لازوال معجزہ ہے۔ | 3 | 560 |
| 17 | أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴿٥١﴾ (عنکبوت:51) قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ | 5 | 372 |
| 18 | قرآن کے بعد کسی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں۔ | 5 | 373 |
| معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم | | | |
| 19 | فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴿١٤٣﴾ (اعراف:143) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کو بے حجاب دیکھنا۔ | 3 | 247 |
| 20 | دیدار الہی ناممکن نہیں مگر اسکی کیفیت کا سمجھنا ناممکن ہے۔ | 3 | 248 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 300 | 4 | سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا (بنی اسرائیل: 1) معراج جسمانی پر ایک قرآنی دلیل۔ | 21 |
| 300 | 4 | سیر معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا۔ | 22 |
| 301 | 4 | عبدیت عبد کے لیے وجہ عروج ہے۔ | 23 |
| 303 | 4 | قرآن میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حصہ معراج کیوں بیاں کیا گیا۔ | 24 |
| 304 | 4 | معراج جسمانی بحالت بیداری کی ایک اور مضبوط دلیل۔ | 25 |
| 305 | 4 | سفر معراج سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جانا۔ | 26 |
| 306 | 4 | آپ کا براق پر سوار کیا جانا۔ | 27 |
| 306 | 4 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنا اور مسئلہ حیات انبیاء۔ | 28 |
| 307 | 4 | بیت المقدس آپ کی امامت اور انبیاء پر آپ کی افضلیت۔ | 29 |
| 309 | 4 | امامت انبیاء اور شان ختم نبوت۔ | 30 |
| 309 | 4 | پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ کے مختلف عذابات کا ملاحظہ کرنا۔ | 31 |
| 310 | 4 | ساتوں آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں اور مسئلہ حاضر و ناظر۔ | 32 |
| 311 | 4 | سدرۃ المنتہیٰ پہ فرشتوں کا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا۔ | 33 |
| 311 | 4 | جبریل امین علیہ السلام کا ایک مقام پر رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لینا۔ | 34 |
| 312 | 4 | ستر ہزار نوری حجابات طے کرنے کے بعد اذن یا محمد کی آواز کا آنا۔ | 35 |
| 313 | 4 | اللہ تعالیٰ اور اسکے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مقام دنیٰ پر گفتگو اور ختم نبوت۔ | 36 |
| 314 | 4 | کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا؟ | 37 |
| 315 | 4 | معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند متبادلات ① شان عبدیت و شان رسالت کا اظہار۔ | 38 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 38 | ② حسی و معنوی عظمتوں کا جمع کیا جانا۔ ③ روز قیامت کی گھبراہٹ سے بچانا۔ ④ اعلان ختم نبوت۔ ⑤ ہر نبی کو حسب حال معجزہ دیا گیا۔ ⑥ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کلی کا اظہار کیا گیا۔ ⑦ میثاق انبیاء کی تکمیل کی گئی۔ | 4 | 315 |
| 39 | وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي أَرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (بنی اسرائیل: 60) تفسیر ابن عباس کے مطابق یہ واقعہ معراج کا بیان ہے نیز واقعہ معراج خواب میں نہیں بیداری میں ہوا تھا۔ | 4 | 362 |
| 40 | فَالْقُبْحَاءُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ (طہ: 20) اعطاء رسالت کے وقت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ہوا۔ ما بنما دکھایا گیا اور فلسفہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 4 | 530 |
| 41 | وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ (نجم: 1) قسم ہے ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ معراج سے واپس اترے۔ | 6 | 590 |
| 42 | عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٧﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٧﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ (نجم: 7) اس میں شَدِيدُ الْقُوَىٰ اللہ تعالیٰ ہے اور وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور افقِ اعلیٰ سے مراد لامکاں ہے۔ | 6 | 594 |
| 43 | ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٩﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ (نجم: 9) خدائے جبار اپنے محبوب کے قریب آ گیا پھر اور اتر آیا حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے کم تر۔ اسکی وضاحت حدیث سے۔ | 6 | 596 |
| 44 | مقام قاب قوسین پہ خدا اور رسول کے مابین گفتگو کی چند جھلکیاں حدیث سے۔ | 6 | 597 |
| 45 | وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ (نجم: 13) | 6 | 599 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 45 | معراج میں پانچ نمازوں کا فرض کیا جانا۔ | 6 | 599 |
| 46 | عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴿١٣﴾ (نجم: 14) سدرۃ المنتہیٰ کیا چیز ہے؟ | 6 | 599 |
| 47 | اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿١٦﴾ (نجم: 16) سدرۃ المنتہیٰ پہ فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک کے لیے بیتاب ہونا۔ | 6 | 600 |
| 48 | مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿١٧﴾ (نجم: 17) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار پانا۔ | 6 | 601 |
| 49 | وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ (تکویر: 23) بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کو دیکھنا مراد ہے۔ | 7 | 339 |
| نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کے دلائل کا رد | | | |
| 50 | لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴿١٠٣﴾ (انعام: 103) اس آیت سے یہ دلیل لانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو شب معراج میں نہیں دیکھا، درست نہیں ہے۔ | 3 | 91 |
| 51 | دیدارِ الہی کے امکان پر اہل سنت کے دلائل۔ | 3 | 92 |
| 52 | إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِأُذُنِهِ ﴿٥١﴾ (شوری: 51) اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کے استدلال کا جواب۔ | 6 | 306 |

اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴿١٢٨﴾ (آل عمران: 128) شانِ رحمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 2 | 150 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 2 | وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَابِكُمْ (آل عمران: 153) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت سے بہادر ہیں۔ | 2 | 178 |
| 3 | فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (آل عمران: 159) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ | 2 | 189 |
| 4 | رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم۔ | 2 | 190 |
| 5 | فَاعْفُ عَنْهُمْ (آل عمران: 159) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان درگزر۔ | 2 | 190 |
| 6 | فَانَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٣﴾ (انعام: 33) کفار آپ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے آپ کے دین پر اعتراض کرتے تھے۔ | 3 | 24 |
| 7 | وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (انعام: 52) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب صحابہ کو پاس بٹھانا اور معزور امیروں کو واپس کر دینا۔ | 3 | 39 |
| 8 | خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (اعراف: 199) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ | 3 | 306 |
| 9 | فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ (یونس: 16) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اپنی پاک زندگی کو بطور دلیل پیش کیا۔ | 3 | 545 |
| 10 | وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ (بنی اسرائیل: 29) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائل کو بدن سے قمیص اتار کر دے دینا جبکہ گھر میں دوسری قمیص نہ تھی۔ تب یہ آیت اتری۔ | 4 | 343 |
| 11 | وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ (کہف: 28) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نادار صحابہ کو ترجیح دی اور مالدار کفار کو بھگا دیا۔ | 4 | 425 |
| 12 | لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ (طہ: 131) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ | 4 | 583 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 488 | 5 | لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب: 21) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو سے کامل نمونہ حیات ہونا۔ ☆ بحیثیت باپ۔ ☆ بحیثیت بیٹا۔ ☆ بحیثیت بھائی۔ ☆ بحیثیت شوہر۔ ☆ بحیثیت آقا۔ ☆ بحیثیت سربراہ مملکت۔ ☆ بحیثیت کمانڈر انچیف۔ | 13 |
| 515 | 5 | وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ (احزاب: 37) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی عزت افزائی کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے غلام سے فرما دیا۔ | 14 |
| 555 | 5 | إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیْ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِیْ مِنَ الْحَقِّ (احزاب: 53) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حیا از حدیث۔ | 15 |
| 2 | 7 | قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (مجادلہ: 1) ایک سادہ سی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مسائل میں آپ سے جھگڑا کر لیتی ہے اور آپ برا نہیں محسوس فرماتے۔ | 16 |
| 11 | 7 | إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ (مجادلہ: 12) یہ آیت اس لیے اُتری کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل مشاورت کرتے رہتے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی مگر آپ اسکا اظہار نہ فرماتے۔ | 17 |
| 36 | 5 | ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةِ (مومنون: 96) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور عفودرگزر۔ | 18 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 19 | لَوْ لَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۖ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ (فرقان: 7) | 5 | 137 |
| | اس آیت کے تحت یہ ذکر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیار ہی تھا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ پر کئی خزانے اتارے جاتے۔ | | |
| 20 | مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝ (فرقان: 10) | 5 | 139 |
| | اس آیت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیوی نعمتوں کی فرمائش کی گئی مگر آپ نے فقر اختیار فرمایا۔ | | |
| 21 | وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝ (4: 5) | 7 | 171 |
| | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم | | |
| 22 | <ul style="list-style-type: none"> ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زیر دستوں سے حسن سلوک۔ ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام لوگوں سے حسن سلوک۔ ✿ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع و انکسار۔ ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دو کرم۔ ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت۔ ✿ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء۔ ✿ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد۔ ✿ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار۔ ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد۔ ✿ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت۔ | 7 | 172 |
| 23 | إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قَاتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ (مدثر: 18-20) | 7 | 261 |
| | ولید بن مغیرہ بار بار فکر کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب ڈھونڈھے مگر ملتا | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 23 | نہیں تھا۔ آخر اس نے آپ کو جادوگر قرار دیا۔ | 7 | 261 |
| 24 | لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ (تحریم: 1) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس ترین طبع کے مالک ہیں۔ آپ کو گوارا نہ تھا کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف دہ چیز محسوس ہو۔ | 7 | 138 |
| 25 | وَوَجَدَكَ عَانِلًا فَاغْنِي ۞ (ضحیٰ: 8) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ | 7 | 454 |
| 26 | وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞ (ضحیٰ: 10) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے جو دوسخا کیسا وسیع ہے؟ مع یتیم اور سائل کی دلداری کرنے کی اہمیت و فضیلت۔ | 7 | 455 |
| 27 | وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ (ضحیٰ: 11) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تجدیث نعمت اپنے کیا کیا فضائل بیان فرمائے؟ | 7 | 457 |
| 28 | فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۞ (کوثر: 2) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قربانی سے محبت۔ | 7 | 552 |

حقوقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | پہلا حق: اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم | | |
| 1 | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (آل عمران: 31) اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت۔ | 2 | 38 |
| 2 | اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ | 2 | 39 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 3 | بغیر اتباع دعویٰ محبت فضول ہے۔ | 2 | 39 |
| 4 | بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ ولایت زندیقیت والحاد ہے۔ | 2 | 40 |
| 5 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (آل عمران: 32) | 2 | 38 |
| 6 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ (نساء: 13) آپ کی اطاعت پر نجات کو موقوف کیا گیا ہے۔ | 2 | 258 |
| 7 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: 59) اللہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطاع مطلق ہیں۔ | 2 | 345 |
| 8 | فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (نساء: 65) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ نبوی پر راضی نہ ہونے والے کی گردن اڑا دینا۔ | 2 | 361 |
| 9 | وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ (اعراف: 157) اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نجات وابستہ ہے۔ | 3 | 260 |
| 10 | وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ (اعراف: 158) ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیساتھ وابستہ ہے۔ | 3 | 268 |
| 11 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ (انفال: 20) | 3 | 332 |
| 12 | اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿٢٤﴾ (انفال: 24) اللہ اور اسکے رسول کے حکم پہ دیر نہ کی جائے۔ | 3 | 334 |
| 13 | وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (براءت: 58) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض منافقین کا کام ہے۔ | 3 | 448 |
| دوسرا حق: احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم | | | |
| 14 | لَا تَقُولُوا رَاعِنَا (بقرہ: 104) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو راعینا کہنے سے منع کیا جانا۔ | 1 | 280 |
| 15 | بارگاہِ خدا میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 1 | 281 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 16 | نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلو دار لفظ کا بولنا باعث کفر ہے۔ | 1 | 282 |
| 17 | آپ کی شان میں گستاخی والا جملہ بلا نیت بھی گستاخی ہے۔ | 1 | 282 |
| 18 | وَأَمْنَتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ (ماندہ: 12) ایمان بالرسول کا پہلا تقاضا احترام رسول ہے۔ | 2 | 540 |
| 19 | قَالُوا يٰمُوسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقَىٰ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿۱۵﴾ (اعراف: 115) احترام نبی کا صلہ۔ | 3 | 225 |
| 20 | فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ (اعراف: 157) احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ | 3 | 260 |
| 21 | اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ (انفال: 24) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لازم تھا کہ نماز کو درمیان میں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ | 3 | 334 |
| 22 | تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہر عبادت سے بلند ہے۔ | 3 | 335 |
| 23 | لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوسٰى فَبَرَّاهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا (احزاب: 69) موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایذا دی گئی حدیث سے۔ | 5 | 578 |
| 24 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں عیب ڈھونڈنا منافق کا کام ہے۔ | 5 | 579 |
| 25 | وَتَعَزَّزُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ﴿۹﴾ (ت: 9) تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ | 6 | 461 |
| 26 | کھڑے ہو کر درود و سلام کا پڑھنا شرک نہیں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ | 6 | 461 |
| 27 | لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (حجرات: 2) حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا جذبہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 6 | 509 |
| 28 | اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۲﴾ (حجرات: 2) تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب اعمال کی جان ہے۔ | 6 | 509 |
| تیسرا حق: آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم | | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 29 | إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (احزاب: 56) | 5 | 558 |
| | اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کس معنی میں ہے اور فرشتوں کا بھیجنا کس معنی میں؟ | | |
| 30 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (احزاب: 56) | 5 | 558 |
| | ایمان والوں کا آپ پر درود بھیجنا کس معنی میں ہے۔ | | |
| 31 | آپ پر درود شریف کا تسلسل ازل سے ابد تک۔ | 5 | 560 |
| 32 | ہم آپ پر درود بھیج کر اپنے لیے رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ | 5 | 560 |
| 33 | درود سنت الہیہ ہے۔ | 5 | 560 |
| 34 | افضل درود وہ ہے جس میں سلام بھی ہو۔ | 5 | 561 |
| 35 | درود شریف کی فضیلت حدیث میں۔ | 5 | 561 |
| 36 | درود شریف کے پڑھنے کے مواقع۔ | 5 | 564 |
| 37 | درود شریف پڑھنے کا شرعی حکم۔ | 5 | 566 |
| 38 | غیر انبیاء کے لیے ﷺ مستقلاً کہنے کی کراہت۔ | 5 | 566 |
| | جو تہا حق: | | |
| | اللہ ورسول سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونا ضروری ہے | | |
| 39 | قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ (براءت: 24) | 3 | 410 |
| | اگر اللہ ورسول ہر چیز سے محبوب تر نہ ہوں تو ایمان مکمل نہیں، حدیث کی رو سے۔ | | |
| 40 | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میدان احد میں اپنے بیٹے پر تلوار لے کر پل پڑے۔ | 3 | 411 |
| 41 | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 3 | 410 |
| 42 | حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 3 | 411 |
| 43 | ایک انصاری عورت کا عظیم جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 3 | 411 |
| | گستاخ رسول کافر و ملعون ہے اسکی سزا قتل ہے | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 44 | وَ اسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَ رَاعِنًا لِيَا بِالسِّنْتِهِمْ --- وَ لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ (نساء: 46) گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب کافر و ملعون ہے۔ | 2 | 333 |
| 45 | وَ اِنْ تَكْفُرُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَيَّةَ الْكُفْرِ (براءت: 12) گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا قتل ہے، بحکم قرآن و حدیث۔ | 3 | 399 |
| 46 | وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (براءت: 61) ایذا رسول میں استخفاف صحابہ و اہل بیت بھی شامل ہے۔ | 3 | 457 |
| 47 | اِبَانَةُ وَ اَيْتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (براءت: 66) منافقین نے سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کفر قرار دیا۔ | 3 | 459 |
| 48 | گستاخی رسول کی سزا قتل ہے خواہ توبہ کر لے۔ | 3 | 460 |
| 49 | مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلَّا مِنْ اُكْرَهٍ --- فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ (نحل: 106) جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے زبردستی گستاخی رسول کروائی گئی تو یہ آیت اتری اور گستاخی کو کفر اور باعث غضب و عذاب قرار دیا گیا۔ | 7 | 277 |
| پانچواں حق: آپ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا | | | |
| 50 | اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اِلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰٓاْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تٰكُلُهٗ النَّارُ (آل عمران: 183) انبیاء کی طرف جھوٹے معجزات منسوب کرنا کفر یہود ہے۔ | 2 | 226 |
| 51 | واقعہ معراج میں جبریل علیہ السلام کا آپ کے قدموں کو چوم کر جگانا بے اصل ہے۔ | 2 | 227 |
| چھٹا حق: حاضری دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم | | | |
| 52 | وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللّٰهَ (نساء: 64) | 2 | 360 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 360 | 2 | آپ کی بارگاہ کی حاضری کی اہمیت و ثواب | 52 |
| 45 | 3 | وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (انعام: 54) حاضری دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام | 53 |
| 45 | 3 | فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ! (انعام: 54) آج بھی زائرین کو مواجہہ شریف کے اندر سے آواز آتی ہے کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ | 54 |

الانبیاء علیہم السلام

- ☆ عقائد متعلقہ انبیاء کرام علیہم السلام
- ☆ اخلاق انبیاء کرام علیہم السلام
- ☆ تاریخ انبیاء کرام علیہم السلام (انبیاء کے انفرادی فضائل و حالات)
- ☆ حضرت آدم علیہ السلام
- ☆ حضرت نوح علیہ السلام
- ☆ حضرت صالح علیہ السلام
- ☆ حضرت ہود علیہ السلام
- ☆ حضرت ابراہیم علیہ السلام
- ☆ حضرت اسماعیل علیہ السلام
- ☆ حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام
- ☆ حضرت یوسف علیہ السلام
- ☆ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام
- ☆ مختلف انبیاء بنی اسرائیل خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام

عقائد متعلقہ انبیاء کرام علیہم السلام

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | بہلا عقیدہ: انبیاء کا معصوم ہونا | | |
| 1 | اتَّخِذْنَا هُزُؤًا (بقرہ: 67) انبیاء کرام علیہم السلام استہزاء و مذاق جیسی صفات سے پاک ہیں۔ | 1 | 235 |
| 2 | لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۴﴾ (بقرہ: 124) عصمت انبیاء کرام علیہم السلام۔ | 1 | 313 |
| 3 | أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (بقرہ: 285) نبی کو اپنی وحی میں تردد نہیں ہو سکتا۔ | 1 | 607 |
| 4 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ (آل عمران: 32) گویا رسول کا ہر قول و فعل خواہش نفس سے پاک ہے۔ | 2 | 63 |
| 5 | وَلِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (آل عمران: 50) ایک پیغمبر پہلے پیغمبر کی شریعت کو بدل سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے۔ | 2 | 63 |
| 6 | مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ (آل عمران: 161) انبیاء کرام علیہم السلام خیانت و بددیانتی جیسی صفاتِ قبیحہ سے پاک ہیں۔ | 2 | 194 |
| 7 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ (نساء: 13) نبی کے ہر حکم کی اطاعت ضروری ہے کیونکہ وہ خواہش نفس سے حکم دے ہی نہیں سکتا۔ | 2 | 269 |
| 8 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ (نور: 54) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کی اطاعت مطلقاً فرض ہے کیونکہ انکا کوئی قول و فعل مرضی خدا کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ | 5 | 105 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 58 | 6 | قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (صافات: 102) معلوم ہوا نبی کا خواب بھی شیطانی اثر سے محفوظ اور وحی الہی ہوتا ہے۔ | 9 |
| 100 | 6 | إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۗ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ۗ (ص: 46) یہ آیات عصمت انبیاء کی دلیل ہیں۔ | 10 |
| 107 | 6 | لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۗ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۗ (ص: 83) شیطان نے خود کہا میں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا اور انبیاء کا چنا ہوا ہونا قطعی ہے۔ | 11 |
| 484 | 6 | لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ ۗ (نح: 27) گویا نبی کا خواب سچا ہو کر رہتا ہے اسکے خواب میں شیطان نہیں آسکتا کہ وہ معصوم ہے۔ | 12 |
| 590 | 6 | وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ (نجم: 3) زبان رسول سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے تو یہی شان عصمت ہے۔ | 13 |
| 354 | 2 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ (نساء: 64) رسول کا ہر قول و فعل واجب الطاعت ہے کیونکہ وہ مرضی خدا کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ | 14 |
| 380 | 2 | مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ (نساء: 80) رسول مرضی خدا کے خلاف کوئی قول و فعل کر ہی نہیں سکتا اس لیے اسکی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ | 15 |
| 385 | 2 | النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا (مائدہ: 44) انبیاء کرام ﷺ کا معصوم ہونا۔ | 16 |
| 662 | 2 | مَا ذَا أُجِبْتُمْ ۗ (مائدہ: 109) انبیاء سے پوچھا جائیگا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ | 17 |
| 448 | 3 | وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۗ (براءت: 58) | 18 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------------------|--|-----|-----------|
| 18 | نبی کے فیصلہ پر اعتراض کرنے والوں کو منافق قرار دیا گیا، گویا نبی غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ | 3 | 448 |
| 19 | كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٠﴾ حضرت یوسف علیہ السلام کا بُرائی سے بچنے کا عظیم واقعہ عصمتِ انبیاء کی دلیل ہے۔ (یوسف: 24) | 4 | 20 |
| 20 | وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢١﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٢﴾ (حجر: 40) شیطان کا اقرار ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ | 4 | 188 |
| 21 | إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ﴿٤٢﴾ (بنی اسرائیل: 65) اللہ رب العزت کا اعلان کے اے شیطان! میرے خاص بندوں پہ تیرا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ | 4 | 365 |
| 22 | لَعَنَّاكَ إِنَّهُمْ لَغَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾ (حجر: 72) اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کی قسم اٹھائی۔ | 4 | 196 |
| 23 | وَإِذْ كُذِّبَتْ إِذَا نَسِيتَ (کہف: 24) بھول جانا عصمتِ انبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ | 4 | 422 |
| 24 | إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ (نحل: 99) شیطان کو انبیاء پر کوئی اختیار نہیں۔ | 4 | 272 |
| 25 | فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ (طہ: 115) حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر دانتہ گندم کھایا۔ | 4 | 573 |
| 26 | إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾ (انبیاء: 90) انبیاء کی سیرت سبقتِ خیر، دعاء و التجاء اور خشوع و خضوع سے عبارت ہے۔ | 4 | 633 |
| عصمتِ نبوت پر اعتراضات کا جواب | | | |
| 27 | فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (بقرہ: 36) حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اور مسئلہ عصمتِ انبیاء۔ | 1 | 184 |
| 28 | قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴿٢٣﴾ (اعراف: 23) | 3 | 161 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 28 | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کا بھول جانا عصمتِ نبوت کے خلاف نہیں۔ | 3 | 161 |
| 29 | وَ عَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ (طہ: 121) اس آیت کا درست مفہوم ائمہ تفسیر کی زبانی۔ | 4 | 576 |
| 30 | اس آیت کے تحت ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے خطرناک الفاظ۔ | 4 | 578 |
| 31 | وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۙ (یوسف: 24) اس آیت کا درست مفہوم اور حضرت یوسف کے ارادہ گناہ کے بارے میں موضوع اسرائیلی روایات کا رد۔ | 4 | 21 |
| 32 | قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا (انبیاء: 63) حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> نے تعریض کی تھی جھوٹ نہیں کہا۔ تعریض اور جھوٹ میں فرق۔ | 4 | 618 |
| 33 | حدیث بخاری میں حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کے تین کذبات کی تشریح۔ | 4 | 618 |
| 34 | وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّی الْشَّيْطٰنُ فِیْ اٰمِنِيَّتِهٖ ۙ (ح: 52) کیا کسی موقع پر شیطان نے نبی اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی زبان پر کفریہ کلمات جاری کر دیے تھے؟ معاذ اللہ۔ | 4 | 684 |
| 35 | اِنَّ هٰذَا اٰخِرُ نَفْسٍ لِّهٖ تَسْعُ وَّ تَسْعُوْنَ نَعَجَةً وَّلٰی نَعَجَةً وَّ اِحِدَةً ۙ (ص: 23) حضرت داؤد <small>علیہ السلام</small> کے بارے میں غلط اسرائیلی روایات کی تردید۔ | 6 | 88 |
| 36 | وَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِكَ فَاخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ ﴿١٤﴾ (شعراء: 14) لفظ ذنب کبھی اعتراض کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ (سورہ فتح: 2) کا جواب۔ | 5 | 178 |
| 37 | وَاسْتَغْفِرْ لِدٰنْبِكَ (مومن: 55) رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی طرف لفظ ذنب کی نسبت کا مفہوم۔ | 6 | 206 |
| 38 | اسْتَغْفِرْ لِدٰنْبِكَ وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ (سورہ محمد: 19) | 6 | 439 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 38 | اس آیت میں امت سے خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ | 6 | 439 |
| 39 | لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ (سورہ فتح: 2) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ کی مختلف تفاسیر۔ | 6 | 453 |
| 40 | اس آیت کے ترجمہ میں بعض لوگوں کا ٹھوکر کھانا۔ | 6 | 457 |
| دوسرا عقیدہ: سب انبیاء پر ایمان کا روم | | | |
| 41 | لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۗ (بقرہ: 285) کسی رسول کی بے ادبی یا اسے نہ ماننا کفر ہے۔ | 1 | 606 |
| 42 | وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ (نساء: 152) سب انبیاء کرام علیہم السلام نفس نبوت میں برابر ہیں۔ | 2 | 469 |
| 43 | كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ (نساء: 163) انبیاء سابقین کی رسالت کا بیان۔ | 2 | 485 |
| 44 | إِذْ جَعَلْنَا فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ جَعَلْنَاكُمْ مَلُوكًا ۗ (مائدہ: 20) اسلام میں کسی ظلی یا بروزی نبوت کا تصور نہیں۔ | 2 | 558 |
| 45 | نُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعُ الرُّسُلَ ۗ (ابراہیم: 44) روز قیامت کفار تمنا کریں گے کہ وہ دنیا میں جائیں تو رسولوں کی اتباع کریں۔ | 4 | 165 |
| 46 | إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۗ (مریم: 51) رسول اور نبی میں فرق حدیث کی روشنی میں۔ | 4 | 500 |
| تیسرا عقیدہ: رسولان گرامی ہی کی اطاعت پر نجات موقوف ہے | | | |
| 47 | لَعَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ (نساء: 165) رسولان گرامی اللہ رب العزت کی قائم کردہ حجت ہیں جو اسکا منکر ہے وہ کافر ہے۔ | 2 | 487 |
| 48 | أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي (انعام: 130) رسولوں پر ایمان کے بارے میں بھی قیامت میں پوچھا جائیگا۔ | 3 | 114 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 49 | إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ ۗ إِنبِيَاءَ كِي اطاعت پر ہی نجات موقوف کی گئی ہے۔ (اعراف: 35) | 3 | 175 |
| 50 | قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ ۗ (اعراف: 53) | 3 | 190 |
| | چوتھا عقیدہ بر نبی و رسول کا احترام فرض اور اس سے استہزاء کفر ہے | | |
| 51 | وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (رعد: 32) | 4 | 121 |
| 52 | وَأَمْنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ (مائدہ: 12) | 2 | 541 |
| 53 | لَمْ أَكُنْ لَاسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّن حَيٍّ مَسْنُونٍ ﴿٣٣﴾ (حجر: 33) | 4 | 187 |
| | پانچواں عقیدہ: انبیاء کرام ﷺ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتے۔ انکا اسناد صرف اللہ تعالیٰ ہے | | |
| 54 | وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۗ (مائدہ: 110) | 2 | 666 |
| 55 | وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ: 31) | 1 | 174 |
| 56 | وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ (کہف: 65) | 4 | 445 |
| 57 | عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ (کہف: 66) | 4 | 450 |
| | چھٹا عقیدہ: حیات انبیاء کرام ﷺ | | |
| 58 | وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۗ (بقرہ: 154) | 1 | 358 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--|-----|---|-----------|
| 557 | 1 | فَانظُرْ اِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ (بقرہ: 259) جسم نبی کے پاس پڑا ہوا کھانا پینا سو سال تک خراب نہیں ہوا۔ | 59 |
| 354 | 2 | وَلَوْ اَنَّهٗمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ (نساء: 64) یہ آیت تاقیامت امت کو بارگاہِ رسول ﷺ میں حاضر ہو کر طلبِ بخشش کا حکم دیتی ہے۔ | 60 |
| 134 | 6 | اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اِنَّهٗمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿۳۰﴾ (زمر: 30) اس آیت کے تحت تحقیق کہ انبیاء زندہ ہیں۔ احادیث اور اقوال ائمہ۔ | 61 |
| 306 | 4 | سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ (بنی اسرائیل: 1) حضور ﷺ کا قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنا اور مسئلہ حیاتِ انبیاء۔ | 62 |
| 595 | 5 | مَا دَلَّهٗمْ عَلٰی مَوْتِہٖۤ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاتِہٖۤ (سبا: 14) معلوم ہوا زمین انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو نہیں کھاتی۔ | 63 |
| 69 | 6 | لَلْبِیْٓثِ فِیۤ اَبْطٰنِہٖۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ ﴿۱۴۴﴾ (صافات: 144) حضرت یونس علیہ السلام کا تاقیامت بطنِ حوت میں رہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سبب مچھلی بھی زندہ رہتی۔ | 64 |
| ساتواں عقیدہ: انبیاء کرام علیہم السلام تمام مخلوق خدا سے افضل ہیں | | | |
| 364 | 2 | اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الصِّدِّیْقِیْنَ وَ الشُّہَدَآءِ وَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۶۹﴾ (نساء: 69) انبیاء کا ذکر تمام منعم علیہم سے پہلے ہے جو انکی افضلیت پر دل ہے۔ | 65 |
| 72 | 3 | وَ کُلًّا فَضَّلْنَا عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۸۶﴾ (انعام: 86) انبیاء کو تمام جہانوں پر افضل قرار دیا گیا۔ افضلیتِ انبیاء پر دیگر دلائل۔ | 66 |
| 73 | 3 | کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہنا کفر ہے۔ اقوال ائمہ | 67 |
| 250 | 3 | اِنِّیۤ اِصْطَفٰیْتُكَ عَلٰی النَّاسِ بِرِسٰلَتِیۡ (اعراف: 144) رسول کا غیر رسول سے افضل ہونا بوجہ رسالت۔ | 68 |
| 8 | 4 | وَ کَذٰلِکَ یَجْتَبِیْکَ رَبُّکَ وَ یُعَلِّمُکَ مِنْ تَاْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ وَ یُتِمُّ نِعْمَتَہٗۤ ﴿۸﴾ | 69 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 69 | عَلَيْكَ (یوسف: 6) اللہ تعالیٰ کے ہاں نبوت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ | 4 | 8 |
| 70 | اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (حج: 75) رسول خواہ فرشتہ ہو یا انسان وہ غیر رسول سے افضل ہے۔ | 4 | 698 |
| 71 | وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (ص: 47) یہ آیت انبیاء کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ | 6 | 100 |

انبیاء کرام علیہم السلام کی مختلف صفات عالیہ اور اخلاق

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | وَأُتِرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى يَا ذنِ اللَّهِ (آل عمران: 49) نبی اپنے معجزہ کا چیلنج دے سکتا ہے۔ | 2 | 62 |
| 2 | معجزہ کا اظہار نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ | 2 | 62 |
| 3 | قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا (مائدہ: 109) انبیاء کرام <small>علیہم السلام</small> روز قیامت علم الہی کے مقابلہ میں اپنے علم کی نفی کر دیں گے۔ | 2 | 662 |
| 4 | لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (اعراف: 67) انبیاء و رسل کو ذہنی عارضہ نہیں ہو سکتا۔ | 3 | 200 |
| 5 | قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ (اعراف: 75) انبیاء پر ایمان والے اکثر معاشرہ کے فقیر و نادار لوگ تھے۔ | 3 | 206 |
| 6 | قَالَ هُوَ لَأَبْنَتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ (حجر: 71) یہ آیت انبیاء کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ | 4 | 196 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 6 | نبی اپنی امت کے لیے بمنزل باپ ہوتا ہے۔ | 4 | 196 |
| 7 | قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا (ط: 18) لاٹھی ہاتھ میں رکھنا سنتِ انبیاء ہے اور اسکے فوائد۔ | 4 | 529 |
| 8 | غلہ بانی سنتِ انبیاء ہے اور اسکی حکمت۔ | 4 | 529 |
| 9 | وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ (ط: 27) اعلان نبوت کے بعد انبیاء میں کوئی ایسا جسمانی عیب نہیں چھوڑا جاتا جس پر لوگ مذاق اڑائیں۔ | 4 | 531 |
| 10 | فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾ (زخرف: 50) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کا عذاب ٹل جاتا تھا۔ | 6 | 331 |
| 11 | إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ (شعراء: 107-125-143-162-178) انبیاء ابلاغِ دین میں امین ہیں کوئی خیانت نہیں کر سکتے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پروانہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھے بغیر چلے جائیں؟ | 5 | 201 |
| 12 | وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ (شعراء: 114) | 5 | 201 |
| 13 | وَيَقَوْمٍ مِّن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ ﴿٣٠﴾ (هود: 30) انبیاء کرام علیہم السلام نادار مومنوں کو پاس بٹھاتے تھے اور متکبر سرمایہ داروں کو بھگا دیتے تھے۔ اس میں زر پرست علماء و مشائخ کے لیے ہدایت ہے۔ | 3 | 627 |
| 14 | وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (نقص: 12) نبی شیر خوارگی ہی سے منع علم ہوتا ہے۔ | 5 | 288 |
| 15 | پیغمبر کا محرمات سے معصوم ہونا۔ | 5 | 289 |
| 16 | وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَّسُولًا (نقص: 59) ہر رسول کسی علاقہ کے مرکزی شہر میں بھیجا جاتا تھا تا کہ آس پاس ہر طرف اسکی دعوت عام ہو۔ | 5 | 322 |
| 17 | فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴿١٤﴾ (عنکبوت: 14) | 5 | 351 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 17 | حضرت نوح <small>علیہ السلام</small> کا عمل بتاتا ہے کہ انبیاء استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں۔ | 5 | 351 |
| 18 | لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۗ (احزاب: 69) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جسمانی عیب سے پاک ہوتے ہیں۔ | 5 | 579 |
| 19 | مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ (مومن: 78) انبیاء کرام کی کل تعداد حدیث سے۔ | 6 | 218 |
| 20 | إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (شوری: 51) وحی کی تین اقسام۔ | 6 | 305 |
| انبیاء کو بچپن ہی سے معرفت الہیہ حاصل ہوتی ہے | | | |
| 21 | وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ (انبیاء: 51) حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> نے بچپن ہی میں ستارہ پرستی کا رد کیا اور یہی ہر نبی کی شان ہے۔ | 4 | 613 |
| 22 | فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّيَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلِينَ ﴿٧٦﴾ (انعام: 76) حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> نے بقول محمد بن اسحاق غار سے نکل کر پہلی بار ستارے دیکھے تو انکی ربوبیت کی تردید کی۔ | 3 | 66 |
| 23 | وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ (مریم: 12) حضرت یحییٰ <small>علیہ السلام</small> کو بچپن ہی سے حکمت دیدی گئی۔ | 4 | 479 |
| 24 | قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ (مریم: 30) حضرت عیسیٰ <small>علیہ السلام</small> ماں کی گود میں صاحب معجزہ ہیں یعنی ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اسی لیے بچپن ہی سے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ | 4 | 489 |
| انبیاء کرام <small>علیہم السلام</small> کی استجابات دعا | | | |
| 25 | وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ (بقرہ: 126) آج مکہ مکرمہ میں پھلوں کی بہتات دعا ابراہیم کا اثر ہے۔ | 1 | 319 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 26 | رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (مائدہ: 114) دعاء عیسیٰ علیہ السلام سے آسمانوں سے کھانے سے بھرادرستخوان اُترا۔ | 2 | 669 |
| 27 | رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ (اعراف: 89) دعاء شعیب علیہ السلام سے نجات مسلمان اور ہلاکت منکرین۔ | 3 | 214 |
| 28 | قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ (اعراف: 155) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے ستر بنی اسرائیل کا دوبارہ زندہ کیا جانا۔ | 3 | 259 |
| 29 | وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ (بقرہ: 60) دعاء موسیٰ علیہ السلام کے صدقے پتھر سے بارہ چشمے چلائے گئے۔ | 1 | 220 |
| 30 | فَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَمَثَلِ الْكَلْبِ الْكَلْبِ (ابراہیم: 37) مکہ مکرمہ کی طرف لوگوں کا پروانہ وار کھنچنا دعاء ابراہیم ہی ہے۔ | 4 | 161 |
| 31 | فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ (طہ: 97) سامری کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کی دعاء ہلاکت۔ | 4 | 566 |
| 32 | فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (شعراء: 118) نوح علیہ السلام کی دعا اور اسکی قبولیت۔ | 5 | 203 |
| 33 | رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (شعراء: 169) لوط علیہ السلام کی دعاء اور اسکی قبولیت۔ | 5 | 212 |
| 34 | إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (زخرف: 50) قوم فرعون پر کئی عذابات آئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور آپ کی دعا سے وہ عذابات ٹال دیے جاتے تھے۔ | 6 | 331 |

تاریخ انبیاء کرام علیہم السلام

انبیاء کرام علیہم السلام کے انفرادی فضائل اور حالات

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> | | |
| 1 | اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (بقرہ: 30) | 1 | 170 |
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کس معنی میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ٹھہرے۔ | | |
| 2 | اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ (بقرہ: 34) | 1 | 177 |
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کے لیے سجود ملائکہ اور بعض شہادت کا ازالہ۔ | | |
| 3 | یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (بقرہ: 35) | 1 | 182 |
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کو کچھ عرصہ جنت میں کیوں رکھا گیا۔ | | |
| 4 | کیا حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کو دنیا کے کسی باغ میں رکھا گیا تھا؟ | 1 | 183 |
| 5 | وَ اٰتٰی عَلَیْهِمْ نَبَاۤ اِبْنِیْۤاۤدَمَ (مائدہ: 27) | 2 | 563 |
| | قائیل کا ہابیل کو قتل کرنا۔ | | |
| 6 | فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا یَّبْحَثُ فِی الْاَرْضِ (مائدہ: 31) | 2 | 566 |
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کے بیٹے قائیل کا قصہ۔ | | |
| 7 | اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ (آل عمران: 33) | 2 | 42 |
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کے چنے جانے کا معنی۔ | | |
| 8 | کَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران: 59) | 2 | 73 |
| | حضرت آدم <small>علیہ السلام</small> کو مٹی سے بنایا گیا۔ | | |
| 9 | ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ (اعراف: 11) | 3 | 153 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------------------------|--|-----|-----------|
| 9 | سجود آدم ﷺ کس معنی میں تھا؟ | 3 | 153 |
| 10 | وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (اعراف: 19) حضرت حوا علیہا السلام کا حق مہر کیا تھا۔ | 3 | 157 |
| 11 | وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (اعراف: 172) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کی پشت سے انکی ساری اولاد کی ارواح نکال کر ان سے اقرار ربوبیت لیا۔ | 3 | 282 |
| 12 | فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ (اعراف: 190) حضرت آدم و حوا کی طرف نسبت شرک کا رد۔ | 3 | 301 |
| حضرت نوح علیہ السلام | | | |
| 13 | إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا (آل عمران: 33) حضرت نوح علیہ السلام کے چنے جانے کا معنی۔ | 2 | 42 |
| 14 | إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ (النساء: 163) حضرت نوح علیہ السلام کے یہاں خصوصی ذکر کی وجہ۔ | 2 | 485 |
| 15 | لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ (اعراف: 59) حضرت نوح علیہ السلام کے مختصر احوال زندگی۔ | 3 | 197 |
| 16 | وَاعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ (اعراف: 64) طوفان نوح ساری زمین پر نہیں آیا تھا۔ | 3 | 198 |
| 17 | ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ (یونس: 71) حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بعثت اور آپ کی تبلیغی مساعی۔ | 3 | 581 |
| 18 | فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ (یونس: 73) حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے انسانیت کیسے چلی۔ | 3 | 583 |
| 19 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ --- مَا نُرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا (هود: 27) | 3 | 623 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 19 | قوم کا حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا۔ | 3 | 623 |
| 20 | وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۗ (ہود: 38) | 3 | 631 |
| 21 | حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا اور کفار کا اس پر مذاق اڑانا۔ | 3 | 633 |
| 22 | قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (ہود: 40) | 3 | 634 |
| 23 | حضرت نوح علیہ السلام میں ہر جانور کا جوڑا سوار کیا جانا۔ | 3 | 634 |
| 24 | قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ (ہود: 42) | 3 | 634 |
| 25 | حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے کافر بیٹے کو سوار ہونے کے لیے پکارنا۔ | 3 | 634 |
| 26 | وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ (ہود: 44) | 3 | 634 |
| 27 | حضرت نوح علیہ السلام کہاں آ کر رکی۔ | 3 | 635 |
| 28 | کشتی کتنے دن پانی پہ رہی کہاں کہاں گھومی۔ | 3 | 635 |
| 29 | طوفان نوح ساری زمین پر نہیں صرف جزیرہ عرب پر آیا تھا۔ | 3 | 635 |
| 30 | وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي (ہود: 45) | 3 | 636 |
| 31 | حضرت نوح علیہ السلام کا سوال کہ اے اللہ! میرا بیٹا کیوں ہلاک ہوا؟ | 3 | 636 |
| 32 | وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ (بنی اسرائیل: 17) | 4 | 329 |
| 33 | حضرت نوح علیہ السلام سے قبل کسی قوم کو عذاب نہ دیا گیا کیونکہ سب مسلمان تھے۔ | 4 | 329 |
| 34 | وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا (انبیاء: 76) | 4 | 625 |
| 35 | حضرت نوح علیہ السلام کی استجابت دعا اور کرب عظیم سے آزادی پانا۔ | 4 | 625 |
| 36 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ --- حَتَّىٰ حِينٍ ۖ (مومنون: 25) | 5 | 16 |
| 37 | حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی مساعی جمیلہ۔ | 5 | 16 |
| 38 | فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا (مومنون: 27) | 5 | 18 |
| 39 | آپ کا حکم ربی کے ساتھ کشتی بنانا۔ | 5 | 18 |
| 40 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا عَجَبًا (14) | 5 | 350 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|------------------------------|---|-----|-----------|
| 31 | حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ کتنا عرصہ تبلیغ کی اور کتنے آدمی ایمان لائے۔ | 5 | 350 |
| 32 | وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ (صافات: 77) طوفان نوح کے بعد صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کی نسل چلی۔ باقی مومنین بے نسل چلے گئے۔ | 6 | 5 |
| 33 | قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَ نَهَارًا ﴿٦٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿٦٦﴾ (نوح: 5-6) حضرت نوح علیہ السلام کی کفار کے مقابلہ میں اپنے رب سے درد مندانه فریاد و التجاء۔ | 7 | 218 |
| حضرت ہود علیہ السلام | | | |
| 34 | وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴿٥٠﴾ حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو حکیمانہ دعوت اور ان کا دورِ بعثت۔ | 3 | 639 |
| 35 | قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ﴿٥٣﴾ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کے معجزہ سے انکار۔ | 3 | 641 |
| 36 | وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿٥٨﴾ قوم عاد پر آنے والا عذاب بصورتِ آندھی۔ | 3 | 643 |
| 37 | اتَّبِنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ (شعراء: 128) قوم عاد بلند پہاڑوں پر مکانات بناتے تھے صرف اظہارِ فخر کے لیے۔ | 5 | 206 |
| 38 | قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّسْتَبْرَأٌ ﴿٢٤﴾ (احقاف: 24) قوم عاد پر گہرے بادل چھائے تو وہ خوش ہوئے، مگر وہ عذاب تھا۔ | 6 | 416 |
| 39 | وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴿٦٥﴾ (اعراف: 65) حضرت ہود علیہ السلام کا نسب، آپ کو کہاں بھیجا گیا۔ | 3 | 199 |
| 40 | وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ﴿٦٩﴾ (اعراف: 69) قوم عاد کا طویل قامت ہونا۔ | 3 | 203 |
| حضرت صالح علیہ السلام | | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 644 | 3 | وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا (هود: 61) حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت اور تبلیغ۔ | 41 |
| 645 | 3 | قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا (هود: 62) حضرت قوم کا صالح علیہ السلام کو کار تبلیغ سے روکنا۔ | 42 |
| 646 | 3 | وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (هود: 64) حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کا نکالا جانا۔ | 43 |
| 647 | 3 | فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا (هود: 66) قوم ثمود پر عذاب الہی کا فرشتے کی چیخ کی صورت میں آنا۔ | 44 |
| 210 | 5 | فَعَقَرُوا هَا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ نُنزِّلَ الْغَيْثَ (شعراء: 157) قوم ثمود کا اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کا ٹٹنا اور ہلاک ہونا۔ | 45 |
| 261 | 5 | قَالُوا اتَّقَاسُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ (نمل: 49) قوم ثمود کے نوا افراد کامل کر قتل صالح علیہ السلام کی سازش کرنا اور عذاب کا شکار ہونا۔ | 46 |
| | | حضرت ابراہیم علیہ السلام | |
| | | بچپن | |
| 66 | 3 | فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا (انعام: 76) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن میں سورج چاند ستاروں کی خدائی کا رد کرنا۔ | 47 |
| 613 | 5 | وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ (انبیاء: 51) جوانی میں بتوں کا توڑنا۔ | 48 |
| 615 | 5 | وَتَاللَّهِ لَا كَيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ --- فَجَعَلَهُمْ جُدُذًا (انبیاء: 57-58) آپ کے بتوں کو توڑنے کی تفصیل۔ | 49 |
| 55 | 6 | فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (صافات: 93) | 50 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | بعثت و تبلیغ | | |
| 51 | وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرِئِي مَا اتَّخَذَ آصْنَامًا مَّا إِلَهَةً (انعام: 74) آپ کی اپنے چچا کو تبلیغ۔ | 3 | 64 |
| 52 | يَأْتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ (مریم: 42) | 4 | 495 |
| 53 | إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ (عنکبوت: 16) آپ کی تبلیغی مساعی۔ | 5 | 353 |
| | نمرود سے مقابلہ | | |
| 54 | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ (بقرہ: 258) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ۔ | 1 | 554 |
| 55 | نمرود کون تھا؟ | 1 | 556 |
| | تبرید نار | | |
| 56 | إِنَارٌ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (انبیاء: 69) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کے سرد کیے جانے کا واقعہ۔ | 4 | 620 |
| 57 | مرزائیوں کی طرف سے اس واقعہ کی ملحدانہ تاویلات۔ | 4 | 621 |
| | ہجرت | | |
| 58 | وَاعْتَصِرْ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (مریم: 48) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور سیرت ابراہیمی و سیرت محمدی میں مماثلت۔ | 4 | 498 |
| 59 | وَنَجَّيْنَاهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا (انبیاء: 71) بابل سے آپ کی ہجرت کے بعد اہل بابل پر آنے والا عذاب الہی۔ | 4 | 623 |
| 60 | وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي (عنکبوت: 26) | 5 | 356 |
| | بڑھاپے میں اولاد | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 649 | 3 | وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى (سورہ: 69) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا بیٹے اور پوتے کی بشارت لانا۔ | 61 |
| | | تعمیر کعبہ و احب راجح | |
| 321 | 1 | وَإِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (بقرہ: 127) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے تعمیر کعبہ۔ | 62 |
| 664 | 4 | وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (حج: 26) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبۃ اللہ کی جگہ کا تعین کیسے کیا گیا۔ | 63 |
| 665 | 4 | وَإِذْ نَفَخْنَا فِي السَّمَاءِ بِالسَّحَابِ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا لِّنُحْيِيَ النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ وَلِئِيذِي السَّمَاءِ نَسْفَعُ بِالنَّفْثِ الْوَارِثِ (حج: 27) آپ نے پہلی بار حج کا اعلان کیسے فرمایا؟ | 64 |
| | | بیٹے کے ذریعے امتحان | |
| 161 | 4 | إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَوْعٍ (ابراہیم: 37) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیوی بچوں کو وادی بے آب و گیاہ میں چھوڑنا۔ | 65 |
| | | بیٹے کی متربانی | |
| 57 | 6 | يٰبَنِيَّ إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى (صافات: 102) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ | 66 |
| 61 | 6 | وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ (صافات: 107) ذبح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ | 67 |
| | | فضائل | |
| 308 | 1 | وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ (بقرہ: 124) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی کلمات سے آزما یا گیا؟ | 68 |
| 309 | 1 | قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (بقرہ: 124) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا جانا کس معنی میں ہے؟ | 69 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 70 | قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ^ط (بقرہ: 124) آپ کی ذریت میں کونسی امامت رکھی گئی۔ | 1 | 310 |
| 71 | وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلِّئًا ^ط (بقرہ: 125) مقام ابراہیم والے پتھر کی عظمت۔ | 1 | 315 |
| 72 | وَ كَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (انعام: 75) جب حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کو تمام کائنات ارضی و سماوی کا مشاہدہ کروایا گیا۔ | 3 | 65 |
| 73 | دَيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا ^ط (انعام: 161) ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم۔ | 3 | 140 |
| 74 | اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمًا اَوْ اَهًا مُنِيْبًا ^ط (ہود: 75) حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی صفات عالیہ۔ | 3 | 652 |
| 75 | اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً ^ط (نحل: 120) وہ اپنی خوبیوں میں ایک امت کے برابر تھے۔ | 4 | 293 |
| 76 | وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ ^ط (عنکبوت: 27) حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کے بعد تمام انبیاء ذریت ابراہیمی میں آئے۔ | 5 | 356 |
| 77 | حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی دونسلوں میں نبوت چلائی گئی اور نبی اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی دونسلوں میں ولایت چلائی گئی۔ | 5 | 356 |
| حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی قبولیت دعا | | | |
| 78 | وَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى ^ط (بقرہ: 260) حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> کی دعا سے آپ کے ہاتھ پر چار پرندے زندہ کیے گئے۔ | 1 | 563 |
| 79 | وَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا ^ط (ابراہیم: 35) وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم <small>علیہ السلام</small> نے عمر کے آخری حصہ میں فرمائیں۔ | 4 | 159 |
| حضرت اسماعیل <small>علیہ السلام</small> | | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|------------------------------|---|-----|-----------|
| 80 | وَ اذِیْرَفْعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَیْتِ وَ اِسْعٰیِلُ ؕ (بقرہ: 127) | 1 | 321 |
| | حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا۔ | | |
| 81 | وَ عٰهَدْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْعٰیِلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیْ لِلطَّٰیِبِیْنَ (بقرہ: 125) | 1 | 316 |
| | بیت اللہ کی نگہداری کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کیا جانا۔ | | |
| 82 | وَ اِلٰهَ اَبَاۤیْکَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْعٰیِلَ وَ اِسْحٰقَ (بقرہ: 133) | 1 | 330 |
| | اولاد یعقوب علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے آباء میں سے ذکر کرنا (آج یہود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کوئی فضیلت نہیں مانتے)۔ | | |
| 83 | وَ اَوْحٰیْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْعٰیِلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ (نساء: 163) | 2 | 486 |
| | صف انبیاء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ، اس میں یہود کا رد ہے۔ | | |
| 84 | وَ اِسْعٰیِلَ وَ الْیَسَعَ وَ یُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ (انعام: 86) | 3 | 70 |
| | جہاں بھی متعدد انبیاء کا ذکر ہو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ضرور کیا گیا۔ | | |
| 85 | فَبَشِّرْ نٰهَا بِاِسْحٰقَ ؕ وَ مِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ یَعْقُوْبَ ؕ (ہود: 71) | 3 | 652 |
| | معلوم ہوا ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔ | | |
| 86 | وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ اِسْعٰیِلَ ؕ اِنَّہٗ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (مریم: 54) | 4 | 501 |
| | حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے صادق الوعد تھے؟ | | |
| 87 | قَالَ یٰۤاَبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ؕ (صافات: 102) | 6 | 57 |
| | حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عظیم جذبہ قربانی اور جذبہ اطاعت والد۔ | | |
| حضرت یوسف علیہ السلام | | | |
| 88 | نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصِصِ (یوسف: 3) | 4 | 4 |
| | قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ | | |
| 89 | اِنِّیْ رَاۤیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاۤیْتُہُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ ؕ (یوسف: 4) | 4 | 5 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن کا خواب اور اسکی تعبیر۔ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 90 | برادرانِ یوسف <small>علیہ السلام</small> کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ | 4 | 6 |
| 91 | حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> اور آپ کے خاندان کا تعارف۔ | 4 | 6 |
| 92 | إِذْ قَالُوا الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ <small>(یوسف: 8)</small> بھائیوں کا حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کے بارے میں بتلائے حسد ہونا۔ | 4 | 8 |
| 93 | وَإِخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّبُّ <small>(یوسف: 13)</small> حضرت یعقوب <small>علیہ السلام</small> کا خواب کہ یوسف پردس بھینڑیوں نے حملہ کیا ہے۔ | 4 | 12 |
| 94 | وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ <small>(یوسف: 15)</small> حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کا کنوئیں میں گرایا جانا۔ | 4 | 13 |
| 95 | جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ <small>(یوسف: 18)</small> برادرانِ یوسف <small>علیہ السلام</small> کا قمیص یوسف پر جھوٹا خون لگا کر لانا۔ | 4 | 16 |
| 96 | يُبَشِّرُ هَذَا غُلْمًا <small>(یوسف: 19)</small> وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کا کنوئیں سے ایک قافلہ کے ہاتھ لگنا۔ | 4 | 14 |
| 97 | وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتٍ <small>(یوسف: 21)</small> مصر میں حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کا بیچا جانا۔ | 4 | 19 |
| 98 | وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ <small>(یوسف: 23)</small> زلیخا کا حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کے پیچھے پڑنا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کو بچانا۔ | 4 | 20 |
| 99 | حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> کے ارادہ گناہ کے بارے میں موضوع اسرائیلی روایات۔ | 4 | 21 |
| 100 | وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ <small>(یوسف: 24)</small> حضرت یوسف <small>علیہ السلام</small> نے اپنے رب کی کیا دلیل دیکھی؟ | 4 | 22 |
| 101 | وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ <small>(یوسف: 31)</small> حسنِ یوسف <small>علیہ السلام</small> کو دیکھ کر زنانِ مصر کا اپنے ہاتھ کاٹنا۔ | 4 | 28 |
| 102 | حسنِ یوسف <small>علیہ السلام</small> حدیث کی روشنی میں۔ | 4 | 29 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 103 | قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ --- مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ (یوسف: 33-35) | 4 | 32 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کے ظاہری دلائل۔ | | |
| 104 | وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۗ (یوسف: 36) | 4 | 33 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور نان بائی و ساقی کا خواب۔ | | |
| 105 | قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال۔ | 4 | 34 |
| 106 | لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ (یوسف: 37) | 4 | 34 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ میں لوگوں کو اخبارِ غیب بتانا۔ | | |
| 107 | وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ (یوسف: 43) | 4 | 39 |
| | شاہِ مصر کا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر کا پوچھا جانا۔ | | |
| 108 | يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَبَانَ (یوسف: 46) | 4 | 40 |
| | ساقی کا بادشاہ کے خواب کی تعبیر لینے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانہ میں آنا۔ | | |
| 109 | قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا ۗ (یوسف: 47) | 4 | 41 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا۔ | | |
| 110 | وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ (یوسف: 50) | 4 | 43 |
| | بادشاہِ مصر کا حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے بلانا اور آپ کی شانِ استغناء۔ | | |
| 111 | أَنَارَ آوْدُتُّهُ عَنِ نَفْسِهِ ۗ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِّيقِينَ ﴿٥١﴾ (یوسف: 51) | 4 | 44 |
| | زینجا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو پاکدامن اور خود کو قصور وار ٹھہرانا۔ | | |
| 112 | وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ ۗ أَسْتَخْلِصُكَ لِنَفْسِي ۗ (یوسف: 54) | 4 | 46 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ سے نکل کر تختِ شاہی پر بیٹھنا۔ | | |
| 113 | وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۗ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۗ (یوسف: 56) | 4 | 49 |
| | حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکمِ اعلیٰ بنے تھے نہ کہ صرف وزیر خزانہ قرآنی دلائل کی روشنی میں۔ | | |
| 114 | حاکمِ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے اہم سرکاری اقدامات۔ | 4 | 50 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 115 | زیلجا سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی۔ | 4 | 51 |
| 116 | وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾ (یوسف: 58) برادران یوسف علیہ السلام کا حصول غلہ کے لیے آپ کے پاس آنا۔ | 4 | 52 |
| 117 | وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ (یوسف: 62) حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامان میں انکی پونجی واپس کر دینا۔ | 4 | 54 |
| 118 | قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ (یوسف: 69) حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا باہم تعارف۔ | 4 | 59 |
| 119 | جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ (یوسف: 70) حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک حیلہ سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینا۔ | 4 | 60 |
| 120 | قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ﴿٧٩﴾ (یوسف: 79) حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک کر غم یعقوب علیہ السلام میں اضافہ کیوں کیا؟ | 4 | 64 |
| 121 | يَبْنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ (یوسف: 87) حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمان بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ | 4 | 69 |
| 122 | حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ اور خیر سے ہیں۔ | 4 | 69 |
| 123 | قَالُوا أَيْنَ أَنْتَ يَا يُوسُفَ ﴿٩٠﴾ (یوسف: 90) بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچاننا اور اعتراف جرم کرنا۔ | 4 | 70 |
| 124 | أَذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا ﴿٩٣﴾ (یوسف: 93) قمیص یوسف علیہ السلام کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا لوٹ آنا۔ | 4 | 73 |
| 125 | قمیص یوسف علیہ السلام کی تاریخ۔ | 4 | 73 |
| 126 | لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ | 4 | 74 |
| 127 | إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَنْ تُفْنِدُونِ ﴿٩٤﴾ (یوسف: 94) حضرت یعقوب علیہ السلام کا 80 فراخ سے قمیص یوسف علیہ السلام کی خوشبو کا محسوس فرم لینا۔ | 4 | 75 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-------------------------------|-----|---|-----------|
| 77 | 4 | وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا (یوسف: 100) والدین اور بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا۔ | 128 |
| 78 | 4 | خالہ بمنزل ماں ہے از روئے شرع۔ | 129 |
| 78 | 4 | باپ نے بیٹے کو کیوں سجدہ کیا؟ | 130 |
| 81 | 4 | تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (یوسف: 101) حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال۔ | 131 |
| 82 | 4 | جسدِ یوسف علیہ السلام کی مصر سے فلسطین منتقلی۔ | 132 |
| حضرت موسیٰ علیہ السلام | | | |
| ولادت - بچپن | | | |
| 534 | 4 | أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ (طہ: 39) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دریا میں کیوں بہایا گیا؟ | 133 |
| 288 | 5 | وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (قصص: 12) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انکی والدہ کی طرف شیر خوارگی کے لیے کیسے لوٹایا گیا؟ | 134 |
| 535 | 4 | هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ (طہ: 40) | 135 |
| جوانی | | | |
| 290 | | فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ (قصص: 15) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعون کا بلا ارادہ مارا جانا۔ | 136 |
| 291 | | یہ واقعہ قرآن میں کیسے ہے اور بائبل میں کیسے۔ | 137 |
| 296 | | وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ (قصص: 22) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جان بچا کر مدین جانا۔ | 138 |
| 298 | | فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ (قصص: 24) | 139 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 139 | حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دخترانِ شعیب علیہم السلام کی مدد کرنا۔ | 5 | 298 |
| 140 | قَالَ اِنِّي اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (قصص: 27) حضرت شعیب علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہنا۔ | 5 | 300 |
| | موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کے دامن میں منصب نبوت کا پانا | | |
| 141 | اَنْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا (قصص: 29) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے دامن میں آگ میں جلتا درخت نظر آیا، مگر وہ درخت شاداب ہوتا جا رہا تھا۔ | 5 | 304 |
| 142 | درخت نور الہی کا مظہر کیسے بنا؟ | 5 | 304 |
| 143 | اِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِيهِ امْكُثُوْا اِنِّي اَنْسْتُ نَارًا (طہ: 10) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دامن طور میں مدین سے واپسی پر نبوت و رسالت عطا فرمائی گئی۔ | 4 | 524 |
| 144 | نُوْدِيْ يٰمُوسٰى اِنِّيْ اَنَا رَبُّكَ (طہ: 11) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نداء کیسے سنی؟ | 4 | 525 |
| 145 | قَالَ خُذْهَا وَاَلَا تَخَفُ سَنَعِيْدُهَا سَيِّرَتَهَا الْاُولٰٓئِ (طہ: 21) منصب رسالت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا اثر دہا بننا کیوں دکھایا گیا اس کے تین اسباب۔ | 4 | 529 |
| 146 | حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر پہنچے تو والدہ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ | 5 | 307 |
| 147 | فَاَجْعَلْ لِّيْ صِرًا لِّعَلِّيْ اَطَّلِعُ اِلَى الْاِلٰهِ مُّوسٰى (قصص: 38) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت تو حیددی تو اس نے کہا میں بلندی پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بلند مینار بنایا گیا۔ | 5 | 309 |
| | حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جا کر اسے دعوت حق دینا | | |
| 148 | وَقَالَ مُّوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ (اعراف: 104) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں اعلان حق فرمانا۔ | 3 | 222 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 222 | 3 | فَالْتَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ (اعراف: 107) کیا دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اڑدھا نہیں بنا تھا۔ | 149 |
| 224 | 3 | يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾ (اعراف: 112) فرعون نے سارے مصر سے ہزاروں جادوگر جمع کر لیے۔ | 150 |
| 225 | 3 | فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ (اعراف: 116) جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ | 151 |
| 225 | 3 | جادو اور معجزہ میں فرق؟ | 152 |
| 226 | 3 | فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ (اعراف: 117) کیا عصا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کی رسیوں اور لکڑیوں کو نگل نہیں لیا تھا؟ | 153 |
| 185 | 5 | فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ (شعراء: 45) | 154 |
| 228 | 3 | لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ --- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَنَّا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ (اعراف: 124-126) سابق جادوگروں کی استقامت و حق گوئی۔ | 155 |
| 233 | 3 | وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ (اعراف: 130) فرعونی قوم پر آنے والے مختلف عذابات۔ | 156 |
| 239 | 3 | قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (اعراف: 138) بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کا مطالبہ۔ | 157 |
| | | حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر چپلہ کرنا پھر کتاب کا حاصل کرنا | |
| 247 | 3 | قَالَ رَبِّ ارِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴿١٤٣﴾ (اعراف: 143) موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے دیدار کی تمنا کرنا۔ | 158 |
| 249 | 3 | إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ﴿١٤٤﴾ (اعراف: 144) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات کا دیا جانا۔ | 159 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 160 | تورات میں امت محمدیہ کا ذکر جمیل و طویل۔ | 3 | 250 |
| 161 | وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ (یونس: 87) مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی پر آشوب زندگی۔ | 3 | 586 |
| 162 | وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ (یونس: 87) قیام مصر کے دوران فرعون کی تسلط کے تحت بنی اسرائیل میں اقامتِ صلوة۔ | 3 | 588 |
| | فرعون کا عسرق ہونا اور بنی اسرائیل کا نجات پانا | | |
| 163 | حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُمُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي مَرْتے ہوئے فرعون کا ایمان لانا اور اس کا قبول نہ کیا جانا۔ | 3 | 592 |
| 164 | مَرْتے ہوئے فرعون کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مٹی ٹھونسنا اور اسکی توجہیہ۔ | 3 | 592 |
| 165 | فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً (یونس: 92) فرعون کی لاش کا محفوظ رکھا جانا۔ | 3 | 593 |
| 166 | وَإِذْ أَخْبَرْنَا آلِي مُوسَىٰ أَنَّ اسْرِبِعْبَادِي انْكُم مُّتَّبِعُونَ (شعراء: 52) بنی اسرائیل کن حالات میں فرعونوں سے بچ کر مصر سے نکلے۔ | 5 | 188 |
| 167 | كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (شعراء: 59) فرعونی قوم کے بعد مصر کو بنی اسرائیل نے سنبھالا۔ | 5 | 189 |
| 168 | فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (شعراء: 63) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے سمندر کا پھٹنا۔ | 5 | 191 |
| | قوم موسیٰ علیہ السلام کا بچھڑا پرستی میں مبتلا ہونا | | |
| 169 | ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (بقرہ: 51) بنی اسرائیل بچھڑا پرستی میں کیسے مبتلا ہوئے؟ | 1 | 209 |
| 170 | فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ: 54) بچھڑا پرستی کرنے پر بنی اسرائیل کی توبہ کیسے قبول کی گئی؟ | 1 | 212 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 214 | 1 | وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً (بقرہ: 55) | 171 |
| | | بچھڑا پرستی کے بعد قوم موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کہ اللہ کو کھلم کھلا دکھایا جائے۔ | |
| | | حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد تارون کی ہلاکت | |
| 329 | 5 | إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ (قصص: 76) | 172 |
| | | تارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہونے کے باوجود منافق اور فرعون کا وفادار تھا اس سے بہت مال لیتا تھا یوں اس نے بہت سا مال جمع کر لیا۔ | |
| 330 | 5 | مسلم قوم سے غداری اور کفار سے وفاداری کی سزا۔ | 173 |
| 331 | 5 | تارون کا مال کے تکبر میں دامن گھسیٹ کر چلنا۔ | 174 |
| 333 | 5 | فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ (قصص: 81) | 175 |
| | | تارون کا ایک فاحشہ عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا بہتان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا جوش میں آنا۔ | |
| | | حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال | |
| 562 | 2 | فَأَفْرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (مائدہ: 25) | 176 |
| | | جب بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جدائی کا سوال کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ | |
| | | حضرت شعیب علیہ السلام | |
| 211 | 3 | وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا (اعراف: 85) | 177 |
| | | قوم مدین کی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی اور جھگڑا۔ | |
| 215 | 3 | فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ (اعراف: 91) | 178 |
| | | قوم مدین پر آنے والا عذاب۔ | |
| 657 | 3 | وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا (هود: 84) | 179 |
| | | قوم مدین کہاں آباد تھی؟ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------------------------|---|-----|-----------|
| 180 | وَلَا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبَيْزَانَ (هود: 85) قوم مدین کا ناپ تول میں کمی کر کے بتلائے عذاب ہونا۔ | 3 | 657 |
| 181 | وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ (هود: 94) قوم مدین پر چیخ کی صورت میں عذاب کا آنا۔ | 3 | 663 |
| 182 | قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (قصص: 27) حضرت شعیب علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کو بیاہنا۔ | 5 | 300 |
| حضرت لوط علیہ السلام | | | |
| 183 | وَلَوْ كَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ (اعراف: 80) لوط علیہ السلام کا تعارف۔ | 3 | 208 |
| 184 | قوم لوط میں بیچاری کیسے داخل ہوئی؟ | 3 | 209 |
| 185 | وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ (هود: 78) قوم لوط کا دوڑکوں کی بات سن کر خانہ لوط علیہ السلام کی طرف لپکتے آنا اور دروازہ توڑنا۔ | 3 | 654 |
| 186 | فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ (هود: 81) حضرت لوط علیہ السلام کا شہر سے نکلنا اور قوم پر عذاب کا آنا۔ | 3 | 655 |
| 187 | وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (انبیاء: 71) حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمانا۔ | 4 | 622 |
| 188 | وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ (عنکبوت: 29) قوم لوط محفل میں لواطت کرتے تھے (معاذ اللہ)۔ | 5 | 358 |
| حضرت ادريس علیہ السلام | | | |
| 189 | وَ اذْكَرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم: 56) حضرت ادريس علیہ السلام کا تعارف۔ | 4 | 502 |
| 190 | وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مریم: 57) | 4 | 502 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 191 | حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ جنت میں جانے کی تردید۔ | 4 | 502 |
| | حضرت داؤد علیہ السلام | | |
| 192 | وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ (بقرہ: 251) حضرت داؤد علیہ السلام کی رمی اجار سے جالوت بادشاہ کی موت۔ | 1 | 536 |
| 193 | وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ (انبیاء: 78) ایک کھیت کے اجاڑے جانے پر حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے سے بہتر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ فرمانا۔ | 4 | 625 |
| 194 | وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (انبیاء: 79) حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا تسبیح کہنا۔ | 4 | 626 |
| 195 | حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی حدیث سے۔ | 4 | 626 |
| 196 | وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ (انبیاء: 80) حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزانہ انداز میں زرہیں بنانا۔ | 4 | 627 |
| 197 | وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (نمل: 15) حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ | 5 | 239 |
| 198 | وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغًا (سبا: 11) آپ کے دست مبارک میں لوہا نرم کر دیا گیا جدھر چاہیں موڑیں تاکہ آپ جہاد کے لیے آہنی ڈھالیں اور دیگر اسلحہ بنا سکیں۔ | 5 | 591 |
| 199 | يَجِبَالُ أَوْ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ (سبا: 10) حکم تھا اے پہاڑ اور پرندو! داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کہو۔ | 5 | 590 |
| 200 | جب وہ حسین لہجہ میں تسبیح کہتے تو پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کہتے۔ | 5 | 590 |
| 201 | حضرت داؤد علیہ السلام کے موسیقار ہونے کا رد۔ | 5 | 591 |
| 202 | وَإِذْ كُنَّا عَبَدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص: 17) | 6 | 86 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--------------------------------|--|-----|-----------|
| 202 | حضرت داؤد علیہ السلام کی کثرت عبادت۔ | 6 | 86 |
| 203 | وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ (ص: 20) حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل حدیث سے۔ | 6 | 86 |
| 204 | وَهَلْ أَتَاكَ نَبُوءُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبِحَرَابِ (ص: 21) وہ واقعہ جب فرشتے آئے تاکہ آپ کو آپ کی ایک اجتہادی خطا پر متنبہ کریں۔ | 6 | 88 |
| 205 | تورات میں حضرت داؤد علیہ السلام پر غلیظ الزامات، معاذ اللہ۔ | 6 | 88 |
| حضرت سلیمان علیہ السلام | | | |
| 206 | وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا، جدھر چاہتے ادھر چلتی۔ (انبیاء: 81) | 4 | 628 |
| 207 | وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے سمندر میں غوطہ خوری کرتے تھے۔ (انبیاء: 82) | 4 | 629 |
| 208 | يَأْتِيهَا النَّاسُ عَلَيْنَا مَطِطَ الطَّيْرِ (نمل: 16) داؤد و سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ | 5 | 240 |
| 209 | وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (نمل: 16) حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی حکومت کب اور کہاں قائم ہوئی۔ | 5 | 240 |
| 210 | وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ (نمل: 17) حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس اور طیور پر حکومت دی گئی۔ | 5 | 242 |
| 211 | حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ (نمل: 18) اس آیت کے تحت وادی نمل کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی سفر کا ایسا انفرادی ذکر اور شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 5 | 243 |
| 212 | إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَبْلِكُهُمْ (نمل: 23) عہد سلیمانی میں سین کی ملکہ بلقیس اور اسکے تخت کا تذکرہ۔ | 5 | 247 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|------------------------------|--|-----|-----------|
| 213 | اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقَهُ إِلَيْهِمْ (نمل: 28) حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہندو ہند کے ذریعے ملکہ یمن کو خط بھیجنا۔ | 5 | 249 |
| 214 | وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ (نمل: 35) ملکہ یمن کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجنا۔ | 5 | 251 |
| 215 | وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ (سبا: 12) ہوا آپ کا تخت آپ کے حکم پر اڑاتی تھی۔ | 5 | 592 |
| 216 | تخت سلیمانی کی اڑان کیسی تھی؟ | 5 | 592 |
| 217 | وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (سبا: 12) حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تارکول کا چشمہ بہایا گیا، تاکہ آپ اس سے سامانِ حرب و ضرب برائے جہاد بنائیں۔ | 5 | 593 |
| 218 | يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانَ (سبا: 13) جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے عبادت گاہیں اور لوہے یا پتھر کی تصویریں بناتے تھے۔ | 5 | 593 |
| 219 | فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ (سبا: 14) حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کا واقعہ۔ | 5 | 595 |
| 220 | إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُوفُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾ (ص: 31) جہادی گھوڑوں سے آپ کی محبت۔ | 6 | 92 |
| 221 | وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا (ص: 34) حضرت سلیمان علیہ السلام کا سو بیویوں سے سو مجاہد پیدا کرنے کی تمنا کرنا۔ | 6 | 94 |
| 222 | حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بعض اسرائیلی روایات کی تردید۔ | 6 | 94 |
| حضرت یونس علیہ السلام | | | |
| 223 | لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِظَابَ الْخِزْيِ (يونس: 98) قوم یونس علیہ السلام سے عذاب کا ٹلنا۔ | 3 | 596 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 224 | حضرت یونس علیہ السلام کا تعارف اور ان کی قوم پر آئے ہوئے عذاب کے ٹل جانے کا واقعہ۔ | 3 | 596 |
| 225 | وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ (انبیاء: 87) حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مختصراً۔ | 4 | 631 |
| 226 | حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اہل تشیع کی گستاخی۔ | 4 | 632 |
| 227 | إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٦٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٦١﴾ حضرت یونس علیہ السلام کس طرح کشتی میں سوار ہوئے اور لقمہ حوت بنے؟۔ (صافات: 141) | 6 | 70 |
| 228 | وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٩﴾ لَوْلَا أَنْ تَدْرَكُهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ (ن: 49) | 7 | 188 |
| | حضرت حزقیل علیہ السلام | | |
| 229 | فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴿٢٤٣﴾ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ہزاروں اکٹھے مرنے والے دوبارہ زندہ کیے گئے۔ | 1 | 520 |
| | حضرت شمویل علیہ السلام | | |
| 230 | وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴿٢٤٧﴾ حضرت شمویل علیہ السلام کے ذریعہ بنی اسرائیل کو طالوت بادشاہ دیا گیا۔ | 1 | 525 |
| | حضرت ذوالکفل علیہ السلام | | |
| 231 | وَإِسْحٰعَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿٨٥﴾ انکے نبی ہونے کے دلائل اور انکا واقعہ۔ | 4 | 630 |
| 232 | وَإِذْ كُرِّسَ إِسْحٰعُ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿٤٨﴾ (ص: 48) | 6 | 101 |
| | حضرت خضر علیہ السلام | | |
| 233 | فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ (کہف: 65) حضرت خضر علیہ السلام کا نسب۔ | 4 | 446 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------------------------|--|-----|-----------|
| 234 | تحقیق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ | 6 | 447 |
| 235 | حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کونسا علم لدنی تھا۔ | 6 | 448 |
| 236 | مودودی صاحب کا خضر علیہ السلام کو فرشتہ بتانا اور اسکا رد۔ | 6 | 449 |
| 237 | حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ | 6 | 458 |
| حضرت زکریا علیہ السلام | | | |
| 238 | وَكَفَلَهَا زَكْرِيَّا ۖ (آل عمران: 37) حضرت زکریا علیہ السلام کا سیدہ مریم کی کفالت کرنا۔ | 2 | 46 |
| 239 | هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ ۗ (آل عمران: 38) حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹے کے لیے بڑھاپے میں دعا کرنا۔ | 2 | 48 |
| 240 | وَزَكْرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا (انبیاء: 89) حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے اللہ کو پکارنا اور پیغمبر بیٹا ملنا۔ | 4 | 633 |
| حضرت یحییٰ علیہ السلام | | | |
| 241 | وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ (آل عمران: 39) فرشتوں کی زبانی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت اور فضیلت۔ | 2 | 49 |
| 242 | إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ إِسْمُهُ يُحْيَىٰ ۚ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۝ (مریم: 7) اللہ رب العزت نے انکا نام یحییٰ رکھا۔ اور ان سے قبل اس نام کا کوئی انسان نہ تھا۔ | 4 | 478 |
| 243 | وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝ (مریم: 12) حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے صفات عالیہ عطا فرمائی گئیں۔ | 4 | 479 |
| 244 | وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝ (مریم: 15) حضرت عزیر علیہ السلام | 4 | 479 |
| حضرت عزیر علیہ السلام | | | |
| 245 | أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ (بقرہ: 259) حضرت عزیر علیہ السلام کو سو برس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ | 1 | 557 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 558 | 1 | حضرت عزیر علیہ السلام کو وقت سے قبل موت کے دیے جانے کا معنی۔ | 246 |
| 560 | 1 | جب حضرت عزیر علیہ السلام سو برس کے بعد زندہ ہو کر گھر آئے۔ | 247 |
| | | حضرت الیاس علیہ السلام | |
| 66 | 6 | وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ (صافات: 123) حضرت الیاس علیہ السلام کا نسب، علاقہ اور زمانہ۔ | 248 |
| 66 | 6 | إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا ﴿۱۲۵﴾ (صافات: 125) حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں۔ | 249 |
| 67 | 6 | حضرت الیاس علیہ السلام کے بارہ میں مستدرک کی ایک ضعیف روایت۔ | 250 |
| | | حضرت الیسع علیہ السلام | |
| 101 | 6 | وَإِذْ كُرِيَ اسْمِعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿۴۸﴾ (ص: 48) حضرت الیاس علیہ السلام کا تعارف، زمانہ اور علاقہ۔ | 251 |
| | | حضرت ایوب علیہ السلام | |
| 629 | 4 | وَإِيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴿۸۳﴾ (انبیاء: 83) حضرت ایوب علیہ السلام کا تعارف، زمانہ بعثت اور علاقہ۔ | 252 |
| 630 | 4 | فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ ﴿۸۴﴾ (انبیاء: 84) جان اور مال و اولاد کے ذریعے آپ کا امتحان اور آپ کی کامیابی۔ | 253 |
| 630 | 4 | آپ کے بدن میں کیڑے پڑنے کی روایت کی تردید۔ | 254 |
| | | أُرْكَضُ بِرَجْلِكَ ۖ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿۴۲﴾ (ص: 42) صبر ایوب علیہ السلام۔ | 255 |
| 98 | 6 | آپ کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ شفا نکلا اور سونے کی بارش ہوئی۔ | 256 |
| | | حضرت عیسیٰ علیہ السلام | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 42 | 2 | وَالْعَمْرُنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿٣٣﴾ (آل عمران: 33) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان حضرت عمران علیہ السلام کا ذکر۔ | 257 |
| 43 | 2 | اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ (آل عمران: 35) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان حضرت حتمہ علیہا السلام کا ذکر۔ | 258 |
| 44 | 2 | اِنِّیْٓ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿٣٦﴾ (آل عمران: 36) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہا السلام کا مس شیطان سے محفوظ رہنا۔ | 259 |
| 46 | 2 | فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ (آل عمران: 37) سیدہ مریم علیہا السلام کا بچپن، تربیت اور پرورش۔ | 260 |
| 56 | 2 | اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکَ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ ؕ (آل عمران: 45) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و فضیلت۔ | 261 |
| 60 | 2 | اِنِّیْٓ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطِّیْنِ (آل عمران: 49) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ | 262 |
| 59 | 2 | وَيُعَلِّمُهُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرٰتَ وَالْاِنْجِیْلَ ﴿٤٨﴾ (آل عمران: 48) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و سنت اور تورات و انجیل کے علوم دیے گئے۔ | 263 |
| 61 | 2 | وَرَسُوْلًا اِلٰی بَنِیْٓ اِسْرٰٓءِیْلَ ؕ (آل عمران: 49) حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے تمام دنیا کے لیے نہیں۔ | 264 |
| 64 | 2 | فَلَمَّا اَحْسَ عِیْسٰی مِنْهُمْ الْکُفْرَ (آل عمران: 52) یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہونا۔ | 265 |
| 66 | 2 | اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِعِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیَّ (آل عمران: 55) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ۔ | 266 |
| 73 | 2 | اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی عِنْدَ اللّٰهِ کَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ (آل عمران: 59) آپ کی الوہیت کی تردید۔ | 267 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 268 | وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ (مائدہ: 46) حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزشتہ انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ | 2 | 589 |
| 269 | مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ؕ (مائدہ: 75) الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید۔ | 2 | 622 |
| 270 | إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرِي نِعْمَتِي (مائدہ: 110) روز قیامت اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ | 2 | 663 |
| 271 | وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ؕ (مائدہ: 110) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصاً قرآن و سنت سکھائے گئے کیونکہ وہ قرب قیامت میں آکر انہی کی تعلیم دیں گے۔ | 2 | 665 |
| 272 | إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ --- وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ (مائدہ: 110) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ | 2 | 666 |
| 273 | قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ (مائدہ: 114) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے آسمان سے دسترخوان کا اترنا۔ | 2 | 669 |
| 274 | وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ (مائدہ: 116) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روز قیامت اقرار عبدیت اور رد شرک۔ | 2 | 672 |
| 275 | وَهَزَىٰ بِإِصْبَعِكَ النُّخْلَةَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۖ (مریم: 25) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آثار قدرت کا ظہور۔ | 4 | 486 |
| 276 | قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ (مریم: 30) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں کلام فرمانا۔ | 4 | 489 |
| 277 | یہود کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پکی دشمنی۔ | 4 | 488 |
| 278 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر طائرانہ نظر۔ | 4 | 491 |

الْقِيَامَةُ

- احوالِ قیامت
- جنت کی نعمتیں
- دوزخ کے عذابات

الْقَدْرُ

- تقدیر پر ایمان رکھنا کس قدر ضروری ہے

الْمَلَائِكَةُ

- فرشتوں کی صفات
- عقائد متعلقہ
- ملائکہ

القیامۃ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ (ناتح: 3) قیامت کا آنا تقاضائے عقل بھی ہے۔ | 1 | 110 |
| 2 | وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ (بقرہ: 48) روز قیامت شفاعت کا ہونا حق ہے۔ | 1 | 204 |
| 3 | يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ (بقرہ: 254) قیامت سے قبل اسکی تیاری کا حکم۔ | 1 | 545 |
| 4 | وَأَنْ تُبَدُّوا مَاتِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُةٌ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ (بقرہ: 284) حساب آخرت اور نجات اخروی کا بیاں۔ | 1 | 605 |
| 5 | قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ﴿٣٠﴾ قَالَ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ﴿٣٠﴾ (انعام: 30) منکرین قیامت جب قیامت میں انھیں گے تو انکی حسرت و ندامت کا کیا حال ہوگا۔ | 3 | 23 |
| 6 | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ﴿٣٨﴾ (انعام: 38) سب جانوروں کو بھی روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ | 3 | 32 |
| 7 | وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴿٧٣﴾ (انعام: 73) قیامت سے قبل دوبار صور کا پھونکا جانا۔ | 3 | 63 |
| 8 | وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿٩٤﴾ (انعام: 94) روز قیامت لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں بے ختنہ انھیں گے، حدیث سے۔ | 3 | 83 |
| 9 | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿١٦٤﴾ (انعام: 164) کسی دوسرے کے بوجھ کا نہ اٹھانا کس معنی میں ہے۔ | 3 | 143 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 10 | كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ (اعراف: 29) انسان ننگا پیدا ہوا اور ننگا دوبارہ اٹھے گا۔ | 3 | 169 |
| 11 | لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (اعراف: 40) ایک مومن اور ایک کافر پر مرنے کے بعد کیا گزرتی ہے۔ | 3 | 180 |
| 12 | وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ (اعراف: 46) مقام اعراف پر کون لوگ ہونگے؟ مختلف اقوال۔ | 3 | 187 |
| 13 | اعراف کا مقام عارضی ہوگا بعد میں وہ سب جنت میں چلے جائیں گے۔ | 3 | 188 |
| 14 | لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ﴿١٨٧﴾ (اعراف: 187) قیامت کا وقت مخفی کیوں رکھا گیا۔ | 3 | 296 |
| 15 | لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ﴿١٨٧﴾ (اعراف: 187) قیامت کے اچانک قائم ہونے کا منظر۔ | 3 | 296 |
| 16 | إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٨٧﴾ (یونس: 7-8) مکرمین قیامت کے لیے وعید نار۔ | 3 | 540 |
| 17 | وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُوَ الَّذِي كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴿١٨﴾ (هود: 18) روز قیامت کفار کے گناہ بتائے جائیں گے اور مومنوں کے گناہ چھپائے جائیں گے۔ | 3 | 621 |
| 18 | يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿١٠٥﴾ (هود: 105) روز قیامت حکم الہی کے بغیر کوئی کچھ کلام نہیں کر سکے گا۔ | 3 | 667 |
| 19 | عَإِذَا كُنَّا تُرَابًا ؕ إِنَّا لَنَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؕ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ؕ وَأُولَئِكَ الْأَغْلٰقُ فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ ﴿٥﴾ (رعد: 5) مکرمین قیامت کی جہنم میں سزا۔ | 4 | 95 |
| 20 | لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾ (ابراہیم: 42-43) ایک دن جس دن سب کی نگاہیں اکٹھی ہوں گی۔ | 4 | 166 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 20 | روز قیامت کفار کی ذلت و ندامت۔ | 4 | 166 |
| 21 | آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ (نحل: 1) قیامت کس قدر قریب ہے حدیث کے حوالے سے۔ قیامت کے بارہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کا کشف۔ | 4 | 208 |
| 22 | وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (بنی اسرائیل: 10) | 4 | 324 |
| 23 | بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا (نحل: 38) عقل سلیم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قیامت ضرور آنی چاہیے۔ | 4 | 228 |
| 24 | وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۗ (نحل: 77) قیامت پلک جھپکنے میں قائم ہو جائیگی۔ | 4 | 259 |
| 25 | وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ (بنی اسرائیل: 15) قیامت میں کسی جان سے دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھانے کا معنی۔ | 4 | 328 |
| 26 | وَقَالُوا عِزًّا إِذْ أُنزِلَتْ آيَاتُهُمْ وَرَفَاتًا ۗ إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٥٠﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿٥١﴾ (بنی اسرائیل: 50، 49) قیامت پر منکرین کے شبہات کا جواب۔ | 4 | 354 |
| 27 | يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ ۗ (بنی اسرائیل: 71) قیامت میں سب لوگوں کو امام کے ساتھ بلائے جانے کے تین معانی۔ | 4 | 370 |
| 28 | مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْلَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْلَىٰ (بنی اسرائیل: 72) کچھ لوگ قیامت میں اندھے اٹھیں گے۔ | 4 | 372 |
| 29 | كَذَلِكَ أَخْذْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۗ (کہف: 21) اصحاب کہف کو تین صدیوں کے بعد اٹھایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ قیامت کا آنا برحق ہے۔ | 4 | 417 |
| 30 | وَيَوْمَ نُسَبِّحُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ (کہف: 47) | 4 | 436 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 436 | 4 | پہاڑ اڑ جائیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائیگی۔ | 30 |
| 437 | 4 | لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (کہف: 48) | 31 |
| | | روز قیامت ہر انسان کانگے بدن اٹھتا۔ | |
| 504 | 4 | وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (مریم: 66) | 32 |
| | | ابی بن خلف کا پرانی ہڈیوں کو اٹھا کر لانا اور کہنا کہ انہیں کون دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ | |
| 510 | 4 | وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (مریم: 71) | 33 |
| | | ہر کسی کو پل صراط کے ذریعے جہنم کے روپر سے گزرنا پڑے گا۔ | |
| 513 | 4 | أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا (مریم: 77) | 34 |
| | | جب عاص بن وائل نے قیامت کا مذاق اڑایا تو اللہ نے قرآن اتارا۔ | |
| 527 | 4 | إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا (طہ: 15) | 35 |
| | | قیامت کا وقت مخفی کیوں رکھا گیا؟ | |
| 569 | 4 | وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَبْسًا (طہ: 108) | 36 |
| | | قیامت کوئی اونچی سانس نہیں لے گا۔ | |
| 589 | 4 | اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ (انبیاء: 1) | 37 |
| | | قیامت کس قدر قریب آگئی ہے حدیث سے۔ | |
| 640 | 4 | يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (انبیاء: 104) | 38 |
| | | آسمان کو دفتر کی طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ | |
| 640 | 4 | كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (انبیاء: 104) | 39 |
| | | ہر انسان قیامت میں برہنہ اٹھے گا۔ | |
| 648 | 4 | إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (ج: 1-2) | 40 |
| | | اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا (ج: 1-2) | |
| | | قیامت کی ہولناکی اور اس کی حقانیت کے دلائل۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 41 | اِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبَعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ﴿١٧﴾ (فرقان: 12) روز قیامت جہنم کا بڑھکنا اور اہل محشر کا گھبرانا۔ | 5 | 141 |
| 42 | وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا (عنکبوت: 25) روز قیامت کفار کی ہر پچھلی نسل اپنے سے پہلی نسل پر لعنت کرے گی کہ انہوں نے ہمیں کافر بنایا۔ | 5 | 356 |
| 43 | كَانَ مِقْدَارُهَا أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ (سجدہ: 5) قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا اسکی تحقیق۔ | 5 | 453 |
| 44 | اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٥﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ ﴿٦٤﴾ معلوم ہو اور روز قیامت ہاتھوں پاؤں کا انسان کے خلاف گواہی دینا کفار کی حالت ہے مومن کی نہیں۔ | 6 | 26 |
| 45 | وَالْيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٢٠﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ روز قیامت اعضاء کی گواہی صرف کفار کے خلاف ہوگی۔ (لم سجدہ: 19-20) | 6 | 241 |
| 46 | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ (شوری: 17) قیامت کے بارہ میں امام ابن عربی کا کشف اور امام احمد رضا کا حساب جفر۔ | 6 | 276 |
| 47 | إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ (ق: 17) انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے اسکی نیکی اور بدی لکھ رہے ہیں۔ | 6 | 547 |
| 48 | مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ (ق: 18) انسان جو بولتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور قیامت کے دن اسے پیش کر دیا جائے گا لہذا سوچ سمجھ کر بولو۔ | 6 | 547 |
| 49 | يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئِهِمْ ﴿٤١﴾ (رحمان: 41) قیامت میں مختلف جرائم والے لوگوں کی مختلف نشانیاں ہوں گی۔ | 6 | 650 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 50 | وَ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿۷﴾ (واقعه: 7) قیامت میں لوگوں کی تین قسمیں ہونگی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربین۔ | 6 | 660 |
| 51 | يَسْئَلُ نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ ﴿۱۲﴾ (حدید: 12) وہ اعمال جو روز قیامت نور کا سبب ہونگے حدیث سے۔ | 6 | 691 |
| 52 | وَ اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهٖ ۗ — اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ﴿۳۳﴾ (الحاقة: 25-33) معلوم ہوا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جانا کفار کا شعار ہے۔ | 7 | 197 |
| 53 | فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾ (معارج: 4) روز قیامت کا پچاس ہزار سال پہ مشتمل ہونا۔ | 7 | 204 |
| 54 | هٰذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ ﴿۳۵﴾ (مرسلات: 35-36) قیامت میں کفار کو کب بولنے دیا جائے گا کب نہیں۔ | 7 | 297 |
| 55 | فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا ﴿۱۸﴾ (نبأ: 18) قیامت کے دن مجرموں کے الگ الگ گروہ۔ | 7 | 306 |
| 56 | وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿۳﴾ (انشقاق: 3) قیامت میں گول زمین کو پھیلا کر چمڑے کی طرح سیدھا کر دیا جائے گا۔ | 7 | 359 |
| 57 | فَسَوْفَ يُحٰسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿۸﴾ (انشقاق: 8) مومن کے بے حساب کیسے آسان ہوگا؟ | 7 | 360 |
| 58 | اَلْقَارِعَةُ ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿۲﴾ (قارعة: 1-2) قیامت کے ہولناک منظر کا نقشہ۔ | 7 | 514 |
| قیامت کی بڑی نشانیاں خروج یاجوج و ماجوج | | | |
| 59 | وَ تَرٰكُنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّبُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ ﴿۹۹﴾ (کہف: 99) | 4 | 465 |
| 60 | حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَ مَاجُوجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّئْسِلُوْنَ ﴿۹۶﴾ (انبیاء: 96) | 4 | 637 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 60 | یا جوج ماجوج کس طرح نکلیں گے اور کیا کیا فساد پیا کریں گے۔ | 4 | 637 |
| | ایک دھوئیں کا نکلا | | |
| 61 | یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ (دخان: 10) قرب قیامت میں ایک دھوئیں کا ظہور۔ | 6 | 359 |
| | نزول عیسیٰ علیہ السلام | | |
| 62 | وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا (زخرف: 61) عیسیٰ علیہ السلام کا نزول و قیامت کی نشانی ہے احادیث۔ | 6 | 337 |
| | دالہ الارض کا نکلا | | |
| 63 | وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴿٨٢﴾ قرب قیامت میں ایک عجیب الخلق جانور کا ظہور حدیث کی روشنی میں۔ | 5 | 274 |
| | قیامت میں اعمال کا تولاجانا | | |
| 64 | وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (انبیاء: 47) الموازین جمع صیغہ اس لیے ہے کہ قیامت میں اعمال کا تولاجانا کئی انداز میں ہوگا۔ | 4 | 611 |
| 65 | جب داؤد علیہ السلام نے میزان کے دیکھنے کی تمنا کی۔ | 4 | 612 |
| 66 | وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ﴿٨﴾ (اعراف: 8) روز قیامت اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ | 3 | 149 |
| 67 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے اعمال کے تولے جانے کے وقت موجود ہونا۔ | 3 | 151 |
| 68 | وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ (مومنون: 103) کافر کا کفر میزان میں اسکی تمام نیکیوں پر غالب آجائے گا۔ | 5 | 40 |
| 69 | فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٧﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٨﴾ (قارعہ: 7) داؤد علیہ السلام کے میزان عدل کو دیکھ کر بے ہوش ہو جانا۔ | 7 | 515 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | برزخ (قبر) میں مومن کے لیے انعام اور کافر کے لیے عذاب | | |
| 70 | يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (ابراہیم: 27) قبر میں مومن کے لیے کامیابی از حدیث۔ | 4 | 153 |
| 71 | رسول اللہ ﷺ کا ہر قبر میں تشریف لانا۔ | 4 | 153 |
| 72 | النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا (مومن: 46) آل فرعون کو برزخ میں صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے معلوم ہوا عذاب برزخ حق ہے۔ | 6 | 202 |
| 73 | عذاب قبر کے بارہ میں احادیث۔ | 6 | 203 |
| 74 | انبیاء و اولیاء کی حیات برزخیہ کی عظمت۔ | 6 | 203 |
| 75 | وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (مومنون: 100) | 5 | 38 |
| 76 | مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا (نوح: 25) عذاب برزخ کے لیے قبر میں جانا ضروری نہیں قوم نوح کے کفار غرق ہو کر عذاب برزخ میں ڈالے گئے۔ | 7 | 225 |
| | ذکر نعمت ہائے جنت | | |
| 77 | أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (بقرہ: 25) جنت کی چند جھلکیاں حدیث کی روشنی میں۔ | 1 | 165 |
| 78 | فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ (آل عمران: 15) جنتی بیویوں کی شان۔ | 2 | 21 |
| 79 | وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ (آل عمران: 133) جنت کی وسعت۔ | 2 | 155 |
| 80 | أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (آل عمران: 133) جنت دوزخ تیار ہو چکی ہیں۔ | 2 | 157 |
| 81 | لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَوُدُّهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (نساء: 57) | 2 | 343 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 92 | فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ (روم: 15) اہل جنت حمد و نعت کے روح پرور نعمات سنیں گے بشرطیکہ وہ دنیا میں آلاتِ موسیقی سے دور رہے ہوں۔ | 5 | 392 |
| 93 | لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ (روم: 45) جنت میں جو جائے گا اللہ کے فضل سے جائیگا حدیث کی روشنی میں۔ | 5 | 410 |
| 94 | هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَّكُونَ ﴿٥٦﴾ (یس: 56) جنتی بیویوں کا ذکر جمیل حدیث سے۔ | 6 | 24 |
| 95 | أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ (زخرف: 70-73) جنتی نعمتوں کا نظارہ حدیث کی روشنی میں۔ | 6 | 345 |
| 96 | إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ (دخان: 51-52) حوران جنت کا حسن و جمال حدیث سے۔ | 6 | 369 |
| 97 | جنت میں جو جائیگا اللہ کی رحمت ہی سے جائیگا۔ | 6 | 369 |
| 98 | فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ (سورہ محمد: 15) جنتی نہروں کا ذکر جمیل۔ | 6 | 437 |
| 99 | وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ (طور: 24) جنتی غلمان کی عظمت حدیث سے۔ | 6 | 481 |
| 100 | وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾ (رحمن: 46) جنتی حوروں و قصور اور جنتی باغات کا حسین تذکرہ۔ | 6 | 651 |
| 101 | كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ (رحمن: 58) جنتی حوروں کا حسن و جمال اور انکی شرم و حیا۔ | 6 | 654 |
| 102 | عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوعَةٍ ﴿١٦﴾ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ﴿١٥﴾ (واقعه: 15-16) جنتی حوروں کا حسن و جمال اور انکی شرم و حیا۔ | 6 | 662 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------|---|-----|-----------|
| 103 | ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (حدید: 21) | 6 | 700 |
| | اللہ تعالیٰ پر کسی کو جنت میں بھیجنا واجب نہیں، وہ جس پہ چاہے فضل فرمادے۔ | | |
| 104 | فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿۲۱﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿۲۲﴾ (الحاقہ: 21-22) | 7 | 195 |
| | جنت کے بلند درجات کا ذکر۔ | | |
| 105 | جنتی پاسپورٹ کی تحریر۔ | 7 | 196 |
| 106 | وَجُودًا يُؤْمِنُ بِمَا رَزَقْتَهُ ﴿۲۳﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿۲۴﴾ (قیامہ: 22-23) | 7 | 274 |
| | جنت میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ اور یہ حق ہے۔ | | |
| 107 | إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿۵﴾ (دھر: 5) | 7 | 281 |
| | جنتی شراب کی صفت۔ | | |
| 108 | وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا ﴿۱۹﴾ (دھر: 19) | 7 | 287 |
| | جنتی غلمان کی عظمت و فضیلت حدیث سے۔ | | |
| 109 | وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿۳۳﴾ (نبا: 33) | 7 | 309 |
| | جنتی بیویوں کا حسن و جمال۔ | | |
| ذکر عذابات نار | | | |
| 110 | كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا (نساء: 56) | 2 | 342 |
| | ایک گھنٹہ میں کفار کی چڑیاں سو بار بدلیں گی۔ | | |
| 111 | جہنم میں کافر کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ | 2 | 343 |
| 112 | مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ﴿۱۶﴾ (انعام: 16) | 3 | 15 |
| | عذاب جہنم کی خوفناکی حدیث سے۔ | | |
| 113 | إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَهْمَا عَلَى الْكُفْرَيْنِ ﴿۵۰﴾ (اعراف: 50) | 3 | 188 |
| | جہنم میں کفار پانی مانگیں گے مگر نہیں دیا جائے گا۔ | | |
| 114 | كَانَمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴿۲۷﴾ (یونس: 27) | 3 | 556 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 114 | جہنم میں کفار کے چہروں کی خوفناک سیاہی۔ | 3 | 556 |
| 115 | وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۖ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ (ابراہیم: 16-17) | 4 | 143 |
| 116 | سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۗ (ابراہیم: 21) کفار کے جہنم میں جزع اور صبر کا دردناک منظر۔ | 4 | 146 |
| 117 | سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرِانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ۗ (ابراہیم: 50) | 4 | 167 |
| 118 | لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۗ (حجر: 44) جہنم کے سات دروازے ہیں۔ | 4 | 190 |
| 119 | وَإِنْ يَسْتَعْجِلُوْا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْهَ ۗ (کہف: 29) | 4 | 425 |
| 120 | تَلْفَحُ وُجُوْهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۗ (مومنون: 104) جہنم میں کفار کے چہرے بھون دیے جائیں گے حدیث سے انکے چہروں کا خوفناک منظر۔ | 5 | 40 |
| 121 | وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي الْأَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ (سبا: 33) جہنم میں کفار کے گلے میں طوق زنجیر ڈالے جائیں گے۔ لہذا دنیا میں کسی مجرم کے گلے میں زنجیر نہیں ڈالنا چاہیے یہ اہل جہنم کا عذاب ہے۔ پاؤں میں بیڑی ڈالی جاسکتی ہے۔ | 5 | 606 |
| 122 | أَذَلِكْ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۗ (صافات: 62) جہنم کے درخت زقوم کا بیان۔ | 6 | 48 |
| 123 | هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَبِيْمٌ ۗ وَغَسَّاقٌ ۗ (ص: 57) | 6 | 102 |
| 124 | إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ ۗ طَعَامٌ الْأَثِيْمِ ۗ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۗ (رخان: 43-45) درخت زقوم کی خوفناک حدیث سے۔ | 6 | 368 |
| 125 | يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۗ (ق: 30) اللہ تعالیٰ کا جہنم پہ ایڑی رکھنا کیا معنی رکھتا ہے۔ | 6 | 551 |
| 126 | عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَةَ ۗ (مدثر: 30) جہنم کے انیس داروغے ہیں۔ | 7 | 263 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 280 | 7 | إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ (بقرہ: 4) جہنم کی ذلت آمیز سزائیں صرف کفار کے لیے ہیں۔ | 127 |
| 297 | 2 | انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلث شعبٍ ﴿٣٠﴾ (مرسلات: 30) جہنم کے خوفناک دھوئیں کا بیان۔ | 128 |
| 351 | 7 | وَمَا آذْرَبِكَ مَا سَجَّيْنُ ﴿٨﴾ (مطففین: 8) تجین کیا ہے کہاں حدیث کی روشنی میں۔ | 129 |

الْمَلَكَةُ

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 270 | 1 | قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ (بقرہ: 97) | 1 |
| 270 | 1 | مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ (بقرہ: 98) | 2 |
| 386 | 1 | مَنْ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ (بقرہ: 177) ملائکہ کے بارہ میں اسلامی عقائد۔ | 3 |
| 607 | 1 | كُلُّ أَمْنٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ (بقرہ: 285) | 4 |
| 54 | 2 | وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِيْمَرْيَمُ (آل عمران: 42) فرشتے غیر نبی سے بھی کلام کر سکتے ہیں۔ | 5 |
| 53 | 3 | تَوَفَّيْتُهُ رُسُلَنَا (انعام: 61) بقول حدیث ساری زمین پلیٹ کی طرح ملک الموت کے آگے رکھ دی گئی ہے جہاں سے چاہے جو چاہے اٹھالے۔ | 6 |
| 100 | 4 | لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ (رعد: 11) | 7 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 7 | انسان کی باری باری حفاظت کرنے والے فرشتے۔ | 4 | 100 |
| 8 | وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۗ (رعد: 13) فرشتہ رعد کی تعریف حدیث سے۔ | 4 | 107 |
| 9 | وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٩﴾ (نحل: 49) فرشتے معصوم ہیں وہ حکم الہی سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ | 4 | 235 |
| 10 | وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ (انبیاء: 19) آسمان میں ایک بالشت جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے ذکر میں مصروف نہ ہو۔ | 4 | 598 |
| 11 | بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٧﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ (انبیاء: 27-28) فرشتے حکم الہی کے آگے دم نہیں مار سکتے۔ | 4 | 601 |
| 12 | قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (سجده: 11) ملک الموت جانیں کیسے قبض کرنا ہے حدیث کی روشنی میں۔ | 5 | 455 |
| 13 | ملک الموت کی وصعت علم اور اس کا اختیار۔ | 5 | 456 |
| 14 | جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مِّثْنِي وَثُلَاثَ وَرُبْعًا (فاطر: 1) فرشتوں کے پروں کا بیان۔ | 5 | 618 |
| 15 | الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ (مؤمن: 7) حاملین عرش فرشتوں کا ذکر۔ | 6 | 175 |
| 16 | لَيَسْئَلُنَّ الْمَلَائِكَةُ تَسْبِيَةً الْأَنْثَى ﴿٢٨﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴿٢٧﴾ (نجم: 27-28) اس آیت سے معلوم ہوا فرشتے تذکیر و تانیث سے پاک ہیں کیونکہ وہ نور ہیں۔ | 6 | 607 |
| 17 | لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ (تحریم: 6) | 7 | 149 |
| 18 | وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴿٣١﴾ (مدثر: 31) فرشتوں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ | 7 | 264 |
| 19 | كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١٢﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١١﴾ (انفطار: 11-12) | 7 | 345 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 19 | اعمال لکھنے والے فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں ان سے حیا کرنی چاہیے۔ | 7 | 345 |

القدر

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (بقرہ: 187) اولاد وہی ملتی ہے جو لکھی ہوتی ہے۔ | 1 | 417 |
| 2 | وَهُمُ الْوُفَّاءُ حَذَرَ الْمَوْتِ (بقرہ: 243) تدبیر سے تقدیر نہیں ملتی۔ | 1 | 520 |
| 3 | طاعون سے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ | 1 | 521 |
| 4 | کئی چیزیں لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ | 1 | 561 |
| 5 | وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا (آل عمران: 145) موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ | 2 | 170 |
| 6 | لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَتَلْنَا هُنَا (آل عمران: 154) تقدیر پر اعتراض کار منافی ہے۔ | 2 | 182 |
| 7 | ہر آدمی کا مقام موت مقرر ہے | 2 | 182 |
| 8 | لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً (آل عمران: 156) تقدیر کا ماننا قلبی سکون کا باعث ہے اور نہ ماننا وجہ بے سکونی۔ | 2 | 187 |
| 9 | تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ (مائدہ: 3) نجومیوں فال گیروں سے حال قسمت معلوم کرنے کی حرمت۔ | 2 | 514 |
| 10 | أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ (اعراف: 37) | 3 | 178 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 10 | کتاب تقدیر کا لکھا ہوا مل کر رہتا ہے۔ | 3 | 178 |
| 11 | يَطَّيَّرُوا بِمِوَسِيَ وَ مَنْ مَعَهُ ط (اعراف: 131) بدفالی حرام ہے۔ | 3 | 243 |
| 12 | وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ؕ (اعراف: 179) مسئلہ تقدیر کی حقیقت اور اسکی مثال۔ | 3 | 287 |
| 13 | قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ؕ (براءت: 51) وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ | 3 | 445 |
| 14 | وَ إِذْ آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ؕ (يونس: 21) ستاروں کو مدبر اور نفع و نقصان میں دخیل ماننا کفر ہے۔ | 3 | 551 |
| 15 | اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ (زمر: 26) | 4 | 144 |
| 16 | يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ؕ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۳۹﴾ (زمر: 39) صلہ رحمی سے تقدیر بدل جاتی ہے از روئے حدیث۔ | 4 | 126 |
| 17 | تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کی دخیل وضاحت۔ | 4 | 126 |
| 18 | وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَ زَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۶﴾ (حجر: 16) ستاروں کا انسان کی تقدیر سے کوئی تعلق نہیں۔ | 4 | 180 |
| 19 | نجومیوں سے قسمت کا حال پوچھنا حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ | 4 | 181 |
| 20 | وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ؕ (نحل: 12) ستارے حکم الہی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں وہ کسی کی قسمت میں تاثیر نہیں رکھتے۔ | 4 | 214 |
| 21 | وَ كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ؕ (بنی اسرائیل: 13) ہر آدمی کی قسمت لکھ کر اسکے گلے میں ڈال دی گئی ہے اس پر سوال و جواب۔ | 4 | 327 |
| 22 | إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ؕ (بنی اسرائیل: 30) | 4 | 343 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 22 | لہذا جو مل جائے اسے خوشی سے لے لو جو نہ ملے اس پہ حسرت نہ کرو اور تقدیر پر راضی رہو۔ | 4 | 343 |
| 23 | قَالَ طَبَّرَ كُمْ عِنْدَ اللَّهِ (نمل: 47) ہر آدمی کی نیکی بدی اللہ کی طرف سے ہے۔ | 5 | 261 |
| 24 | أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (روم: 37) اللہ رب العزت کبھی اپنے دشمنوں کا رزق وسیع اور دوستوں کا رزق تنگ کر دیتا ہے اسکا ہر کام گہری حکمت پہ مبنی ہے۔ | 5 | 406 |
| 25 | وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ (فاطر: 11) معلوم ہوا انسان کی عمر میں کمی بیش ہو سکتی ہے۔ اس پر حدیث کی گواہی۔ | 5 | 624 |
| 26 | مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا (حدید: 22) ہر چھوٹی بڑی انفرادی اجتماعی مصیبت پہلے سے تحریر شدہ ہے۔ | 6 | 701 |
| 27 | مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (تغابن: 11) تقدیر پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے حدیث کی روشنی میں۔ | 7 | 117 |

الفضائل

○ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماعی فضائل اور بعض شبہات کا رد۔

○ فضائل حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔

○ افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔

○ فضائل حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔

○ فضائل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔

○ فضائل حضرت سیدنا مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔

○ چند خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل۔

○ فضائل اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

○ قرآن مجید اور کردار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ۔

○ قرآن مجید اور کردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔

○ فضائل ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

○ خصوصاً فضائل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔

○ فضائل علماء و فضیلت علم۔

○ فضائل اولیاء کاملین۔

○ فضائل امت محمدیہ۔

○ مقامات مقدّسہ۔

○ اوقات مقدّسہ۔

اصحاب الرسول ﷺ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماعی فضائل | | |
| 1 | ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ (بقرہ: 2) عدالت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ | 1 | 129 |
| 2 | أَمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ (بقرہ: 13) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں۔ | 1 | 149 |
| 3 | أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ (بقرہ: 13) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گستاخ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ | 1 | 150 |
| 4 | سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ (بقرہ: 142) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراض بیوقوفوں کا کام ہے۔ | 1 | 340 |
| 5 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 218) فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ | 1 | 462 |
| 6 | فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ (بقرہ: 249) بنی اسرائیل کا پیاس سے امتحان اور ناکامی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہر امتحان میں کامیابی۔ | 1 | 532 |
| 7 | قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ (بقرہ: 249) بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان از کتب شیعہ۔ | 1 | 533 |
| 8 | لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 273) اصحاب صفہ کی فضیلت۔ | 1 | 579 |
| 9 | فِيئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (آل عمران: 13) بدری صحابہ کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ | 2 | 15 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 10 | بدری صحابہ کی فضیلت از کتب شیعہ۔ | 2 | 15 |
| 11 | لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؕ (آل عمران: 92) اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جوش ایمانی۔ | 2 | 109 |
| 12 | تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ (آل عمران: 121) مجاہدین احد کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان کی گواہی دی۔ | 2 | 146 |
| 13 | وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً (آل عمران: 135) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شدید احساسِ توبہ۔ | 2 | 158 |
| 14 | الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ؕ (آل عمران: 172) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ اطاعت۔ | 2 | 213 |
| 15 | اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خلافتِ علی رضی اللہ عنہ کے ماننے کا حکم ہوتا تو وہ کسی اور کو خلیفہ نہ بناتے۔ | 2 | 214 |
| 16 | فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا فِي سَبِيلِ (آل عمران: 195) | 2 | 236 |
| 17 | وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى ؕ (نساء: 95) سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جنتی اور ساری امت سے افضل ہونا۔ | 2 | 407 |
| 18 | فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ؕ (مائدہ: 24) بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہادی کردار۔ | 2 | 561 |
| 19 | لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (مائدہ: 87) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر خوفِ خدا کا طاری ہونا اور ان کا ترک دنیا کا ارادہ کر لینا از کتب اہل سنت و اہل تشیع۔ | 2 | 631 |
| 20 | لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ (مائدہ: 94) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آزمائش میں عظیم کامیابی (کہ حالتِ احرام میں شدید حاجت کے باوجود شکار نہ کیا) از شیعہ مؤرخ۔ | 2 | 647 |
| 21 | عظمتِ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 2 | 648 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 22 | وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (انعام: 52) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات صبح و شام دعا اور طلبِ رضاء رب۔ | 3 | 40 |
| 23 | وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا (انفال: 17) بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور انکے لیے جنت کا اعلان۔ | 3 | 329 |
| 24 | وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (کہف: 28) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے تھے۔ | 4 | 426 |
| 25 | الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشِعُونَ ﴿۲﴾ (مؤمنون: 2) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز میں خشوع اور حضورِ قلب۔ | 5 | 3 |
| 26 | بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سِعْنَا وَأَطَعْنَا (نور: 51) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ و رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ | 5 | 106 |
| 27 | وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّيْءِ مِنْ دُونِ اللَّهِ --- رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۲۶﴾ (نمل: 24-26) ایک پرندہ صحبتِ سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ایسا صاحبِ ایمان ہے کہ ردِ شرک و اثباتِ توحید پر بلیغ خطبہ کہتا ہے تو کیا صحبتِ محبوبِ رحمن ﷺ و صلوات اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دل پاک نہ کر سکی اور ان میں ایمان داخل نہ کر سکی؟ | 5 | 249 |
| 28 | فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ ﴿۲۳﴾ (احزاب: 23) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ شہادت۔ | 5 | 493 |
| 29 | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ أَوْ وَا نَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (انفال: 74) مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایمانِ مغفرت اور اجرِ عظیم۔ | 3 | 384 |
| 30 | لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ (براءت: 88) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے خیر اور فلاح کا وعدہ۔ | 3 | 485 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 31 | تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ (براءت: 92) صحابہ کرام کا جذبہ جہاد | 3 | 487 |
| | مہاجرین و انصار صحابہ کی عظمت | | |
| 32 | وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْانصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَا حَسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ (براءت: 100) ایمان میں سبقت لیجانے والے مہاجرین و انصار کے لیے وعدہ جنت۔ | 3 | 493 |
| 33 | الْمُهَاجِرِينَ وَ الْانصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (براءت: 117) غزوہ تبوک میں مہاجرین و انصار صحابہ کی مالی و جانی قربانیاں۔ | 3 | 516 |
| 34 | اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سارا مال اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا مال لانا شیعہ مورخ کے قلم سے۔ | 3 | 517 |
| 35 | مہاجرین و انصار صحابہ پر اللہ رب العزت کے انعامات۔ | 3 | 517 |
| 36 | حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تبوک کے جیشِ عسرت کے لیے تمام مصارف کی تجہیز کرنا شیعہ مورخین کی زبانی۔ | 3 | 518 |
| 37 | وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ حَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سَيِّئَاتِهِمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْطًا (نح: 29) اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پہلی فضیلت (وَالَّذِينَ مَعَهُ - شرف صحابیت) | 6 | 493 |
| 38 | حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان لڑائیوں کے بارے میں ائمہ دین کا موقف۔ | 6 | 494 |
| 39 | دوسری فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کفار پہ سخت گیری۔ (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) | 6 | 495 |
| 40 | تیسری فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا باہم و مہربان ہونا (وَ حَمَاءٌ بَيْنَهُمْ) | 6 | 496 |
| 41 | چوتھی فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عبادت و ریاضت (تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) | 6 | 497 |
| 42 | پانچویں فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رضا جوئی حق تعالیٰ (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ) | 6 | 498 |
| 43 | چھٹی فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نورانی چہرے (سَيِّئَاتِهِمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) | 6 | 499 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 44 | ساتویں فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر تورات و انجیل میں (مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ) * | 6 | 499 |
| 45 | آٹھویں فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعہ دین کی تقویت (كَزَبَ عَاجِزًا) * | 6 | 500 |
| 46 | نویں فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض رکھنے والا کافر ہے (لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ) * | 6 | 500 |
| 47 | دسویں فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے وعدہ بخشش (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً) * | 6 | 501 |
| 48 | گیارہویں فضیلت: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے وعدہ اجر عظیم (وَاجْرًا عَظِيمًا) * | 6 | 503 |
| 49 | وَ لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ * (حجرات: 7) تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ | 6 | 515 |
| 50 | وَ كَلَّا وَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِي * (حدید: 10) سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں۔ | 6 | 684 |
| 51 | ائمہ اہل بیت کا تمام صحابہ کو جنتی اور نجوم ہدایت قرار دینا۔ | 6 | 685 |
| 52 | ساری امت پر صحابہ کی افضلیت۔ | 6 | 686 |
| 53 | لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ * (مجادلہ: 22) اس آیت سے ثابت ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چار عظیم فضائل۔ | 7 | 20 |
| 54 | اول: اللہ رب العزت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی گواہی دیتا ہے مگر اہل تشیع انہیں کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ | 7 | 20 |
| 55 | دوم: وہ خدا اور رسول کے دشمن کے سخت دشمن ہیں خواہ وہ انکا باپ یا بیٹا یا بھائی یا قریبی عزیز ہو۔ | 7 | 21 |
| 56 | سوم: اللہ نے انکے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ | 7 | 22 |
| 57 | چہارم: انکے لیے اعلان جنت۔ | 7 | 23 |
| 58 | لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ * وَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ * (زمر: 10) | 7 | 124 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 58 | یہ آیت مہاجرین حبشہ کے لیے نازل ہوئی۔ | 7 | 124 |
| 59 | كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿٢﴾ (سورہ محمد: 2) اسلام لانے والوں کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔ اب جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبل ایمان والی زندگی کو اچھالے وہ بد بخت خود محروم ایمان ہے۔ | 6 | 427 |
| 60 | وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١١﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١٠﴾ (واقعہ: 10-11) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باقی ساری امت پر افضلیت۔ | 6 | 661 |
| مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل | | | |
| 61 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٢١٨﴾ (بقرہ: 218) عام مہاجرین کی ہجرت اور خلفاء راشدین کی ہجرت میں فرق؟ | 1 | 463 |
| 62 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ﴿٧٢﴾ (انفال: 72) | 3 | 382 |
| 63 | وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿٤١﴾ (نحل: 41) مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت۔ | 4 | 229 |
| 64 | اللہ کی راہ میں ہجرت کی دنیوی و اخروی برکات۔ | 4 | 229 |
| 65 | وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴿١٠٠﴾ (نساء: 100) ہجرت کا ثواب قرآن و حدیث سے۔ | 2 | 412 |
| 66 | ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٠﴾ (نحل: 110) | 4 | 282 |
| 67 | لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ (حشر: 8) مہاجرین صحابہ کے تین قرآنی فضائل۔ | 7 | 40 |
| 68 | اول: وہ اللہ کا فضل اور اسکی رضا چاہتے ہیں (يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ) | 7 | 40 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 69 | دوم: وہ اللہ اور اسکے رسول کے مددگار ہیں (وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) | 7 | 41 |
| 70 | سوم: وہ سچے مسلمان ہیں (أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) | 7 | 41 |
| | انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت | | |
| 71 | فَأُولَئِكَ مَتَّعْنَا مَا كُنَّا نَفْعُهُمْ (انفال: 26) | 3 | 337 |
| 72 | وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ (انفال: 63) | 3 | 370 |
| | انصار کے دو قبائل اوس و خزرج کا ایک صدی کی لڑائی ترک کر کے باہم بھائی بھائی بن جانا۔ | | |
| 73 | إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا (حشر: 9) | 7 | 41 |
| | انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جذبہ ایثار و قربانی۔ | | |
| 74 | انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت حدیث سے۔ | 7 | 43 |
| 75 | انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کتب شیعہ سے۔ | 7 | 43 |
| | حدیبیہ والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت | | |
| 76 | إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (ت: 10) | 6 | 462 |
| | حدیبیہ میں دستِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنے والوں نے دستِ خدا پر بیعت کی۔ | | |
| 77 | بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا (ت: 12) | 6 | 465 |
| | معلوم ہوا سفر حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ | | |
| 78 | یہ آیت بتا رہی ہے کہ سفر حدیبیہ میں کوئی منافق شامل نہ تھا ان کو جان کے لالے پڑ گئے اور گھروں میں دبک کر بیٹھ کر گئے صرف پختہ ایمان والے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے پھر بھی شیعوں کا صحابہ ثلاثہ کو گالیاں دینا صرف ضیاع ایمان ہے۔ | 6 | 466 |
| 79 | لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (ت: 18) | 6 | 477 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 80 | اس آیت سے حدیبیہ والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چار خصوصی فضائل ثابت ہوتے ہیں اہل حدیبیہ کے جنتی ہونے کی صریح حدیث شیعہ تفسیر سے۔ | 6 | 477 |
| | تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر عمومی اعتراضات کا جواب | | |
| | اعتراض: سب صحابہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ گئے | | |
| 81 | وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيْ اٰخِرِكُمْ (آل عمران: 153) یہ آیت بتاتی ہے کہ سخت مشکل میں بھی ایک جماعت احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی لہذا احد میں سب صحابہ کے بھاگ جانے کا اعتراض خلاف قرآن ہے۔ | 2 | 178 |
| 82 | احد میں ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا ہمہ وقت موجود رہنا از کتب شیعہ۔ | 2 | 179 |
| 83 | وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ (آل عمران: 155) جو چند صحابہ احد سے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اجتہادی غلطی کی معافی قرآن میں بیان فرمائی خطا اجتہادی محل اعتراض نہیں۔ | 2 | 185 |
| | اعتراض: صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جمعہ میں اکیلے چھوڑ گئے | | |
| 84 | وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا (جمہ: 11) اس اعتراض کا جواب اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے نہیں رہے۔ | 7 | 97 |
| | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جمل و صفین جیسی جنگیں کیوں ہوئیں | | |
| 85 | وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِيْنَ ﴿٤٧﴾ (حجر: 47) یہ جنگیں بغض و مفاد پر نہیں بلکہ خطا اجتہادی پر مبنی تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اور طلحہ و زبیر اس آیت کا مصداق ہیں کہ ہم جنت میں باہم بھائی بھائی ہونگے۔ | 4 | 191 |
| 86 | اہل جمل و صفین کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نیک خواہشات از کتب شیعہ۔ | 4 | 192 |
| 87 | لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَأْسِيْ ؕ اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (طہ: 94) | 4 | 559 |
| 88 | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام پر سختی کی کہ تم نے بنی اسرائیل پر سختی کیوں نہ کی۔ اس | 4 | 562 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 88 | میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی خطا اجتہادی تھی جو پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے۔ یونہی حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور دوسرے صحابہ خطا اجتہادی پر تھے۔ اس پر ائمہ دین کے اقوال۔ | 4 | 562 |
| | اعتراض: تمام صحابہ پہلے دین کے دشمن رہے پھر مسلمان ہو گئے وہ محض نہ تھے | | |
| 89 | قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (انفال: 38) جب کوئی کفر سے باز آ کر ایمان قبول کر لے تو گزشتہ تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جو یہ قرآنی فیصلہ نہیں مانتا اسکا اپنا ایمان نہیں ہے۔ | 3 | 347 |
| 90 | إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيُغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا (طہ: 73) جادوگران مصر جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انکی سابقہ دشمنی معاف فرمادی۔ اگر اتباع موسیٰ علیہ السلام کی یہ برکت ہے تو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا برکت ہوگی؟ | 4 | 549 |
| 91 | إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (طہ: 82) جو توبہ کر کے ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کرے اللہ رب العزت اسکے لیے غفار ہے۔ | 4 | 555 |
| | فضائل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ | | |
| 92 | وَ شَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: 159) اس آیت کا حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے حق میں اترنا۔ | 2 | 193 |
| 93 | سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا (آل عمران: 181) اس آیت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نزول اور ان کی غیرت ایمانی کا بیان از کتب شیعہ۔ | 2 | 224 |
| 94 | آپ کی تصدیق کے لیے آسمان سے گواہی اتری۔ | 2 | 224 |
| 95 | مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ (نساء: 66) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکا مصداق ہیں۔ | 2 | 364 |
| 96 | مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ (نساء: 123) | 2 | 438 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 96 | اس آیت کے نزول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خوف۔ | 2 | 438 |
| 97 | فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (مائدہ: 54) یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اتری۔ | 2 | 600 |
| 98 | إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (براءت: 40) جب سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ غار بنے۔ | 3 | 432 |
| 99 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جھولی میں سر رکھ کر سونا اور سانپ کا انکے پاؤں میں ڈسنا از کتب حدیث۔ | 3 | 434 |
| 100 | سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانثاریاں از کتب شیعہ۔ | 3 | 433 |
| 101 | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اپنی قمیص پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کرنا اور ایک سوراخ پر اپنا قدم رکھنا بزبانِ مرزا رفیع شیعہ شاعر۔ | 3 | 434 |
| 102 | سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت اور حضرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پانچ ہزار درہم ساتھ لے لینا۔ شیعہ مورخ کی زبانی۔ | 3 | 436 |
| 103 | تین رات تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ غار میں دودھ پہنچاتے رہے بقول فتح اللہ کاشانی شیعہ مفسر۔ | 3 | 437 |
| 104 | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبدالرحمان رضی اللہ عنہ تین دن تک غار میں کھانا پہنچاتے رہے بزبانِ شیعہ مفسر ملا کاشانی۔ | 3 | 437 |
| 105 | إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (براءت: 40) صحابیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منکر کافر ہے۔ | 3 | 437 |
| 106 | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے معیتِ الہیہ اور اسکے جلوے۔ | 3 | 437 |
| 107 | مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾ (طہ: 55) میں اور ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، حدیث نبوی۔ | 4 | 541 |
| 108 | فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿٧٥﴾ (طہ: 75) | 4 | 551 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 108 | جنت میں حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا درجہ کس قدر بلند ہوگا حدیث سے۔ | 4 | 551 |
| 109 | وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ --- وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ (نور: 22) اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ | 5 | 68 |
| 110 | يَسَّ ۖ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿٤١﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٢﴾ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ (یس: 41-43) شب ہجرت خانہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی آیات تھیں (سیرت ابن ہشام) گویا بتایا کہ خانہ صدیق کی طرف جانے والا راستہ صراط مستقیم ہے۔ | 6 | 4 |
| 111 | فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٨٠﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿١٨١﴾ (زمر: 17-18) یہ آیت دست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اسلام لانے والے ابتدائی اہل اسلام کے بارے میں اُتری۔ | 6 | 126 |
| 112 | وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٠٥﴾ (زمر: 33) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ | 6 | 138 |
| 113 | ان کا لقب صدیق نبی و آل نبی کی زبان سے از کتب سنی و شیعہ۔ | 6 | 139 |
| 114 | وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿١٠٦﴾ (شوری: 36) یہ آیت بقول مولیٰ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اُتری۔ | 6 | 293 |
| 115 | وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (احقاف: 15) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بقول یہ آیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں اُتریں۔ | 6 | 407 |
| 116 | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چند ایمان افروز خصوصیات۔ | 6 | 407 |
| 117 | فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ؑ (تحریم: 4) کثیر صحابہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں صالح المؤمنین سے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ | 7 | 144 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 118 | فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٣٠﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣١﴾ (نجر: 29-30) فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر! یہ خطاب تمہیں ضرور ملے گا۔ | 7 | 405 |
| 119 | إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ﴿٧٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٧٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٧٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧٧﴾ (الليل: 74-77) بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوری سورۃ اللیل کا شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں نزول۔ | 7 | 423 |
| 120 | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں فسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کے جلوے۔ | 7 | 424 |
| 121 | وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ﴿١٨﴾ (الليل: 17-18) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور دیگر غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا۔ | 7 | 426 |
| 122 | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانی و مالی قربانیاں۔ | 7 | 437 |
| 123 | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا سنت الہیہ ہے۔ | 7 | 439 |
| 124 | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رضاء الہی ملے گی (وَلَسَوْفَ يَرْضَى [الليل: 21]) | 7 | 439 |
| افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ | | | |
| 125 | أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (نساء: 69) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدار صدیقیت ہیں۔ | 2 | 365 |
| 126 | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق کتب شیعہ سے۔ | 2 | 367 |
| 127 | إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ (براءت: 40) کسی صحابی کی صحابیت قطعی نہیں سوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ | 3 | 437 |
| 128 | وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ (براءت: 100) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسبق السابقین ہیں وہ دین میں داخل ہونے والے پہلے آزاد مرد ہیں۔ | 3 | 494 |
| 129 | وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ -- وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ (نور: 22) | 5 | 69 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 129 | اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے ذوالفضل قرار دیا گیا۔ | 5 | 69 |
| 130 | وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْذِنُ اللَّهُ لَهُ (فاطر: 32) اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دینا۔ | 5 | 639 |
| 131 | وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (مومن: 28) مومن آل فرعون کا کردار اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ | 6 | 191 |
| 132 | آغاز اسلام میں دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مالی وحبانی قربانیاں۔ | 6 | 192 |
| 133 | افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نص صریح۔ | 6 | 193 |
| 134 | لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلًا (حدید: 10) یہ آیت بقول امام کلبی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر دال ہے۔ | 6 | 687 |
| 135 | افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فقہاء اربعہ کا اتفاق۔ | 6 | 688 |
| 136 | افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دلائل احادیث کی روشنی میں۔ | 7 | 430 |
| 137 | افضلیت ابوا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ | 7 | 431 |
| 138 | افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اقوال سے۔ | 7 | 432 |
| 139 | افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اجماع ہے اسکا منکر اہل سنت سے خارج ہے۔ | 7 | 434 |
| 140 | فقہاء کے نزدیک تفضیلی شخص بدعتی ہے اسکے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ | 7 | 436 |
| فضائل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ | | | |
| 141 | وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (بقرہ: 125) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر مقام ابراہیم کو مصلیٰ بنایا جانا۔ | 1 | 317 |
| 142 | أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ (بقرہ: 187) | 1 | 416 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 142 | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے روزہ میں تخفیف ہوئی۔ | 1 | 416 |
| 143 | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط (بقرہ: 219) اس آیت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اترنا۔ | 1 | 466 |
| 144 | فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ (نساء: 65) اس آیت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں اترنا۔ | 2 | 362 |
| 145 | إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ (مائدہ: 90) اس حرمتِ خمر کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اترنا بقول شیعہ مورخ مرزا محمد تقی ایرانی۔ | 2 | 638 |
| 146 | أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ (انعام: 122) درج بالا آیت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے پر اترنا۔ | 3 | 108 |
| 147 | أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط (انفال: 64) اس آیت کا ایمانِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر نازل ہونا۔ | 3 | 371 |
| 148 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمانِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمانا۔ | 3 | 371 |
| 149 | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنی و شیعہ کتب سے۔ | 3 | 372 |
| 150 | لَوْ لَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ط (انفال: 68) اسیرانِ بدر کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تصدیق پر قرآن کی کثیر آیات کا اترنا۔ از کتب سنی و شیعہ۔ | 3 | 379 |
| 152 | وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَدًا (براءت: 84) یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اتری۔ | 3 | 482 |
| 153 | فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ط (مومنون: 14) یہ الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بولے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیے۔ | 5 | 12 |
| 154 | وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ ط (احزاب: 53) یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اتری بحوالہ بخاری۔ | 5 | 556 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 155 | أَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰٓءَا وَاحِدًا (ص: 5) | 6 | 80 |
| | اس آیت کا تب نزول ہوا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر کفار مکہ سخت گھبرائے اور انہیں اپنی بت پرستی خطرے میں نظر آئی۔ | | |
| 156 | عَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبَدِّلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ (تحریم: 5) | 7 | 148 |
| | یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے پر اتری از حدیث مسلم۔ | | |
| 157 | وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَوَمَّنُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ﴿٤١﴾ (الحاقہ: 41-42) | 7 | 200 |
| | یہ آیات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کے قریب آگئے تھے۔ | | |
| فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ | | | |
| 158 | مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (بقرہ: 261) | 1 | 566 |
| | اس آیت کا نزول حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں۔ | | |
| 159 | لِيْنُ بَسَطَتْ اِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسٍ يَدِيْ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ (مائدہ: 28) | 2 | 565 |
| | اس آیت پر امت محمدیہ میں سے سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ | | |
| 160 | لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (فتح: 18) | 6 | 473 |
| | جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حدیبیہ میں بیعت لی گئی۔ | | |
| 161 | حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جانا۔ | 6 | 474 |
| 162 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دیا از کتب شیعہ۔ | 6 | 476 |
| 163 | الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ (براءت: 117) | 3 | 518 |
| | یہ آیت غزوہ تبوک میں مالی و جانی قربانی والے صحابہ کے لیے اتری اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اس لشکر کے لیے تمام سواریوں مع انکے ساز و سامان کے پیش کرنا از تاریخ شیعہ۔ | | |
| فضائل سیدنا مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ | | | |
| 164 | وَ اِذْ اَنْزَلْنَا مِنَ اللّٰهِ وَرِسُوْلَهٗ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ (براءت: 3) | 3 | 395 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 164 | نوہجری کے حج پر اعلانِ براءت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان سے کروایا گیا۔ | 3 | 395 |
| 165 | فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ (آل عمران: 61) | 2 | 75 |
| | یہاں وَ أَنْفُسَكُمْ میں حضرت مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو داخل کیا گیا۔ | | |
| 166 | وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (براءت: 58) | 3 | 449 |
| | اس آیت کا ذوالخویصرہ کے بارے میں نازل ہونا اور اس کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل۔ | | |
| 167 | هٰذِهِ خِصَمَبٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ --- إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (حج: 19-23) | 4 | 659 |
| | یہ آیات ان تین مومنوں اور تین کافروں کے لیے اتریں جو بدر میں سب سے پہلے تلواریں لے کر اترے تھے ان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ | | |
| 168 | أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (سجدہ: 18) | 5 | 462 |
| | اس آیت کا مولیٰ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حق میں اترنا۔ | | |
| 169 | إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُْوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ (مجادلہ: 12) | 7 | 14 |
| | اس آیت پر صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے عمل کیا پھر یہ منسوخ ہو گئی۔ | | |
| 170 | لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (الحاقہ: 37) | 7 | 198 |
| | اس آیت کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ قرآن میں نقطے اور اعراب لگائے جائیں تاکہ کسی کو معنی میں اشتباہ نہ ہو بروایت شعب الایمان۔ | | |
| 171 | إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا (شمس: 12) | 7 | 420 |
| | فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بڑے بد بخت ہیں ناقہ صالح علیہ السلام کا عاقر اور علی کا قاتل۔ | | |
| 172 | وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (بقرہ: 207) | 1 | 449 |
| | اس آیت کا شان حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اترنا جب وہ شب ہجرت بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئے۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | خاص صحابہ کرام کے فضائل | |
| | | حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ | |
| 137 | 2 | مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ (آل عمران: 113) عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے اس آیت کا نزول۔ | 173 |
| | | نضر بن انس رضی اللہ عنہ | |
| 493 | 5 | رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (احزاب: 23) اس آیت کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کے حق میں اترنا اور ان کا بے مثال جذبہ شہادت۔ | 174 |
| 439 | 7 | وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (اللیل: 17-18) یہ آیات تب اتریں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کیا۔ | 175 |
| | | حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ (کلید بردار کعبہ) | |
| 343 | 2 | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (نساء: 58) اس آیت کا ان کے حق میں نازل ہونا اور تاقیامت انہیں اور انکی اولاد کو کلید کعبہ کا دیا جانا۔ | 176 |
| | | حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ | |
| 517 | 5 | فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا (احزاب: 37) پورے قرآن میں انبیاء کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی مومن مرد کا نام نہیں لیا گیا۔ | 177 |
| 517 | 5 | لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (احزاب: 37) یہ الفاظ بھی صرف حضرت زید رضی اللہ عنہ ہی کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں۔ | 178 |
| 517 | 5 | حضرت زید رضی اللہ عنہ کی فضیلت حدیث سے۔ | 179 |
| | | حضرت جمیر بن مطعم رضی اللہ عنہ | |
| 578 | 6 | إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (طور: 8، 7) | 180 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 180 | یہ آیت سن کر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہما اسلام لے آئے۔ | 6 | 578 |
| | حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ | | |
| 181 | عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً (متحدہ: 7) | 7 | 63 |
| | یہ آیت بقول حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ | | |
| 182 | حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا اپنے ایمان کا ضیاع ہے۔ انکے چند فضائل۔ | 7 | 63 |
| | حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ | | |
| 183 | إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (محل: 106) | 4 | 277 |
| | اس آیت کا اگلے حق میں اترنا۔ | | |
| 184 | أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (عنکبوت: 2) | 5 | 343 |
| | حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور انکے بوڑھے والدین کی دین کے لیے قربانیاں۔ | | |
| 185 | حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی فضیلت حدیث سے۔ | 4 | 281 |
| | حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ | | |
| 186 | أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَا قِيَّةَ لَهُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (قصص: 61) | 5 | 323 |
| | اس آیت کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اترنا۔ | | |
| 187 | حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اور انکے فضائل۔ | 5 | 324 |
| | حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ | | |
| 188 | وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (عنکبوت: 8) | 5 | 345 |
| | اس آیت کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حق میں اترنا۔ | | |
| 189 | حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ | 5 | 347 |
| | حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ | | |
| 190 | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِي (ص: 3) | 7 | 325 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 190 | حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی کی ولداری کے لیے دس آیات اتریں اسکے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بے حد لحاظ فرماتے تھے۔ | 7 | 325 |
| | حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ | | |
| 191 | لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ (علق: 15) ابو جہل ملعون کی ذلت آمیز موت اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اعزاز۔ | 7 | 483 |
| | فضائل اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم | | |
| | اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی فضائل | | |
| 192 | إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ (آل عمران: 36) یہی دعائیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا اور ان کے بچوں کے لیے فرمائی۔ | 2 | 45 |
| 193 | نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ (آل عمران: 61) پنج تن پاک کو دیکھ کر عیسائیوں کا بھاگ جانا۔ | 2 | 76 |
| 194 | حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے حکم میں ہیں۔ | 2 | 76 |
| 195 | حسنی و حسینی سادات اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ | 2 | 77 |
| 196 | وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ --- وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاسَ ؕ (انعام: 84، 85) حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور انکی ذریت کا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر استدلال۔ | 3 | 71 |
| 197 | وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (عنکبوت: 27) جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی نسل میں نبوت چلائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں کی نسل میں ولایت چلائی گئی۔ | 5 | 357 |
| 198 | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (احزاب: 33) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مولیٰ علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہراء اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو اس آیت میں داخل کیا گیا۔ | 5 | 505 |
| 199 | شانِ طہارتِ پنجتنِ پاک۔ | 5 | 508 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 509 | 5 | حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اور تمام پنج تن پاک کے فضائل حدیث سے۔ | 200 |
| 568 | 5 | إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (احزاب: 57) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت کو ایذا دینا احادیث کے مطابق اللہ و رسول کو اذیت دینا ہے۔ | 201 |
| 177 | 6 | وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ^ط (مومن: 8) جب ہر صالح آدمی اپنی اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے تو حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذریت کے لیے باعثِ بخشش ہونے میں کیا کلام ہے؟ | 202 |
| 280 | 6 | قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ^ط (شوری: 23) یہ آیت قرابت داران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازل ہوئی۔ احادیث میں اس بارے میں بعض شبہات کا ازالہ۔ | 203 |
| 282 | 6 | اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وجوب احادیث سے۔ | 204 |
| 283 | 6 | فضائل پنج تن پاک میں چند احادیث۔ | 205 |
| 285 | 6 | حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کا وجوب انکے لیے خلافتِ بلا فصل کی دلیل نہیں ہے۔ | 206 |
| 324 | 6 | وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ (زخرف: 28) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ ایمان رہے گا اور آل رسول بھی اولاد ابراہیم ہے۔ | 207 |
| 282 | 7 | وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ^ط (دھر: 8) سورہ دھر کی اٹھارہ آیات (5 تا 22) حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا اور حسنین رضی اللہ عنہم کی شان میں اتریں۔ | 208 |
| 546 | 7 | إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ^ط (کوثر: 1) الکوثر کا ایک معنی کثرت اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 209 |
| 546 | 7 | اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے اولیاء کاملین۔ | 210 |
| 547 | 7 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آپ کی بیٹی سے کیوں چلائی گئی؟ | 211 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | قرآن اور کردار امام حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> | | |
| 212 | اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (بقرہ: 153) صبر و نماز اور کردار امام حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> | 1 | 357 |
| 213 | وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ اس آیت پر سیدنا امام حسن <small>رضی اللہ عنہ</small> نے جو عمل کیا، وہ بے مثال ہے۔ (آل عمران: 134) | 2 | 156 |
| 214 | وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: 59) امام عالی مقام امام حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کے یزید کے خلاف نکلنے کی شرعی نوعیت۔ | 2 | 347 |
| 215 | فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (نساء: 102) حضرت امام حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کا کر بلا میں اس حکم قرآن کے مطابق صلوة الخوف پڑھنا۔ | 2 | 417 |
| 216 | حضرت امام حسن <small>رضی اللہ عنہ</small> کی فضیلت زبان رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے۔ | 6 | 518 |
| 217 | وَإِنْ طَآئِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَاصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا (حجرات: 9) جس طرح حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small> نے اس آیت پر عمل کیا، تاریخ اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ | 6 | 517 |
| 218 | حضرات حسنین کریمین <small>رضی اللہ عنہما</small> نے حضرت امیر معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان کو جہنمی کہنے والا خود جہنمی ہے۔ | 6 | 518 |
| 219 | آپ کا سجدے میں سر کٹانا اور اسکی تحقیق۔ | 2 | 417 |
| | فضائل ازواج رسول <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> | | |
| 220 | هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (بقرہ: 187) | 1 | 415 |
| 221 | وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ (آل عمران: 121) بیوی اہل بیت میں سے ہے۔ | 2 | 145 |
| 222 | قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ نبی کی بیوی بھی نبی کے اہل بیت میں سے ہے۔ (حود: 73) | 3 | 651 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 223 | وَ الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ (نور: 26) ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت۔ | 5 | 73 |
| 224 | إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۚ سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ (نمل: 7) نبی کی بیوی اُس کے اہل میں شامل ہوتی ہے۔ | 5 | 235 |
| 225 | قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ (قصص: 29) | 5 | 303 |
| 226 | فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ (طہ: 10) ان آیات مقدسہ میں بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے اور اسکے لیے جمع مذکر کے صیغے بولے گئے ہیں۔ | 4 | 524 |
| 227 | النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ (احزاب: 6) ایمانی ماؤں کا مقام جسمانی ماؤں سے اتنا ہی بڑا ہے جتنا ایمان کا مقام جسم سے بڑا ہے۔ اور ایمانی ماؤں کو گالیاں دینے والا شخص سخت بے حیاء ہے۔ | 5 | 476 |
| 228 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ --- أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (احزاب: 28، 29) جب ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا کر کے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئیں۔ | 5 | 496 |
| 229 | وَمَنْ يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۗ (احزاب: 31) ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر نیکی کا اجر دوہرا ہے۔ | 5 | 499 |
| 230 | يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (احزاب: 32) ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی خواتین سے افضل ہیں۔ | 5 | 501 |
| 231 | إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ (احزاب: 33) اللہ تعالیٰ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پاک کر دیا کہ وہ شیطانی خواب بھی نہیں دیکھتی تھیں۔ | 5 | 504 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 232 | کیا اس آیت (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ) کا ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں؟۔ اس بات کے دلائل کہ یہ آیت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتداء نازل ہوئی۔ | 5 | 504 |
| 233 | شانِ طہارت ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 5 | 508 |
| 234 | فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَكْرًا زَوَّجْنَاكَهَا (احزاب: 37) اس آیت میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا براہِ راست اور خصوصی ذکر ہے۔ | 5 | 518 |
| 235 | حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے فضائل حدیث سے۔ | 5 | 518 |
| 236 | لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ (احزاب: 52) جب ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترک دنیا کو اختیار کیا تو آپ کو حکم ہوا اب آپ کسی دوسری عورت سے شادی نہ کریں نہ ان میں سے کسی کو طلاق دیں۔ | 5 | 551 |
| 237 | وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا (احزاب: 53) ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حرمت نکاح کے تین اسباب۔ | 5 | 557 |
| عظمتِ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا | | | |
| 238 | وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ (آل عمران: 121) حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اہل بیت نبی ہونے پر قرآن کی گواہی۔ | 2 | 145 |
| 239 | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا (نساء: 128) اس آیت کا شانِ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں اترنا۔ | 2 | 445 |
| 240 | حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت از کتب شیعہ۔ | 2 | 445 |
| 241 | وصال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں مستقل رہائش فرمانا از کتب شیعہ۔ | 2 | 446 |
| 242 | وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (نساء: 129) یہ آیت حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اتری۔ | 2 | 448 |
| 243 | فَتَيَسَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (مائدہ: 6) | 2 | 534 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 243 | آیت تیمم کا حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی وجہ سے اترنا۔ | 2 | 534 |
| 244 | وَشَهِدَ شَاهِدًا مِّنْ أَهْلِهَا (یوسف: 26) عصمتِ یوسف علیہ السلام پر شیر خوار بچے کی گواہی اور عصمتِ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر رب العرش کی گواہی۔ | 4 | 26 |
| 245 | قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتَهَا فَمَتَّعَيْنَ أُمَّتَعُكُنَّ وَأَسْرَحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (احزاب: 28) ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے اول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کے نزول پر اللہ و رسول کو اختیار کیا۔ | 5 | 498 |
| 246 | وَلَوْ لَا إِذِ سَبَعْتُمْوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (نور: 16) اس آیت کے مطابق جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق صحابہ کرام سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیسے ایمان افروز جوابات دیے؟ | 5 | 63 |
| 247 | وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (نور: 15) جن دو تین صحابہ نے معاملہ اُفک میں منافقین کی تائید کی ان کے لیے اللہ کی طرف سے تہدید۔ | 5 | 64 |
| 248 | ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دس خصوصیات۔ | 5 | 64 |
| 249 | إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (نور: 23) اس آیت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بیان کیے گئے ہیں | 5 | 71 |
| 250 | أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (نور: 26) حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے بخشش و رزق کریم کا خصوصی اعلان۔ | 5 | 73 |
| 251 | إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (احزاب: 57) یہ آیت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین کے بہتان رکھنے کے موقع پر اتری۔ | 5 | 567 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | فضائل اولیاء اللہ | | |
| 252 | هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ (آل عمران: 38) مقامات اولیاء قبولیت دعائیں اثر رکھتے ہیں۔ | 2 | 48 |
| 253 | وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لَیْمَیْمٌ (آل عمران: 42) سیدہ مریم علیہا السلام کی عظمت و فضیلت۔ | 2 | 52 |
| 254 | وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۗ (آل عمران: 169) ولی اللہ شہید اکبر ہے وہ بطریق اولی زندہ ہے۔ | 2 | 208 |
| 255 | الْآنَ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ (یونس: 62) اولیاء اللہ کی عظمت اور انکا دنیوی و اخروی مقام۔ | 3 | 574 |
| 256 | وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (انعام: 59) بعض اولیاء اپنے قلب میں عکس لوح محفوظ دیکھتے اور اسکی تحریر پڑھتے ہیں۔ | 3 | 51 |
| 257 | اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ (براءت: 119) اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کی صحبت کی تاثیر۔ | 3 | 521 |
| 258 | اولیاء اللہ کی پہچان۔ | 3 | 575 |
| 259 | کرامت اولیاء کی پہچان نہیں۔ | 3 | 577 |
| 260 | جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴿٢٣﴾ (رعد: 23) صالحین روز قیامت اپنے خاندان اور متعلقین کے لیے باعث رحمت و بخشش ثابت ہونگے۔ | 4 | 113 |
| 261 | قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا --- الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ (نحل: 30-32) اولیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو کیا پیارا منظر ہوتا ہے؟ | 4 | 224 |
| 262 | مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ (نحل: 97) متقین کو کونسی حیات طیبہ دی جاتی ہے؟ | 4 | 273 |
| 263 | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (طور: 21) | 6 | 580 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------|---|-----|-----------|
| 263 | معلوم ہوا متقین سے نبی تعلق باعث برکت ہے بشرطیکہ فضلِ ربی شامل ہو۔ | 6 | 580 |
| 264 | إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۝ (کوثر: 1) الکوثر کی ایک تفسیر کثرتِ اولیاء اللہ بھی ہے۔ | 7 | 550 |
| 265 | امتِ محمدیہ میں اولیاء اللہ کی کثرت حدیث کی روشنی۔ | 7 | 551 |
| 266 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝ (مریم: 96) اللہ تعالیٰ مؤمنین متقین کے لیے لوگوں کے دلوں میں کیسے محبت پیدا کرتا ہے؟ حدیث کی روشنی میں۔ | 4 | 517 |
| 267 | وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۝ (شوری: 26) اولیاء اللہ کا مستجاب الدعوات ہونا۔ | 6 | 289 |
| اصحاب کہف کا تذکرہ | | | |
| 268 | إِذْ أَوْسَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا (کہف: 10) | 4 | 405 |
| 269 | فِتْيَةٌ آمَنُوا --- فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ (کہف: 13-16) واقعہ اصحاب کہف کا ابتدائی حصہ۔ | 4 | 409 |
| 270 | اصحاب کہف کی استقامت۔ | 4 | 409 |
| 271 | وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ (کہف: 17) عظمتِ اولیاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے اجسامِ اصحاب کہف کو سردی گرمی سے بچایا۔ | 4 | 410 |
| 272 | وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۝ (کہف: 18) انبیاء و اولیاء کے اجسام مبارکہ کو اللہ تعالیٰ قبروں میں خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ | 4 | 411 |
| 273 | وَكَابَهُمْ بِسِطٍّ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ ۝ (کہف: 18) کتا اصحاب کہف کے ساتھ کیسے لگا؟ | 4 | 412 |
| 274 | اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والا کتا بھی محروم نہیں۔ | 4 | 412 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 275 | اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ | 4 | 413 |
| 276 | لَوِ اَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا (کہف: 18) اللہ تعالیٰ نے تین سو نو برس تک کسی شخص کو غارِ اصحاب کہف کی طرف بھٹکنے نہ دیا۔ | 4 | 414 |
| 277 | قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (کہف: 19) تین صدیوں میں اصحاب کہف کے نہ بال بڑھے، نہ ناخن، نہ کپڑے خراب ہوئے۔ | 4 | 415 |
| 278 | فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ (کہف: 21) مزاراتِ اولیاء کے قرب میں حصولِ برکت کے لیے مسجد کا بنانا جائز ہے۔ | 4 | 419 |
| 279 | اصحاب کہف تین صدیوں کے بعد کیسے بیدار ہوئے اور کیسے پہچانے گئے؟ | 4 | 420 |
| 280 | اصحاب کہف کے اسماء گرامی۔ | 4 | 421 |
| 281 | وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَاَزْدَاذُ وَاَتِسْعًا (کہف: 25) اس آیت میں شمسی اور قمری دونوں کیلنڈروں کے مطابق اصحاب کہف کی موتِ اقامتِ غار بتائی گئی ہے۔ | 4 | 424 |
| شاہ ذوالقرنین ﷺ کا تذکرہ | | | |
| 282 | وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ (کہف: 83) ذوالقرنین بادشاہ کا تعارف اور اسکی وجہ تسمیہ۔ | 4 | 460 |
| 283 | قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعْدِبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (کہف: 86) تحقیق یہ ہے کہ ذوالقرنین نبی نہ تھا بلکہ صالح مومن حاکم تھا اور یہ خطابِ ربی اسے براہِ راست نہیں، کسی نبی کے ذریعے کیا گیا۔ | 4 | 461 |
| حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا تذکرہ | | | |
| 284 | وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اشْكُرْ لِلّٰهِ (لقمان: 12) حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کا تعارف اور یہ کہ وہ ولی ہیں نبی نہیں۔ | 5 | 433 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 433 | 5 | انہوں نے غلام ہو کر یہ عظیم مرتبہ کیسے پایا؟ | 285 |
| | | حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا زوجہ فرعون کا تذکرہ | |
| 155 | 7 | إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ (تحریم: 11) | 286 |
| | | حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا کی عظیم استقامت۔ | |
| | | حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ کا تذکرہ | |
| 254 | 5 | قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (نمل: 40) | 287 |
| | | حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ عنہ تخت بلقیس کو یمن سے عراق میں کیسے لائے، کرامت کی حقانیت۔ | |
| 255 | 5 | قوتِ ولی کے سامنے قوتِ جنات کچھ نہیں ہے۔ | 288 |
| | | نااہل سجادہ نشینان اور جعلی پیروں فقیروں کا رد | |
| 637 | 3 | إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ (هود: 46) | 289 |
| | | حضرت نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو کیا ضروری ہے کہ ایک ولی اللہ کی اولاد نسل در نسل ہمیشہ اولیاء ہی رہے، خواہ وہ فاسق و فاحسب رہوں۔ | |
| 575 | 3 | الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ (یونس: 63) | 290 |
| | | تقویٰ کے لحاظ سے دورِ حاضر کے نام نہاد پیروں فقیروں کی حالتِ زار۔ | |
| 577 | 3 | کرامت اولیاء کی پہچان نہیں۔ | 291 |
| 447 | 4 | وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (کہف: 65) | 292 |
| | | شریعت کے باغی جاہل صوفیوں کا رد۔ | |
| | | فضائل علماء و فضیلت علم | |
| 175 | 1 | وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ: 31) | 293 |
| | | خلافت کا حقدار عالم ہی ہو سکتا ہے۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 294 | اسْجُدُوا لِأَدَمَ (بقرہ: 34) استاذ کی تکریم۔ | 1 | 179 |
| 295 | حَاجَّ ابْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ (بقرہ: 258) اظہار حق کے لیے مناظرہ کرنا چاہیے۔ | 1 | 555 |
| 296 | الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 273) دور حاضر کے دینی طلباء اور مدارس اس آیت کا سب سے بہتر مصداق ہیں۔ | 1 | 582 |
| 297 | وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (آل عمران: 104) علماء دین کی عظمت۔ | 2 | 127 |
| 298 | علماء کا مقصد زندگی تبلیغ دین ہونا چاہیے۔ | 2 | 128 |
| 299 | لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ (نساء: 83) قیاس کی حجیت۔ | 2 | 386 |
| 300 | يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ (نساء: 170) فضیلت علماء امت محمدیہ (ہر کسی کے پاس رسول نہیں آیا البتہ علماء رسول کا پیغام لے کر پہنچے ہیں)۔ | 2 | 492 |
| 301 | وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ (مائدہ: 4) کتے کو اگر سکھایا گیا ہو تو اس کا شکار حلال ہے۔ تو علم سے انسان کو کس قدر شرافت ملتی ہے، یہ قابل فہم ہے۔ | 2 | 522 |
| 302 | فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (براءت: 122) ہر قوم میں سے کچھ لوگوں کو علم دین سیکھنے کے لیے نکلنے کا حکم۔ | 3 | 523 |
| 303 | دینی مدارس کی اہمیت۔ | 3 | 524 |
| 304 | علماء دین کی فضیلت۔ | 3 | 524 |
| 305 | فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا (یوسف: 47) | 4 | 42 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 42 | 4 | علماء کو علومِ طبعیہ بھی پڑھنے چاہیں۔ | 305 |
| 132 | 4 | لِخُرْجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (ابراہیم: 1) آج علماء نابین رسول ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لارہے ہیں، تو یہ بھی حقیقت میں رسول ہی کا لانا ہے۔ | 306 |
| 446 | 4 | لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (کہف: 62) حصولِ علمِ دین کے لیے سفر کرنے کی فضیلت۔ | 307 |
| 450 | 4 | هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (کہف: 66) استاذ کا احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں۔ | 308 |
| 572 | 4 | وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ: 114) علم نافع کے لیے دعاء کرنا سنت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم | 309 |
| 12 | 7 | يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (مجادلہ: 11) اہل علم کی فضیلت حدیث سے۔ | 310 |
| 481 | 7 | اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (علق: 1) پہلی وحی کے پہلے لفظ اقرأ سے اشارہ ملتا ہے کہ اسلام میں تعلیم و تعلم کی کس قدر اہمیت ہے۔ | 311 |
| 549 | 7 | إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (کوثر: 1) الکوثر کا ایک معنی کثرتِ علماء امت بھی ہے۔ | 312 |
| 550 | 7 | امتِ محمدیہ میں علماء ربانیین کی کتنی کثرت ہے اسکا بیان۔ | 313 |
| 634 | 5 | إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: 28) علم خشیتِ الہیہ کا سبب ہے۔ | 314 |
| 634 | 5 | فضیلتِ علماء دین۔ | 315 |
| 166 | 6 | أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ (زمر: 71) علماء نابین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انکی موجودگی اور دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور | 316 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 316 | دعوت ہے۔ | 6 | 166 |
| | علماء سوء کی مذمت | | |
| 317 | وَلَا تَكْتُمُونَهُ (آل عمران: 187) علم کے چھپانے کا گناہ۔ | 2 | 230 |
| 318 | إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ (اعراف: 176) ہر ضمیر فروش عالم یا پیر دوسرا بلعم بن باعور ہے۔ | 3 | 286 |
| 319 | إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (بقرہ: 174) علم کو چھپانے کا گناہ۔ | 1 | 375 |
| 320 | وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (بقرہ: 169) علم کے بغیر فتویٰ دینے کا گناہ۔ | 1 | 169 |
| 321 | فَلِمَ تُوْحَا جُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ (آل عمران: 66) علم کو جھگڑے کے لیے استعمال کرنے کی برائی۔ | 2 | 87 |
| 322 | فَمَا سَأَلْتُمْ مِّنْ أَجْرٍ (یونس: 72) تبلیغ دین پر تنخواہ لینا جائز نہیں (البتہ پابندی وقت کا معاوضہ جائز ہے)۔ | 3 | 582 |
| | فضائل امت محمدیہ | | |
| 323 | الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (بقرہ: 3) فضیلتِ آخرین امت۔ | 1 | 132 |
| 324 | وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ (بقرہ: 49) لفظ آل پیروکاروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ | 1 | 208 |
| 325 | ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ (بقرہ: 51) امت محمدیہ کی استقامت۔ | 1 | 211 |
| 326 | فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (بقرہ: 54) | 1 | 213 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 213 | 1 | امت محمدیہ کے لیے توبہ کی آسانی۔ | 326 |
| 341 | 1 | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (بقرہ: 143) امت وسط ہونے کا معنی۔ | 327 |
| 342 | 1 | روز قیامت امت محمدیہ کا انبیاء کے حق میں گواہی دینا۔ | 328 |
| 343 | 1 | امت محمدیہ کی افضلیت۔ | 329 |
| 343 | 1 | لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بقرہ: 143) امت محمدیہ کا اجماع حجت ہے۔ | 330 |
| 354 | 1 | وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ (بقرہ: 150) امت محمدیہ پر اتمام نعمت۔ | 331 |
| 610 | 1 | رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا (بقرہ: 286) امت محمدیہ سے خطا و نسیان کی معافی۔ | 332 |
| 129 | 2 | كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: 110) امت محمدیہ کا سب امتوں سے افضل ہونا۔ | 333 |
| 296 | 2 | يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (نساء: 28) امت محمدیہ کے لیے نرم احکام رکھے گئے۔ | 334 |
| 535 | 2 | وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (مائدہ: 6) امت محمدیہ کی فضیلت (انکے لیے تیمم جائز کیا گیا)۔ | 335 |
| 630 | 2 | فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٧﴾ (مائدہ: 83) امت محمدیہ کو شاہدین کا لقب دیا گیا (کہ وہ روز قیامت انبیاء کے لیے گواہی دیں گے)۔ | 336 |
| 56 | 3 | قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا (انعام: 65) امت محمدیہ کے لیے بڑے عذابات کو چھڑوا کر ہلکا عذاب قبول کر لیا گیا۔ | 337 |
| 140 | 3 | مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا (انعام: 160) | 338 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 140 | 3 | اس امت کے لیے کثرتِ ثواب۔ | 338 |
| 240 | 3 | اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ آلِهَةٌ (اعراف: 138) بنی اسرائیل کی جہالت اور امتِ محمدیہ کی توحید پر استقامت۔ | 339 |
| 253 | 3 | وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا (اعراف: 148) بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی اور امتِ محمدیہ کی استقامت۔ | 340 |
| 261 | 3 | فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ --- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (اعراف: 157) نبی اُمّی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے فضائل۔ | 341 |
| 558 | 4 | فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ (طہ: 88) بنی اسرائیل کا شرک اور امتِ محمدیہ کی توحید پر استقامت۔ | 342 |
| 559 | 4 | وَلَكِنَّا حَبَلْنَا أَوْزَارًا مِنَ زِينَةِ الْقَوْمِ (طہ: 87) امتِ محمدیہ کے لیے اموالِ غنیمت کا حلال کیا جانا۔ | 343 |
| 649 | 4 | إِنَّ زُلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (ع: 1) اس آیت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ قیامت میں میری امت سب امتوں سے زیادہ جنت میں جائیگی۔ | 344 |
| 168 | 6 | وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا (زمر: 71) امتِ محمدیہ کے لیے روزِ قیامت بخشش کی فراوانی۔ | 345 |
| 168 | 6 | امت کے وہ خوش نصیب لوگ جنہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلایا جائیگا۔ | 346 |
| 710 | 6 | يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (حدید: 28) امتِ محمدیہ کے لیے عمل کم اور اجر زیادہ ہے۔ | 347 |
| 141 | 7 | قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (تحریم: 2) قسم اٹھانے کے بارے میں امتِ محمدیہ کے لیے خصوصی رعایت۔ | 348 |
| 547 | 7 | إِنَّا آعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ (کوثر: 1) | 349 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 349 | اسکی ایک تفسیر کثرت امت محمدیہ بھی ہے۔ | 7 | 547 |
| 350 | امت محمدیہ کی کثرت کا بیان حدیث سے۔ | 7 | 548 |
| | مقامات مقدسہ | | |
| | کعبۃ اللہ | | |
| 351 | وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ (بقرہ: 127) تعمیر کعبہ کے مختلف ادوار و مراحل۔ | 1 | 321 |
| 352 | إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا (آل عمران: 96) کعبۃ اللہ اور حج کی اہمیت۔ | 2 | 112 |
| 353 | جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ (مائدہ: 97) کعبہ کے جائے قیام بنائے جانے کے معانی۔ | 2 | 652 |
| 354 | رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (ابراہیم: 37) | 4 | 161 |
| 355 | وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ (حج: 29) کعبۃ اللہ کو البیت العتیق کہے جانے کا مطلب۔ | 4 | 667 |
| | صفا و مروہ | | |
| 356 | إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقرہ: 158) صفا و مروہ میں سعی کا حکم حدیث کے مطابق صرف سنت حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے احیاء کے لیے کیا گیا۔ | 1 | 362 |
| 357 | صفا و مروہ میں سعی کے احکام۔ | 1 | 363 |
| | مکہ و حرم مکہ | | |
| 358 | وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا (بقرہ: 126) حرم مکہ کے جائے امن ہونے کا معنی۔ | 1 | 319 |
| 359 | وَازْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ (بقرہ: 126) | 1 | 319 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------------|--|-----|-----------|
| 359 | اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھلوں کی دعا کرنا۔ | 1 | 319 |
| 360 | وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران: 97) حدودِ حرم کے جائے امن ہونے کے تین معانی۔ | 2 | 114 |
| 361 | وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا (ابراہیم: 35) حدودِ حرم میں شکار کرنا اور درخت کا ٹٹا جائز نہیں۔ | 4 | 160 |
| 362 | كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا (نمل: 112) | 4 | 283 |
| 363 | وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (حج: 25) سرزمینِ حرم میں گمراہ کن عقائد پھیلانے کا گناہ اور عذابِ حدیث سے۔ | 4 | 663 |
| 364 | وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً إِلَى الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ (حج: 25) کیا ارضِ حرم کی خرید و فروخت اور کرایہ داری ناجائز ہے؟ | 4 | 661 |
| 365 | إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا (نمل: 91) شہرِ مکہ مکرمہ کو کیا کیا حرمت دی گئی؟ | 5 | 278 |
| 366 | أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبَىٰ إِلَيْهِ تَمْرٌ كُلِّ شَيْءٍ (قصص: 57) | 5 | 318 |
| 367 | أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفُّ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ (عنکبوت: 67) اہل مکہ کو اہل حرم ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے محترم سمجھا جاتا تھا اور کوئی ان سے جنگ نہیں کرتا تھا۔ | 5 | 383 |
| 368 | لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (شوری: 7) مکہ ساری روئے زمین کا مرکز اور اصل ہے۔ | 6 | 268 |
| مدینہ طیبہ | | | |
| 369 | وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ تَتَّخِذُهُمُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (نمل: 41) یہ فضیلتِ مدینہ طیبہ کی طرف اشارہ ہے۔ حُبِ مدینہ طیبہ از حدیث۔ | 4 | 230 |
| 370 | وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ (احزاب: 13) | 5 | 483 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|---|-----------|
| 483 | 5 | گو یا مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا طریقہ منافقین ہے۔ | 370 |
| 483 | 5 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب نام بدل کر مدینہ رکھا۔ | 371 |
| 483 | 5 | فضیلتِ مدینہ منورہ از احادیثِ نبویہ۔ | 372 |
| 410 | 7 | لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (البلد: 1-2) یہ آیت مکہ مکرمہ کے بارے میں اُتری مگر اس سے عظمتِ مدینہ طیبہ بھی ثابت ہو رہی ہے۔ | 373 |
| مسجدِ قبا | | | |
| 504 | 3 | لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (براءت: 108) اسلام میں سب سے پہلے یہی مسجد بنائی گئی۔ | 374 |
| 504 | 3 | یہ تقویٰ کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ | 375 |
| 504 | 3 | فِيهِ رَجُلٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا (براءت: 108) اسکے بنانے والے پاک باز لوگ تھے۔ | 376 |
| 505 | 3 | کیا یہ آیت لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مسجدِ قبا کے لیے نازل نہیں ہوئی؟ | 377 |
| 507 | 3 | مسجدِ قبا کی فضیلت حدیث سے۔ | 378 |
| مقدس مقامات پر جو تی اتار دینی چاہیے | | | |
| 526 | 4 | فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى (طہ: 12) وادی ایمن مہربط وحی کی وجہ سے اس وقت وادی مقدس تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تی اتارنے کا حکم ہوا۔ | 379 |
| اوقاتِ مقدسہ کی فضیلت | | | |
| جمعہ اور شبِ جمعہ کی فضیلت | | | |
| 76 | 4 | قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي (یوسف: 98) شب جمعہ کی فضیلت حدیث سے۔ | 380 |
| 94 | 7 | إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (جموعہ: 9) | 381 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--|-----|--|-----------|
| 94 | 7 | روز جمعہ کی فضیلت احادیث سے۔ | 381 |
| 366 | 7 | وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (بروج:3) یوم جمعہ اور یوم عرفہ کی فضیلت۔ | 382 |
| 366 | 7 | حج اکبر کی فضیلت۔ | 383 |
| لیلۃ نصف شعبان کی فضیلت | | | |
| 352 | 6 | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ (دخان:3) اس رات میں سال بھر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ | 384 |
| 354 | 6 | اس رات میں عبادت کا ثواب۔ | 385 |
| 354 | 6 | اس رات قبرستان جانا سنت ہے۔ | 386 |
| 359 | 6 | شب براءت میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ | 387 |
| دی الحجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت | | | |
| 397 | 7 | وَلَيَالٍ عَشْرٍ (نجر:2) ان دس راتوں سے مراد بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں ہیں اور انکی فضیلت حدیث نبوی سے۔ | 388 |
| ماہ رمضان المبارک کی فضیلت | | | |
| 403 | 1 | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ:185) ماہ رمضان المبارک کی فضیلت احادیث مبارکہ سے۔ | 389 |
| لیلۃ القدر کی فضیلت | | | |
| 486 | 7 | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (قدر:1) لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ۔ | 390 |
| 488 | 7 | هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (قدر:5) لیلۃ القدر کی فضیلت حدیث سے۔ | 391 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 392 | لیلیۃ القدر عموماً ستائیس رمضان کو آتی ہے۔ | 7 | 489 |
| 393 | لیلیۃ القدر میں کونسی عبادت کرنی چاہیے؟ | 7 | 489 |

الْأَدْيَانُ الْبَاطِلَةُ

● یہود

● نصاریٰ

● مشرکین و دیگر

فرق باطلہ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | رذیہودیت | | |
| 1 | وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (بقرہ: 42) علماء یہود کی افسوس ناک دین کتمان حق۔ | 1 | 194 |
| 2 | وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ (بقرہ: 50) بنی اسرائیل کے لیے کونسا سمندر پھاڑا گیا؟ | 1 | 206 |
| 3 | سمندر کے پھاڑے جانے کا واقعہ۔ | 1 | 206 |
| 4 | ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا (بقرہ: 51) بنی اسرائیل کا بچھڑا پرستی میں مبتلا ہونا۔ | 1 | 209 |
| 5 | ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ (بقرہ: 56) بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا دوبارہ زندہ ہونا۔ | 1 | 214 |
| 6 | وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (بقرہ: 61) یہود کا قتل انبیاء اور ان پر غضب الہی کا مسلط ہونا۔ | 1 | 225 |
| 7 | یہودی قوم اب ایک دن امریکہ کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ | 1 | 226 |
| 8 | فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (بقرہ: 65) کیا آج کے بندر بنی اسرائیل کے مسخ شدہ بندروں کی اولاد ہیں؟ | 1 | 232 |
| 9 | وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأَتْكُمْ فِيهَا (بقرہ: 72) بنی اسرائیل کے لیے ایک مقتول کا زندہ کیا جانا۔ | 1 | 242 |
| 10 | ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ (بقرہ: 74) یہود کی سنگ دلی۔ | 1 | 244 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 11 | یہود کا داغدار ماضی۔ | 1 | 256 |
| 12 | يَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ (آل عمران: 21) یہود کا قتل انبیاء۔ | 2 | 25 |
| 13 | قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ (آل عمران: 24) یہود کا سمجھنا کہ ہمیں صرف چالیس دن آگے چھوئے گی۔ | 2 | 30 |
| 14 | قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (آل عمران: 73) مسلمانوں کے خلاف یہود کا حسد و بغض۔ | 2 | 87 |
| 15 | وَ مِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَامَنَّهُ بِدِيْنَارٍ (آل عمران: 75) یہود کی اخلاقی برائیاں۔ | 2 | 89 |
| 16 | یہود دوسری قوموں کو مالی جانی نقصان پہنچانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ | 2 | 90 |
| 17 | كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاَّ (آل عمران: 93) یہود کے ایک جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کی گرفت۔ | 2 | 110 |
| 18 | ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰةُ اَيْنَ مَا تُقِفُوْا (آل عمران: 112) یہود پر مسلط کی گئی دائمی ذلت۔ | 2 | 134 |
| 19 | یہود پر ماضی میں کیسی ذلت مسلط رہی اور آئندہ کیسی رہے گی؟ | 2 | 135 |
| 20 | وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ (آل عمران: 112) یہود کی قتل انبیاء پر دلیری۔ | 2 | 136 |
| 21 | مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قٰلِيْبَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ (آل عمران: 113) اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی فضیلت۔ | 2 | 137 |
| 22 | قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِيَاءُ (آل عمران: 181) شان خداوندی میں یہود کی گستاخی۔ | 2 | 223 |
| 23 | قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اِلَّا نُوْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَّاْتِيْنَا بِقُرْبٰنٍ تٰكُلُهٗ (آل عمران: 181) یہود کا اللہ سے عہد لینا کہ ہمیں رسول کی خبر تک نہ مانیں۔ | 2 | 225 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 23 | النَّارُ (آل عمران: 183) یہود کی اسلام دشمنی۔ | 2 | 225 |
| 24 | مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا (نساء: 46) یہود کی اسلام دشمن کارروائیاں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار۔ | 2 | 332 |
| 25 | مِن قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا (نساء: 47) اگر کچھ یہود ایمان نہ لاتے تو سب یہود کے چہرے بگاڑ دیے جاتے۔ | 2 | 336 |
| 26 | يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ (نساء: 51) یہود کا مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے مشرکین مکہ کے بتوں کو سجدہ کرنا۔ | 2 | 338 |
| 27 | فَقَالُوا آرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً --- بُهْتَانًا عَظِيمًا (نساء: 153-156) یہود کی آٹھ گمراہیاں۔ | 2 | 470 |
| 28 | وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (نساء: 157) یہود کا فخر یہ کہنا کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ | 2 | 474 |
| 29 | وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ (نساء: 161) یہود کی سود خوری، حرام خوری اور سینہ زوری۔ | 2 | 482 |
| 30 | إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ (مائدہ: 11) یہود کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کرنا۔ | 2 | 539 |
| 31 | وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (مائدہ: 13) یہود بد عہد اور سنگ دل قوم ہے۔ | 2 | 542 |
| 32 | يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهَا (مائدہ: 13) یہود کا تورات میں مذکور اوصاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلنا۔ | 2 | 543 |
| 33 | مسلمانوں کے ساتھ یہود کی بد عہدی کی تاریخ۔ | 2 | 543 |
| 34 | وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ (بقرہ: 50) | 1 | 206 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 34 | بنی اسرائیل کے لیے کونسا سمندر پھاڑا گیا؟ | 1 | 206 |
| 35 | سمندر کے پھاڑے جانے کا واقعہ۔ | 1 | 206 |
| 36 | فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا (ماندہ: 24) بنی اسرائیل کا عہد موسیٰ علیہ السلام میں جہاد سے انکار۔ | 2 | 561 |
| 37 | فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً (ماندہ: 26) بنی اسرائیل کو انکار جہاد کی وجہ سے چالیس سال تک میدانِ تیبہ میں بھٹکا یا جانا۔ | 2 | 562 |
| 38 | يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ (ماندہ: 41) یہود کا احکام الہیہ میں تحریف کرنا۔ | 2 | 581 |
| 39 | تورات میں آج بھی رجم کا حکم موجود ہے۔ | 2 | 582 |
| 40 | الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا (ماندہ: 57) یہود کا اذان کا مذاق اڑانا۔ | 2 | 605 |
| 41 | وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ (ماندہ: 60) یہود پر لعنت کی گئی اور ان میں سے بندر و خنزیر بنائے گئے۔ | 2 | 607 |
| 42 | وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ (ماندہ: 64) یہود کا کہنا کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ (معاذ اللہ) | 2 | 610 |
| 43 | وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (ماندہ: 64) یہود و نصاریٰ میں عداوت کا ڈالا جانا۔ | 2 | 611 |
| 44 | كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ (ماندہ: 64) یہود کا کام ہے دنیا میں نارِ فتنہ کا بھڑکانا، اسکی مثالیں۔ | 2 | 611 |
| 45 | لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (ماندہ: 78) حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء ہلاکت سے یہود کو دوبار بندر و خنزیر بنایا گیا۔ | 2 | 624 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 626 | 2 | لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ (مائدہ: 82) | 46 |
| | | یہود مسلمانوں کے سب سے سخت تر دشمن ہیں اور نصاریٰ سب سے قریب تر ہیں۔ | |
| 79 | 3 | تُبَدُّوْنَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا (انعام: 91) | 47 |
| | | یہود کا تورات کے کئی حصوں کو چھپانا۔ | |
| 127 | 3 | وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ (انعام: 146) | 48 |
| | | یہود پر انکی نافرمانی کے سبب کئی چیزیں حرام کی گئیں۔ | |
| 252 | 3 | وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا (اعراف: 148) | 49 |
| | | بنی اسرائیل کی بچھڑا پرستی۔ | |
| 273 | 3 | وَسُئِلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ (اعراف: 163) | 50 |
| | | ہفتہ کے دن شکار کرنے والے یہود کا بندر بنایا جانا۔ | |
| 279 | 3 | لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ (اعراف: 167) | 51 |
| | | ارشادِ ربانی کے مطابق یہود پر آنے والے عذابات کی تفصیل۔ | |
| 281 | 3 | وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ (اعراف: 171) | 52 |
| | | جب بنی اسرائیل پر طور پہاڑ بلند کیا گیا۔ | |
| 425 | 3 | إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (براءت: 34) | 53 |
| | | یہودی علماء و صوفیاء کا رشوت لے کر احکامِ تورات میں تبدیلی کرنا۔ | |
| 321 | 4 | لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ (بنی اسرائیل: 4) | 54 |
| | | بنی اسرائیل کا زمین میں دو بار فسادِ عظیم بپا کرنا۔ | |
| 75 | 7 | وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تُوذُونَ نِيَّ وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ (صف: 5) | 55 |
| | | حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قومِ یہود کے ہاتھوں زندگی بھر تک ایف اٹھانا۔ | |
| 581 | 7 | وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (فلق: 4) | 56 |
| | | یہود کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید جادو کرنا۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 57 | کیا نبی پر جادو ہو جاتا ہے اور کیسا ہوتا ہے؟ | 7 | 582 |
| | رد نصرائیت | | |
| 58 | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ حق واضح ہونے کے بعد باطل پہ ڈٹنے والے مستشرقین۔ | 1 | 141 |
| 59 | إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۗ (آل عمران: 59) الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید۔ | 2 | 73 |
| 60 | قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ (آل عمران: 64) اہل کتاب کو نقطہ توحید پر اکٹھے ہونے کی دعوت۔ | 2 | 78 |
| 61 | انجیل میں توحید کا بیان۔ | 2 | 79 |
| 62 | يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ --- وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً (سآء: 171) الوہیت عیسیٰ علیہ السلام اور تثلیث الوہیت کا رد۔ | 2 | 493 |
| 63 | وَرُوحٌ مِّنْهُ سَے نصاریٰ کا غلط استدلال۔ | 2 | 494 |
| 64 | یہود و نصاریٰ کے مابین عداوت دائمی ہے۔ | 2 | 545 |
| 65 | قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ (مائدہ: 17) الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید۔ | 2 | 555 |
| 66 | نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۗ (مائدہ: 18) یہود و نصاریٰ کا خود کو اولاد خدا کہنا (معاذ اللہ)۔ | 2 | 556 |
| 67 | لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ (مائدہ: 72) عیسائیوں کے مشرکانہ عقائد کا رد۔ | 2 | 620 |
| 68 | انجیل میں درس توحید۔ | 2 | 620 |
| 69 | لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۗ (مائدہ: 73) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اور دعاؤں کا حال۔ | 2 | 621 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 626 | 2 | وَلتَّجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ^١ (مانندہ: 82) | 70 |
| | | مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والے نصاریٰ ہیں۔ | |
| | | مشرکین اور کافرین کا رد | |
| 12 | 2 | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ (آل عمران: 10) | 71 |
| | | کفار کے لیے دنیوی و اخروی عذاب۔ | |
| 219 | 2 | وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ^٢ (آل عمران: 176) | 72 |
| | | کفار و منافقین کے بارے میں خدائی تہدید۔ | |
| 337 | 2 | إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (نساء: 48) | 73 |
| | | کفر پہ مرنے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ | |
| 190 | 1 | وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ^٣ (بقرہ: 39) | 74 |
| | | کفار ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں ان پر جنت حرام ہے۔ | |
| 432 | 2 | إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ (نساء: 116) | 75 |
| | | کافر کو ہمیشہ دوزخ کی سزا کیوں ہوگی؟ اس کا فلسفہ۔ | |
| 433 | 2 | | 76 |
| | | کسی کافر کے لیے دعاء مغفرت جائز نہیں ہے۔ | |
| 527 | 2 | وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ^٤ (مانندہ: 5) | 77 |
| | | جو ایمان کے بعد کافر ہوا اسکے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ | |
| 577 | 2 | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (مانندہ: 36) | 78 |
| | | کافر جہنم میں چاہے گا کہ اگر اسکے پاس ساری زمین کے برابر سونا ہو تو اسے دے کر جہنم سے آزادی پالے۔ | |
| 20 | 3 | وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ^٥ (انعام: 23) | 79 |
| | | روز قیامت مشرکین اپنے شرک سے انکار کریں گے (تب انکے اعضاء انکے خلاف گواہی دیں گے)۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 80 | وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ (انعام: 27) جب کفار کو دوزخ پر پیش کیا جائے گا تو انکی حسرت دردناک ہوگی۔ | 3 | 23 |
| 81 | وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ۗ (انعام: 31) روز قیامت کفار اپنے کفر کو بڑی صورت میں اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے اور مومنین اپنے ایمان کو خوبصورت شکل میں۔ | 3 | 25 |
| 82 | روز قیامت گناہوں کا بوجھ اٹھانا کافروں کی پہچان ہوگی مومنوں کی نہیں۔ | 3 | 25 |
| 83 | فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ (انعام: 41) اللہ رب العزت کافروں کی بعض دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ | 3 | 33 |
| 84 | فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (انعام: 45) دشمن دین کے مرنے پر خوشی کرنی چاہیے۔ | 3 | 35 |
| 85 | وَإِنْ تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ (انعام: 70) کافر کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ | 3 | 61 |
| 86 | وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ (انعام: 100) ہر بت کے ساتھ ایک شیطان چمٹا ہوتا ہے۔ | 3 | 90 |
| 87 | وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ (انعام: 100) اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کی برائی۔ | 3 | 90 |
| 88 | لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا (انعام: 148) کفار کا کہنا اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے؟ | 3 | 128 |
| 89 | لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (اعراف: 40) ایک کافر پر مرنے کے بعد کیا گزرتی ہے؟ | 3 | 180 |
| 90 | أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضْلًا ۗ (اعراف: 179) کفار کس طرح جانوروں جیسے یا ان سے بدتر ہیں۔ | 3 | 288 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 91 | أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ (براءت: 17) کافر کی موت پر اسکے لیے نماز جنازہ و دعاء و استغفار جائز نہیں۔ | 3 | 406 |
| 92 | إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (براءت: 37) اہل عرب جس مہینے کو چاہتے تھے کہ مہینہ قرار دیتے تھے، اسے کفر قرار دیا گیا۔ | 3 | 430 |
| 93 | وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَابَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ (براءت: 84) کفر پر مرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں نہ اسکی قبر پر کھڑا ہونا جائز ہے۔ | 3 | 483 |
| 94 | إِنَّهُمْ رَجَسٌ ۚ وَمَا أُولَئِكَ بِمُعْتَدِلِينَ ۗ (براءت: 95) کفار عقیدہ گندے ہیں، ان کی گندگی سے بچنا ضروری ہے۔ | 3 | 490 |
| 95 | مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ (براءت: 113) کافر رشتہ داروں کے مرنے پر انکے لیے دعاء و استغفار کی ممانعت۔ | 3 | 511 |
| 96 | تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (آل عمران: 64) کفار کو تبلیغ دین کے لیے حکیمانہ دعوت کی ضرورت۔ | 2 | 79 |
| 97 | مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ ۖ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ (یونس: 28) روز قیامت مشرکین اور انکے بتوں کے درمیان لا تعلق و بے زاری۔ | 3 | 556 |
| 98 | وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ (یونس: 54) جہنم میں کافر چاہے گا کہ اگر ساری زمین کے خزانے اس کے پاس ہوں تو انہیں دے کر جان چھڑائے مگر نہیں چھوٹے گی۔ | 3 | 568 |
| 99 | وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ (رعد: 18) کافر اگر بالفرض تمام زمین کے خزانے اور اتنے مزید دے تو بھی جہنم سے آزاد نہ ہو سکے گا۔ | 4 | 110 |
| 100 | مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ (ابراہیم: 18) کفار کو انکی کوئی نیکی فائدہ نہ دے گی۔ | 4 | 145 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 101 | اِنِّیْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُنَّوْنَ مِنْ قَبْلُ (ابراہیم: 22) روزِ قیامت کفار سے شیطان کی شرمناک بے وفائی۔ | 4 | 148 |
| 102 | فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (نحل: 85) کفار کو عذاب جہنم سے کبھی کوئی خفیف نہیں ملے گی۔ | 4 | 265 |
| 103 | قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا --- يَفْتَرُوْنَ (نحل: 86، 87) مشرکین اور انکے جھوٹے خداؤں کا قیامت میں باہمی جھگڑا۔ | 4 | 265 |
| 104 | وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَ خَرًّا مِّنَ السَّمَاۗءِ (حج: 31) روزِ قیامت کفار اور انکے جھوٹے خداؤں کے درمیان جدائی۔ | 4 | 668 |
| 105 | وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَا مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ؕ اَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ عِبَادِیْ هٰؤُلَاءِ (فرقان: 17) روزِ قیامت کفار اور انکے جھوٹے خداؤں کے درمیان جدائی۔ | 5 | 143 |
| 106 | ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (سورۃ محمد: 34) کفر پہ مرنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ | 6 | 448 |
| 107 | وَ اِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ (مجادلہ: 8) کیا کفار کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ | 7 | 9 |
| 108 | لَوْ كُنَّا نَسْعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ (۱۰) فَاَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ (ملک: 10) کفار کو جہنم میں اپنے عذاب پر کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ | 7 | 161 |
| 109 | وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَرْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ (مرسلات: 48) کفار کو فروغ دین کے ترک کا بھی عذاب ہوگا۔ | 7 | 299 |
| 110 | لَبِثُوْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا (نبا: 23) جہنم میں کفار کے طویل ابدی قیام کا دردناک ذکر۔ | 7 | 307 |
| 111 | اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا (۱۱) وَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (نبا: 27، 28) جہنم کے ذلت آمیز عذابات صرف کفار کے لیے ہیں۔ | 7 | 307 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 638 | 4 | انکُم و مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ۗ (انبیاء: 98) مشرکین اور انکے معبودانِ باطلہ اکٹھے جہنم میں جائیں گے۔ | 112 |
| 39 | 5 | فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۗ (مومنون: 101) روزِ قیامت کے انساب کٹ جائیں گے (مومنین کے باقی رہیں گے)۔ | 113 |
| 99 | 4 | وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ (نور: 39) کفار کے اعمال کی بربادی کا حسرتناک منظر دو مثالوں سے۔ | 114 |

دلائل ختم نبوت اور قادیانیت

- ✽ عمومیت رسالتِ محمدیہ اور ختم نبوت۔
- ✽ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطاع مطلق اور ختم نبوت۔
- ✽ امتِ محمدیہ کے لیے ایک ہی رسول کا ہونا اور ختم نبوت۔
- ✽ امتِ محمدیہ کے لیے ایک ہی داعی اور نذیر کا آنا اور ختم نبوت۔
- ✽ امتِ محمدیہ کا آخری امت ہونا اور ختم نبوت۔
- ✽ انقطاع وحی اور ختم نبوت۔
- ✽ تکمیل دین اور ختم نبوت۔
- ✽ آیت خاتم النبیین۔
- ✽ رد اجراء وحی۔
- ✽ رد انکار نسخ۔
- ✽ رد نسخ جہاد۔
- ✽ منکرین ختم نبوت کی سزا۔
- ✽ قرآن میں قادیانیوں کی تحریفات۔
- ✽ مرزا قادیانی کی گستاخیاں بدرگاہ رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حدیث نبوی۔
- ✽ مرزا قادیانی کی بدخواہی اہل اسلام اور خیر خواہی کفار۔
- ✽ مرزا قادیانی کا کردار اور قرآن مجید کی نظر میں نبوت کا عالی معیار۔
- ✽ مثلیت مسیح کا رد۔
- ✽ حیات عیسیٰ علیہ السلام۔

دلائل ختم نبوت

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | نبی اکرم ﷺ کی رسالت عامہ اور ختم نبوت | | |
| 1 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (بقرہ: 21) | 1 | 160 |
| | رسول اللہ ﷺ کا پیغام ساری نسل انسانی کے لیے ہے یہی دلیل ختم نبوت ہے۔ | | |
| 2 | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ (بقرہ: 185) | 1 | 406 |
| | نبوت محمدیہ کی عالمگیری اور ختم نبوت۔ | | |
| 3 | هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ (آل عمران: 138) | 2 | 160 |
| | قرآن کا بیان تمام نسل انسانی کے لیے ہے۔ تو قیامت تک آپ ہی رسول ہیں۔ | | |
| 4 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ (نساء: 1) | 2 | 244 |
| | نبی اکرم ﷺ ہی پوری نسل انسانی کے رسول ہیں۔ | | |
| 5 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ (نساء: 170) | 2 | 491 |
| | نبوت محمدیہ کی عالم گیری اور ختم نبوت۔ | | |
| 6 | لَا نُذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ (انعام: 19) | 3 | 18 |
| | جس انسان تک پیغام قرآن و پیغام دین پہنچے اسکے لیے حضور سید کائنات ﷺ ہی رسول ہیں۔ | | |
| 7 | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (براءت: 128) | 3 | 529 |
| | رسالت محمدیہ ساری نسل انسانی کے لیے عام ہے لہذا کسی اور نبی کی ضرورت نہیں۔ | | |
| 8 | ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ (يونس: 14) | 3 | 544 |
| | امت محمدیہ کو آخری امت قرار دیا گیا یہ دلیل اشارۃ ختم نبوت ہے حدیث سے۔ | | |
| 9 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ (يونس: 57) | 3 | 571 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 9 | رسالتِ محمدیہ عالمگیر ہے اور تاقیامت ہے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ | 3 | 571 |
| 10 | وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (هود: 17) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص مدارِ نجات نہیں بن سکتا۔ | 3 | 619 |
| 11 | إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۴﴾ (یوسف: 104) نبوتِ محمدیہ تمام نسل انسانی کے لیے ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ | 4 | 85 |
| 12 | إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿۷﴾ (عد: 7) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے لیے تاقیامت ہادی ہیں تو کسی قوم میں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ | 4 | 96 |
| 13 | لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿۱﴾ (ابراہیم: 1) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانی کے لیے رسول ہیں لہذا کسی انسان کو کسی نئے نبی کی حاجت نہیں۔ | 4 | 132 |
| 14 | هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ (ابراہیم: 52) قرآن رہتی دنیا تک تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ | 4 | 168 |
| 15 | تو صاحب قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تاقیامت ہے اب کسی نئی کتاب یا رسول کی ضرورت نہیں۔ | 4 | 168 |
| 16 | أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴿۱﴾ (حل: 1) قربِ قیامت اور ختمِ نبوت۔ | 4 | 208 |
| 17 | ذُرِّيَّةً مِنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴿۳﴾ (بنی اسرائیل: 3) اس آیت میں تمام نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے جو عمومیتِ رسالتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دال ہے لہذا کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ | 4 | 320 |
| 18 | اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴿۱﴾ (انبیاء: 1) قربِ قیامت اس معنی میں ہے کہ اب نیا نبی نہیں آئے گا حدیث سے۔ | 4 | 590 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 19 | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾ (انبیاء: 107) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں خود مرزا قادیانی ابتداء میں اس آیت سے ختم نبوت کا اثبات کرنا تھا۔ | 4 | 643 |
| 20 | يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمۡ ۗ (حج: 1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانی کے رسول ہیں اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ | 4 | 649 |
| 21 | تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ﴿۱﴾ (فرقان: 1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے رسول ہیں لہذا کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں۔ | 5 | 134 |
| 22 | وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿۵۱﴾ (فرقان: 51) یعنی اب ہر بستی کے لیے الگ رسول نہیں آئے گا بلکہ تمام بستیوں کے لیے ایک ہی رسول بھیج دیا گیا ہے۔ | 5 | 159 |
| 23 | يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ ﴿۶۶﴾ (احزاب: 66) اب تاقیامت ایک ہی رسول ہے۔ | 5 | 577 |
| 24 | وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا (سبا: 28) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ آپ کی شان ختم نبوت پر دل ہے۔ | 5 | 603 |
| رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطاع مطلق اور ختم نبوت | | | |
| | قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۗ (آل عمران: 32) اللہ تعالیٰ کے بعد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مطاع مطلق ہیں یہ دلیل ختم نبوت ہے۔ | 2 | 40 |
| 25 | وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ (آل عمران: 132) ایک ہی رسول کی اطاعت لازم کی گئی ہے اس سے زائد نہیں۔ | 2 | 154 |
| 26 | مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ (نساء: 13) وَمَنْ يُعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَ الَّذِيْنَ يُدْخِلُوْنَ فِي النَّارِ (نساء: 14) صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جنت وابستہ کی گئی ہے اور آپ کی نافرمانی کو جہنم | 2 | 269 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 269 | 2 | کے دائمی عذاب کا سبب بتایا گیا ہے۔ | 26 |
| 348 | 2 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: 59) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اولی الامر ہیں، رسول کوئی نہیں۔ | 27 |
| 354 | 2 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نساء: 64) اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول مانا جائے تو پھر مطاع کون ہوگا آپ یا وہ؟ | 28 |
| 365 | 2 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (نساء: 70) | 29 |
| 381 | 2 | مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نساء: 80) صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الرسول ہیں اور آپ ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی ضمانت ہے۔ | 30 |
| 646 | 2 | وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (مائدہ: 92) | 31 |
| 315 | 3 | وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (انفال: 1) | 32 |
| 332 | 3 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (انفال: 20/46) | 33 |
| 105 | 5 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (نور: 52) | 34 |
| 105 | 5 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نور: 54) ان تمام آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کو مدارِ نجات بنایا گیا ہے اب کوئی اور مدارِ نجات نہیں بن سکتا۔ | 35 |
| 580 | 5 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب: 71) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ کسی اور کی اطاعت کو لازم نہیں کیا جاسکتا۔ | 36 |
| 577 | 5 | لِيُتِنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (احزاب: 66) صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر کفار کو قیامت میں حسرت ہوگی وہاں کسی اور رسول کی اطاعت کا ذکر نہ ہوگا۔ | 37 |
| 447 | 6 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (محمد: 33) | 38 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | امت محمدیہ کے لیے صرف ایسا ہی رسول کا ہونا اور ختم نبوت | | |
| 39 | وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ (آل عمران: 86) امت محمدیہ کے لیے ایک ہی رسول ہے جس کی رسالت پر گواہی لازم ہے۔ | 2 | 107 |
| 40 | وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ (نساء: 115) گویا اس امت کے لیے ایک ہی رسول ہے رسل نہیں ہیں۔ | 2 | 430 |
| 41 | أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (نساء: 136) اس امت کو ایک ہی رسول پہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ | 2 | 453 |
| 42 | مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (مائدہ: 99) اس امت کے لیے ایک ہی رسول کے ذمے ابلاغ رکھا گیا ہے۔ | 2 | 653 |
| 43 | قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (انفال: 1) قیامت تک جو انفال (غنائم) آئیں گے وہ ایک ہی رسول کے لیے ہیں۔ | 3 | 314 |
| 44 | وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ (براءت: 62) قیامت تک رسول اللہ ﷺ کی رضا طلب کی گئی ہے۔ | 3 | 458 |
| 45 | مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (براءت: 63) ایک ہی رسول کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے۔ | 3 | 459 |
| 46 | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ (براءت: 128) ایک ہی رسول اس امت کا حق ہے جو ساری امت کی بخشش کا حریص اور انکے لیے رؤف و رحیم ہے۔ | 3 | 529 |
| 47 | إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (نور: 51) | 5 | 105 |
| 48 | إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (احزاب: 36) يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ | 5 | 514 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 48 | ایک ہی رسول کا حکم نافذ ہے اسی کی نافرمانی گمراہی ہے۔ | 5 | 514 |
| 49 | قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ لَمَجْمُوعُونَ ۗ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۵۰﴾ (واقفہ: 49، 50) | 6 | 666 |
| 50 | أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (حدید: 7) معلوم ہوا مخاطبین قرآن کے لیے ایک ہی رسول ہے۔ | 6 | 682 |
| 51 | وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ (حدید: 28) اس امت کے لیے ایک ہی رسول ہے۔ | 6 | 710 |
| 52 | ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ (مجادلہ: 4) جن کے لیے قرآن اُتر ہے ان کے لیے ایک ہی رسول ہے۔ | 7 | 6 |
| 53 | وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۗ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ (حشر: 7) معلوم ہوا اس امت کا ایک ہی رسول ہے اور اس کی اطاعت مطلقہ ہے۔ | 7 | 37 |
| 54 | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ (صف: 9) اس امت کا ایک ہی رسول ہے اور اسی کے ذریعہ غلبہ دین کا وعدہ ہے۔ | 7 | 80 |
| 55 | تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (صف: 11) ایک ہی رسول پر ایمان لانے کا حکم ہے اور اسی کی اطاعت سے نجات وابستہ ہے۔ | 7 | 83 |
| 56 | وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۗ (جمہ: 3) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بعد والی امت کے بھی رسول ہیں۔ | 7 | 88 |
| 57 | فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۗ (تغابن: 8) ایک ہی رسول پر ایمان لانے کا حکم ہے اور اسی کا نور مانے بغیر نجات نہیں، تو یہ آخری نبی اور آخری نور ہے۔ | 7 | 116 |
| 58 | وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۗ (تغابن: 12) ایک ہی رسول کی اطاعت کا حکم ہے اور اسی کے ذمے ابلاغ ہے۔ | 7 | 118 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 59 | وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ (جن: 23) اس امت کے لیے ایک ہی رسول ہے اور اس کی نافرمانی میں ابدی جہنم ہے۔ | 7 | 237 |
| امتِ محمدیہ کے لیے ایسی داعی اور نذیر کا آنا اور ختم نبوت | | | |
| 60 | إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا (آل عمران: 193) گویا اس امت کے لیے ایک ہی داعی ہے۔ | 2 | 235 |
| 61 | وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ (حجر: 89) اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نذیر ہیں اب کوئی نیا نذیر نہیں آسکتا۔ | 4 | 203 |
| 62 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ (حج: 49) حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاقیامت نذیر ہیں اب اور کوئی نذیر نہیں آئے گا۔ | 4 | 682 |
| 63 | أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ (احقاف: 31) صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاقیامت داعی ہیں کوئی نیا داعی نہیں آئے گا۔ | 6 | 422 |
| 64 | لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (يس: 70) ساری روئے زمین پر جو بھی زندہ انسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نذیر ہیں لہذا کسی اور نذیر کی ضرورت نہیں۔ | 6 | 30 |
| 65 | لِيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا (شوری: 7) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت اور ختم نبوت۔ | 6 | 269 |
| 66 | أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ (احقاف: 31) اس امت کا ایک ہی داعی ہے اسی کی اطاعت سے نجات وابستہ ہے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات جنات بھی سمجھ گئے۔ | 6 | 422 |
| امتِ محمدیہ کا آخری امت ہونا اور ختم نبوت | | | |
| 67 | ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ (يونس: 14) | 3 | 544 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--------------------------------|--|-----|-----------|
| 67 | امت محمدیہ کو آخری امت قرار دیا گیا ہے، جب امت آخری ہے تو نبی بھی آخری ہے۔ | 3 | 544 |
| 68 | وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ خَلْفًا (انعام: 165) | 3 | 142 |
| 69 | هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِي الْاَرْضِ ط (فاطر: 39) امت محمدیہ کو تمام امتوں کی جانشین قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس کا نبی بھی سب انبیاء کا جانشین ہے۔ یہ دلیل ختم نبوت ہے۔ | 5 | 642 |
| انقطاع وحی اور ختم نبوت | | | |
| 70 | وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ (سآء: 162) معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں ہے یہ دلیل ختم نبوت ہے۔ | 2 | 484 |
| 71 | وَلَقَدْ اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ؕ (زمر: 65) | 6 | 159 |
| 72 | وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ؕ (مائدہ: 59) | 2 | 607 |
| 73 | كَذٰلِكَ يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ؕ (شوری: 3) | 6 | 265 |
| تکمیل دین اور ختم نبوت | | | |
| 74 | الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَثْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ (مائدہ: 3) تکمیل ایمان اور ختم نبوت۔ | 2 | 515 |
| 75 | تکمیل شریعت اور ختم نبوت۔ | 2 | 516 |
| 76 | تکمیل اخلاق ختم نبوت۔ | 2 | 516 |
| 77 | الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ كى اہمیت۔ | 2 | 516 |
| آیت خاتم النبیین | | | |
| 78 | مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَاَلَيْسَ اللهُ وَاخَاتَمَ النَّبِيِّنَ (احزاب: 40) آبا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ اس لیے کہا گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بالغ | 5 | 520 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 520 | 5 | نہیں ہوا یہ اس لیے تھا اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ کے بعد موجود ہوتا تو ممکن تھا کچھ لوگ اسے نبی بنا لیتے۔ | 78 |
| 521 | 5 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بیٹا بھی امتی نبی نہیں بن سکتا۔ | 79 |
| 521 | 5 | معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریحی و غیر تشریحی ہر طرح کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ | 80 |
| 522 | 5 | لفظ خاتم النبیین کی معنوی تحریف کا جواب۔ | 81 |
| 523 | 5 | خود مرزا قادیانی کی زبانی خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ | 82 |
| 523 | 5 | لفظ خاتم النبیین میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ | 83 |
| 524 | 5 | خاتم النبیین کی دونوں قراءات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ | 84 |
| 524 | 5 | ختم نبوت بعض آیات قرآن کی روشنی میں۔ | 85 |
| 526 | 5 | ختم نبوت احادیث صحیحہ مشہورہ کی روشنی میں۔ | 86 |
| 528 | 5 | ختم نبوت اور اجماع امت۔ | 87 |
| 529 | 5 | ختم نبوت اور عقل و استدلال۔ | 88 |
| 530 | 5 | ختم نبوت کا اثبات خود مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریرات سے۔ | 89 |
| 532 | 5 | ختم نبوت پر مرزائیوں کے چند شبہات کا ازالہ۔ | 90 |
| 534 | 5 | قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً کی فنی حیثیت۔ | 91 |
| 535 | 5 | قول ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تقولوا لا نبی بعدہ کی وضاحت۔ | 92 |
| 536 | 5 | کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے منافی ہے؟ | 93 |
| 538 | 5 | مرزا غلام قادیانی کے چند کفریات۔ | 94 |
| 538 | 5 | اللہ تعالیٰ کے بارے میں مرزا قادیانی کی گستاخیاں۔ | 95 |
| 538 | 5 | تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں گستاخیاں۔ | 96 |
| 539 | 5 | حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین۔ | 97 |
| 539 | 5 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید توہین۔ | 98 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 99 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں۔ | 5 | 540 |
| 100 | قرآن کریم کی توہین۔ | 5 | 540 |
| 101 | حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ | 5 | 540 |
| | ردِ قادیانیت ردِ اجراءِ وحی | | |
| 102 | بِسَاءِ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ (بقرہ: 4) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا انقطاع۔ | 1 | 137 |
| 103 | انقطاع وحی قرآن کی روشنی میں۔ | 1 | 138 |
| 104 | انقطاع وحی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ | 1 | 138 |
| 105 | انقطاع وحی اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ | 1 | 139 |
| 106 | انقطاع وحی خود مرزا غلام احمد قادیانی کی زبانی۔ | 1 | 139 |
| 107 | مرزا قادیانی کا بعد میں حصولِ وحی پر بلند و بانگ دعویٰ۔ | 1 | 140 |
| 108 | وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ (مائدہ: 59) یعنی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری یا آپ سے پہلے۔ | 2 | 607 |
| 109 | وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ (زمر: 65) وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اور آپ سے قبل وحی کا نزول ہوا۔ | 6 | 159 |
| 110 | كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ اللَّهُ (شوری: 3) خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے۔ | 6 | 265 |
| 111 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ (نحل: 43) | 4 | 231 |
| 112 | وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ (انبیاء: 7) | 4 | 592 |
| | ردِ انکارِ نسخ | | |
| 113 | مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ (بقرہ: 106) | 1 | 284 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 284 | 1 | نسخ کی تین اقسام۔ | 113 |
| 285 | 1 | نسخ کے اعتبار سے نسخ کی چار صورتیں۔ | 114 |
| 285 | 1 | نسخ کی حکمتیں۔ | 115 |
| 286 | 1 | نسخ صرف دو ربوی میں ہو سکتا تھا۔ | 116 |
| 286 | 1 | قرآن میں نسخ کے وجود سے انکار کفر ہے۔ | 117 |
| 287 | 1 | منکرین نسخ کے ایک اعتراض کا جواب۔ | 118 |
| 344 | 1 | وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا (بقرہ: 143) اسلام میں نسخ کا ثبوت۔ | 119 |
| 392 | 1 | إِلْوَصِيَّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ (بقرہ: 179) نسخ کا منکر جاہل ہے۔ | 120 |
| 519 | 1 | مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ (بقرہ: 240) قرآن میں نسخ کا ثبوت (بیوی کی عدت سال سے چار ماہ دس دن کی گئی)۔ | 121 |
| | | أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (نساء: 15) | 122 |
| 275 | 4 | وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ (نحل: 101) قرآن میں نسخ سے انکار قرآن سے انکار ہے۔ | 123 |
| 384 | 7 | سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى (اعلى: 6) معلوم ہوا نسخ تلاوت خود قرآن سے ثابت ہے۔ اور اسکی وضاحت حدیث سے، مرزائیوں کا اسے نہ ماننا ہٹ دھرمی ہے۔ | 124 |
| | | مرزا قادیانی کا دعویٰ کہ اب تلوار سے جہاد ختم ہو گیا ہے اور اسکا رد | |
| 426 | 1 | وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 190) جہاد اقدامی کو حرام کہنے کی دلیل کا رد۔ | 125 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 126 | مومن اسلحہ و تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد پر بھروسہ رکھتا ہے۔ | 1 | 428 |
| 127 | وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً (بقرہ: 193) جہاد تا قیامت جاری ہے اسکا منکر کافر ہے۔ | 1 | 430 |
| 128 | وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 244) جہاد تا قیامت جاری ہے۔ | 1 | 522 |
| 129 | قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ (بقرہ: 251) انبیاء کا کفار سے جہاد اور مرزا قادیانی کی غلامی کفار۔ | 1 | 537 |
| 130 | حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (انفال: 65) تا قیامت جہاد کا حکم ہے اسکا منکر کافر ہے۔ | 3 | 376 |
| 131 | وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (انفال: 39) مکمل غلبہ اسلام تک جہاد جاری رہے گا اسکا منکر کافر ہے۔ | 3 | 348 |
| 132 | قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾ (براءت: 29) مکمل غلبہ اسلام تک جہاد جاری ہے۔ | 3 | 418 |
| 133 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ (تحریم: 9) جہاد کا حکم تا قیامت ہے اسکی منسوخیت کا اعلان کرنے والا کافر ہے۔ | 7 | 153 |
| | تفسیر سورہ نساء و آخری سزا | | |
| 134 | مَنْ يَزِدْكَ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفْرَيْنِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مائدہ: 54) اس آیت میں منکرین ختم نبوت کو مرتد قرار دے کر انکے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا۔ | 2 | 601 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 20 | 3 | وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (انعام: 21) خود کو اللہ کا نبی کہنے کا جھوٹا دعویٰ اللہ رب العزت پر سب سے بڑا افتراء ہے۔ | 135 |
| 80 | 3 | أَوْ قَالَ أُوْحَىٰ إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ (انعام: 93) جھوٹی نبوت کا مدعی سب سے بڑا ظالم ہے۔ | 136 |
| 81 | 3 | وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ (انعام: 93) جھوٹی وحی کا افتراء کرنے والوں کی ذلت آمیز دردناک موت۔ | 137 |
| 81 | 3 | مرزا غلام احمد قادیانی کی عبرت ناک موت۔ | 138 |
| 81 | 3 | دوستان خدا کی موت اور دشمنان خدا کی موت۔ | 139 |
| 162 | 3 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا صرف شکل میں انسان ہے۔ | 140 |
| 178 | 3 | فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (اعراف: 37) ادعائے نبوت اللہ رب العزت پر سب سے بڑا افتراء ہے۔ | 141 |
| 547 | 3 | فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ المُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ (یونس: 17) جھوٹے دعویٰ داران نبوت کا میاں نہیں پاسکتے اور مرزا قادیانی کی ذلت۔ | 142 |
| 469 | 6 | تُقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُوا ۗ (فتح: 16) مکرمین ختم نبوت سے جہاد فرض ہے تاکہ وہ اسلام لے آئیں یعنی انکی سزا قتل ہے جو مرتد کی سزا ہے۔ | 143 |
| 201 | 7 | وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ (الحاقة: 44-46) جو شخص اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اللہ اسکی شرگ کاٹ کر رکھ دیتا ہے یعنی اسکی عزت خاک میں ملا دیتا اور اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ | 144 |
| 201 | 7 | مرزا قادیانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید رسوائی۔ | 145 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | قرآن میں قادیانی تحریفات | | |
| 146 | أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ (نساء: 69) اس آیت سے اجراء نبوت ثابت کرنے کی ناکام کوشش۔ | 2 | 368 |
| 147 | إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ (اعراف: 35) اس آیت سے اجراء نبوت ثابت کرنے کی قادیانی کوشش کا جواب۔ | 3 | 175 |
| 148 | لِنَارِ كُوْنِي بَرُودًا وَسَلْمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ (انبیاء: 69) مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا غلام احمد کی طرف اس آیت کی ملحدانہ تاویل۔ | 4 | 621 |
| 149 | بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ (نساء: 158) اس آیت میں مرزا قادیانی کی ملحدانہ تاویل کا جواب۔ | 2 | 475 |
| 150 | وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۗ (انبیاء: 79) مرزا بشیر الدین محمود کا اس آیت کی ملحدانہ تاویل کرنا معجزہ داؤدی سے انکار۔ | 4 | 627 |
| 151 | وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ (مائدہ: 110) مرزا غلام احمد قادیانی کا معجزات عیسیٰ علیہ السلام سے انکار۔ | 2 | 667 |
| 152 | لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ ۗ (انبیاء: 81) اس آیت میں مرزا بشیر الدین محمود کی ملحدانہ تاویل معجزہ سلیمانی سے انکار۔ | 4 | 629 |
| 153 | وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۗ (جمہ: 3) اس آیت کے معنی میں مرزا قادیانی کی تحریف۔ | 7 | 88 |
| | گستاخی اللہ رب العالمین | | |
| 154 | نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۗ (مائدہ: 18) خود کو اللہ کی اولاد کہنا کفر ہے۔ | 2 | 557 |
| 155 | مرزا قادیانی کا جھوٹا الہام اللہ نے کہا انت منی بمنزلہ اولادی۔ | 2 | 557 |
| | گستاخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 156 | مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ (تخ: 29) | 6 | 491 |
| | مرزا قادیانی کا کہنا کہ اس آیت میں اسے محمد رسول اللہ کہا گیا ہے۔ | | |
| 157 | وَأَخْرَيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (جمہ: 3) | 7 | 88 |
| | اس آیت کے تحت مرزا قادیانی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دینا۔ | | |
| گستاخی انبیاء کرام علیہم السلام | | | |
| 158 | وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتِ (بقرہ: 253) | 1 | 543 |
| | مرزا قادیانی کا معجزات عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کفر ہے۔ | | |
| 159 | وَسَيِّدًا وَحَصُورًا (آل عمران: 39) | 2 | 50 |
| | لفظ حضور کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا قادیانی کی شدید گستاخی۔ | | |
| 160 | وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ (آل عمران: 49) | 2 | 62 |
| | مرزا قادیانی کا معجزات عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کرنا۔ | | |
| 161 | وَمَا أَوْتِيَتْهُمُ أُورُشَلِيمَ (آل عمران: 84) | 2 | 104 |
| | مرزا قادیانی کا معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو مکرو فریب کہنا۔ | | |
| 162 | لَمْ أَكُنْ لِسُجْدٍ لِّبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ (حجر: 33) | 4 | 187 |
| | شیطان ایک نبی کی گستاخی سے ملعون ہوا اور مرزا قادیانی نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کی کہ خود کو سب انبیاء سے افضل کہا۔ | | |
| 163 | وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ (مریم: 21) | 4 | 483 |
| | مرزا قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ ولادت کو نشان قدرت نہ ماننا اور انکی ولادت کو کیڑوں مکوڑوں کی پیدائش سے تشبیہ دینا۔ | | |
| 164 | مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا کہ چنگیز خان بھی بغیر باپ ایک نور سے پیدا ہوا تھا۔ | 4 | 483 |
| 165 | مرزا قادیانی فضائل عیسیٰ علیہ السلام سے کیوں انکار کرتا تھا؟ | 4 | 484 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 166 | اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴿٥٢﴾ (زخرف: 52) فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود سے پست کہہ کر کفر کیا اور مرزا قادیانی نے کہا عیسیٰ کی کیا ہمت کہ میرے منبر پر قدم رکھے۔ | 6 | 333 |
| | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی | | |
| 167 | مرزا قادیانی نے کہا: فمن دخل في جماعتي دخل في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم | 6 | 492 |
| | حدیث نبوی کی گستاخی | | |
| 168 | وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهٖ فَسَيَقُولُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿١١﴾ (احقاف: 11) اس آیت کے تحت یہ بیان کہ مرزا قادیانی نے کہا جو حدیث میری وحی کے خلاف ہو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ | 6 | 403 |
| | مرزا قادیانی کا ملت اسلامیہ کی بُرائی چاہنا اور کفار کی خیر خواہی کرنا | | |
| 169 | بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اٰهْلِيْهِمْ اَبَدًا ﴿١٢﴾ (فتح: 12) سفر حدیبیہ کے موقع پر منافقین کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کبھی زندہ سلامت واپس نہ آئیں (معاذ اللہ) یہی تمنا مرزا قادیانی کی تھی کہ ساری دنیا پر انگریز کی حکومت قائم ہوتا کہ اسکا مذہب ساری دنیا پر پھیلے۔ | 6 | 466 |
| 170 | اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمُ ﴿٥٠﴾ (براءت: 50) معلوم ہوا ملت اسلامیہ کے نقصان کا خواہاں مومن نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے۔ سفر تبوک کے موقع پر منافقین مسلمانوں کی شکست کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ یہی حال مرزا قادیانی اور اسکے پیروکاروں کا ہے۔ | 3 | 445 |
| 171 | اِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمُ ﴿٥٠﴾ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ﴿١٢٠﴾ (آل عمران: 120) مرزائی گروہ مسلمانوں کا بدخواہ ہے انہیں اہم حکومتی عہدوں پر بٹھانا ملت پر ظلم کرنا ہے۔ | 2 | 142 |
| | مرزا قادیانی کا کردار اور نبوت کا عالی معیار | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 607 | 1 | أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (بقرہ: 285) نبی کو اپنی وحی میں تردد نہیں ہو سکتا اور مرزا قادیانی کی ذلت۔ | 172 |
| 195 | 2 | مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلَطَ (آل عمران: 161) نبی خائن نہیں ہو سکتا اور مرزا قادیانی کی بددیانتی۔ | 173 |
| 384 | 2 | وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (نساء: 82) وحی نبی میں تضاد نہیں ہو سکتا اور مرزا قادیانی کے تضادات۔ | 174 |
| 110 | 3 | اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (انعام: 124) نبوت محض وہی منصب ہے۔ مگر مرزا قادیانی کا کہنا کہ اس نے فنا فی الرسول ہو کر نبوت پائی ہے۔ (معاذ اللہ) | 175 |
| 200 | 3 | لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (اعراف: 67) انبیاء کو ذہنی و عقلی عارضہ نہیں ہو سکتا۔ اور مرزا قادیانی کا مراق۔ | 176 |
| 582 | 3 | فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ (يونس: 71) انبیاء کا کفار کے سامنے ڈٹ جانا اور مرزا قادیانی کا کفار کے آگے بچھ جانا۔ | 177 |
| 582 | 3 | مرزا قادیانی کا اعتراف کہ وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ | 178 |
| 639 | 3 | يَقُومُوا لَأَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا (هود: 51) قول ہود ﷺ۔ | 179 |
| 200 | 5 | وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (شعراء: 109) قول نوح ﷺ۔ | 180 |
| 210 | 5 | وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (شعراء: 164) قول لوط ﷺ۔ | 181 |
| 208 | 5 | وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ (شعراء: 145) قول صالح ﷺ۔ | 182 |
| 640 | 3 | انبیاء کرام ﷺ مال جمع نہیں کرتے تھے اور مرزا قادیانی کی نظر ہی مال پر تھی بحوالہ تحریر مرزا قادیانی۔ | 183 |
| 647 | 3 | ذَلِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ (هود: 65) | 184 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 184 | انبیاء کرام علیہم السلام کی پیش گوئیاں جھوٹی نہیں ہوتی تھیں اور مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا حال۔ | 3 | 647 |
| 185 | يُنزِلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (نحل: 2) نبوت محض وہی منصب ہے کسی نہیں۔ اور مرزا کا کہنا کہ اس نے فنا فی الرسول ہو کر نبوت پا لی ہے۔ | 4 | 209 |
| 186 | وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثْبُورًا (بنی اسرائیل: 102) جابر و ظالم دشمنان اسلام کے مقابلہ میں انبیاء کی حق گوئی اور مرزا قادیانی کی طرف سے دین دشمن کفار کی رضا جوئی۔ | 4 | 395 |
| 187 | وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ (انبیاء: 51) | 4 | 613 |
| 188 | وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (مریم: 12) | 4 | 479 |
| 189 | إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ شَاتِنِي الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (مریم: 30) گویا ہر پیغمبر بچپن سے ہدایت پر ہوتا ہے کبھی گمراہ نہیں رہ سکتا۔ | 4 | 487 |
| 190 | جبکہ مرزا قادیانی پہلے کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ آسمان میں زندہ موجود ہیں بعد میں کہا کہ یہ عقیدہ گمراہی ہے اور خلاف قرآن ہے۔ کیا کوئی نبی ایسا آیا ہے جو پہلے گمراہی اور کفر میں مبتلا رہے پھر اسی کے خلاف تبلیغ شروع کر دے؟ | 2 | 477 |
| 191 | فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ (عنکبوت: 24) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تنہا پوری کافر قوم سے ٹکر لینا اور مرزا قادیانی کا زندگی بھر کفار کی غلامی و قصیدہ خوانی کرنا۔ | 5 | 355 |
| 192 | وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (عنکبوت: 27) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہر نبی انہی کی ذریت میں آیا۔ اور مرزا قادیانی کو خود اعتراف ہے کہ وہ فارسی الاصل ہے۔ | 5 | 357 |
| 193 | يَأْتِيَتْ أَفْعَلٌ مَاتُوْ مَرَّةً (صافات: 102) معلوم ہوا نبی کا خواب وحی رحمانی ہوتا ہے و سوسہ شیطانی نہیں ہو سکتا اور مرزا قادیانی کی | 6 | 59 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------------------------|--|-----|-----------|
| 193 | چند شیطانی خوابیں۔ | 6 | 59 |
| 194 | فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ (جن: 26، 27) رسول کو غیب کی خبر اللہ دیتا ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی اور مرزا قادیانی کی ایک پیش گوئی بھی سچی نہ نکلی۔ | 7 | 241 |
| مثلیت مسیح کا رد | | | |
| 195 | اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (آل عمران: 45) مرزا قادیانی کس طرح عیسیٰ ابن مریم کہلا سکتا ہے؟ | 2 | 57 |
| 196 | إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۗ (آل عمران: 42) مرزا قادیانی کیسے مثیل مسیح ہو سکتا ہے کیا اسکی والدہ کی بھی یہی شان ہے جو حضرت سیدہ مریم علیہا السلام کی ہے؟ | 2 | 52 |
| 197 | قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۗ (آل عمران: 47) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر مس بشر پیدا ہوئے کیا مرزا قادیانی ایسے ہی پیدا ہوا کیا اسکا کوئی باپ نہیں؟ | 2 | 59 |
| 198 | وَأُبْرِيئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَ أُنحِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ (آل عمران: 49) کیا مرزا قادیانی سے بھی ایسے ہی معجزے ظاہر ہوتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا نہیں دیتے تھے اور مرزا قادیانی خود مجموعہ امراض تھا۔ | 2 | 61 |
| 199 | رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَ آيَةً مِنْكَ ۗ وَارْزُقْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۗ قَالَ اللَّهُ إِنَّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۗ (مائدہ: 114، 115) کیا مرزا قادیانی کے لیے بھی کوئی ایسا معجزاتی دسترخوان آسمان سے اترتا تھا؟ | 2 | 669 |
| حیات عیسیٰ علیہ السلام | | | |
| 200 | وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا (آل عمران: 46) | 2 | 58 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 200 | حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل (بڑھاپے میں کلام)۔ | 2 | 58 |
| 201 | وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (آل عمران: 48) حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قادیانی شبہ کا جواب۔ | 2 | 60 |
| 202 | وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا لِلَّهِ (آل عمران: 54) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ۔ | 2 | 65 |
| 203 | إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (آل عمران: 55) وفات عیسیٰ علیہ السلام پر مرزائیوں کے غلط استدلال کا رد۔ | 2 | 66 |
| 204 | حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب قول وفات عیسیٰ علیہ السلام کا معنی۔ | 2 | 68 |
| 205 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں موجود ہونا اجماع امت کی روشنی میں۔ | 2 | 69 |
| 206 | خود مرزا قادیانی کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں زندہ موجود ہونا۔ | 2 | 69 |
| 207 | قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: 144) اس آیت سے وفات مسیح کے مرزائی استدلال کا رد۔ | 2 | 167 |
| 208 | بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ (نساء: 158) اس کے معنی میں مرزائی تحریف کا رد۔ | 2 | 475 |
| 209 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کیسے اٹھایا گیا حدیث کی روشنی میں۔ | 2 | 476 |
| 210 | حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ خود مرزا قادیانی کی زبانی۔ | 2 | 477 |
| 211 | مسیح موعود کے حوالے سے مرزا قادیانی کا جھوٹ اور کفر خود اسکی زبانی۔ | 2 | 477 |
| 212 | وَأَنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ (نساء: 159) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دنیا میں آنے پر احادیث صحیحہ صریحہ۔ | 2 | 480 |
| 213 | کیا مرزا قادیانی مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ | 2 | 481 |
| 214 | تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَهْلًا (مائدہ: 110) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ موجود ہونا۔ | 2 | 664 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 215 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا قادیانی کی من گھڑت جھوٹی کہانی۔ | 2 | 665 |
| 216 | فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۗ (مائدہ: 117) لفظ تَوَفَّيْتَنِي میں مرزائیوں کا اشتباہ اور اس کا جواب۔ | 2 | 674 |
| 217 | فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ (اعراف: 25) اس آیت سے حیاتِ مسیح علیہ السلام سے انکار کا رد۔ | 3 | 162 |
| 218 | وَمَا كَانُوا خُلْدِينَ ۝ (انبیاء: 8) اس آیت سے وفاتِ مسیح پر غلط قادیانی استدلال کا جواب۔ | 4 | 594 |
| 219 | وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۗ (انبیاء: 34) اس آیت سے مرزا بشیر الدین محمود کا وفاتِ مسیح پر غلط استدلال۔ | 4 | 606 |
| 220 | وَإِنَّهُ لَعَلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا (زخرف: 61) حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی علامت ہیں اس میں شک جائز نہیں۔ | 6 | 336 |
| 221 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن نشانیوں کے ساتھ نازل ہونگے۔ | 6 | 337 |
| 222 | نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 19 نشانیاں۔ | 6 | 338 |
| 223 | کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نشانی مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے؟ | 6 | 339 |
| اجراء نبوت پر غلط استدلال کا رد | | | |
| 224 | اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ (حج: 75) اس آیت سے اجراء نبوت کے غلط مرزائی استدلال کا جواب۔ | 4 | 698 |
| 225 | يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (مؤمن: 15) اس آیت سے اجراء نبوت پر مرزائیوں کا غلط استدلال۔ | 6 | 181 |
| 226 | یہ آیت بتاتی ہے کہ نبوت وہی صفت ہے، محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ | 6 | 181 |
| 227 | اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ (انعام: 124) اس آیت سے مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کا رد کہ جو فنا فی الرسول ہو جائے وہ ظلی نبوت پالیتا ہے۔ | 3 | 110 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | فتنۃ انکار حدیث (پرویزیت) کا رد | | |
| 228 | رد انکار حدیث (حکڑا لویت) | | |
| 229 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (آل عمران: 32) گویا رسول کا ہر قول خواہش نفس سے پاک اور واجب الاطاعت ہے اور قرآن کے علاوہ حدیث رسول کی بھی ضرورت ہے۔ | 2 | 41 |
| 230 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ (نساء: 13) | 2 | |
| 231 | وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا (نساء: 14) رسول اللہ ﷺ کے ہر قول کی اطاعت اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہے۔ | 2 | 269 |
| 232 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: 59) اللہ اور اسکا رسول دونوں مطاع مطلق ہیں نہ اولی الامر۔ | 2 | 349 |
| 233 | وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ (نساء: 115) رسول اللہ ﷺ کی حدیث کو حجت نہ ماننا بھی مخالفت رسول ہے۔ | 2 | 430 |
| 234 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (انفال: 20) حضور ﷺ ایسے ہی مطاع ہیں جیسے اللہ تعالیٰ۔ | 3 | 323 |
| 235 | مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ (براءت: 63) رسول کے حکم کی نافرمانی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی نافرمانی، دونوں کی سزا جہنم ہے۔ | 3 | 459 |
| 236 | وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (نحل: 44) یہ آیت بتاتی ہے کہ قرآن کی تشریح زبان رسالت ہی سے ہو سکتی ہے۔ | 4 | 233 |
| 237 | وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (نحل: 89) حدیث نبوی کے بغیر قرآن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ | 4 | 267 |
| 238 | قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (آل عمران: 31) | 2 | 41 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 41 | 2 | حدیث رسول کی اتباع کے بغیر محبت الہی کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ | 238 |
| 361 | 2 | فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ (نساء: 65) جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو دل و جان سے نہ مانا جائے ایمان مل ہی نہیں سکتا۔ | 239 |
| 518 | 4 | فَاتَّبَعْنَا بِسُرِّئَةٍ بِلِسَانِكَ (مریم: 97) قرآن کا سمجھنا حدیث کے ذریعے ہی آسان کیا گیا ہے۔ | 240 |
| 107 | 5 | إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (نور: 51) اللہ ورسول دونوں کے لیے ضمیر واحد لی حکم کا لایا جانا اس لیے ہے کہ اللہ ورسول کا حکم ایک ہی حیثیت رکھتا ہے۔ | 241 |
| 107 | 5 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (نور: 52) | 242 |
| 107 | 5 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نور: 54) رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی طرح مطلقاً فرض ہے۔ | 243 |
| 513 | 5 | وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ (احزاب: 36) اللہ کا یا اس کے رسول کا فیصلہ ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ | 244 |
| 370 | 6 | فَاتَّبَعْنَا بِسُرِّئَةٍ بِلِسَانِكَ (دخان: 58) قرآن کا سمجھنا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسان کیا گیا ہے۔ | 245 |
| 428 | 6 | بِنُزُولِ عَلَيِّ مُحَمَّدٍ (سورہ محمد: 2) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لازم ہے، خواہ وہ بصورتِ قرآن ہو یا بصورتِ حدیث۔ | 246 |
| 591 | 6 | وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (نجم: 43) | 247 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 591 | 6 | یعنی حدیث بھی وحی ہے جو غیر متلو ہے۔ | 247 |
| 592 | 6 | کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد فرماتے ہیں اور کیا اس میں غلطی ہو سکتی ہے؟ | 248 |
| 37 | 7 | مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر: 7) | 249 |
| | | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث حجت ہے اور آپ کے ہر حکم کی اطاعت لازم ہے۔ | 250 |
| 118 | 7 | وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ (تغابن: 12) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً فرض ہے۔ | 251 |

ردِ شیعیت

- بارہ اماموں کی امامت منصوصہ کا رد۔
- ردِ ماتم۔
- اذان میں اضافہ کا رد۔
- حقانیتِ خلافتِ خلفاء راشدین۔
- اثباتِ بناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ردِ تقیہ۔
- انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے مالی میراث کا نہ ہونا۔
- صحابہ کرام و اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم کی باہمی محبت و الفت۔
- باغِ فدک کے بارے میں فیصلہ صدیقی کی اصابت۔
- اہل تشیع کی گستاخیاں انبیاء کرام، صحابہ کرام خصوصاً خلفاء راشدین اور امہات المؤمنین کی بارگاہ میں۔
- ذوالجناح پرستی کا رد۔
- وضوء میں پاؤں کے مسح کرنے کا رد۔
- ردِ متعہ۔

بارہ اماموں کی امامت منصوصہ کا رد

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | بارہ اماموں کی امامت منصوصہ | | |
| 1 | وَمَا أَوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ^۱ (بقرہ: 136) | 1 | 334 |
| | صرف انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اماموں پر نہیں۔ | | |
| 2 | أَمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ^۲ (بقرہ: 177) | 1 | 388 |
| | انبیاء کے سوا کسی انسان پر ایمان لانا مدارِ نجات نہیں۔ | | |
| 3 | كُلُّ أَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ^۳ (بقرہ: 285) | 1 | 607 |
| | ایمانیات میں امامت کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ | | |
| 4 | أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ^۴ (آل عمران: 32) | 2 | 41 |
| | کہیں یہ نہیں کہا گیا اطیعوا اللہ والرسول والامام۔ | | |
| 5 | وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا ^۵ (آل عمران: 64) | 2 | 80 |
| | شیعوں کا ائمہ اہل بیت کو مالکِ حرام و حلال جاننا۔ | | |
| 6 | مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ ^۶ (نساء: 13) | 2 | 670 |
| | کہیں نہیں کہا گیا ومن يطع اللہ ورسولہ والامام۔ | | |
| 7 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ^۷ (نساء: 64) | 2 | 354 |
| | مطاع مطلق صرف رسول ہے امام کو اس درجہ پر لیجانا اسے رسول بنانا ہے۔ | | |
| 8 | مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ^۸ (نساء: 80) | 2 | 382 |
| | کہیں نہیں فرمایا گیا من يطع الرسول والامام۔ | | |
| 9 | وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ^۹ (نساء: 136) | 2 | 454 |
| | وَرُسُلِهِ کے بعد کہیں بھی وائمتہ نہیں کہا گیا۔ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 10 | وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (نساء: 152) یہ نہیں فرمایا گیا اور رسولہ و ائمتہ۔ | 2 | 469 |
| 11 | لَعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (نساء: 165) رسولان گرامی ہی اللہ کی قائم کردہ حجت ہیں۔ انکے کوئی بعد حجت نہیں۔ | 2 | 488 |
| 12 | أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي (انعام: 130) یہ نہیں فرمایا گیا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ۔ | 3 | 115 |
| 13 | إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِي (اعراف: 35) رسولان گرامی ہی وہ ہستیاں ہیں جنکی اطاعت پر نجات موقوف ہے۔ | 3 | 176 |
| 14 | رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّحُجْبِ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ (ابراہیم: 44) معلوم ہوا انبیاء ہی وہ ہستیاں ہیں جنکا منکر کافر ہے۔ | 4 | 166 |
| 15 | اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (حج: 75) یہ نہیں فرمایا گیا وائمتہ منہم۔ معلوم ہوا انسانوں میں سے صرف رسولوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا جاتا ہے۔ | 4 | 699 |
| 16 | قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (نور: 54) کہیں نہیں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا الامام۔ | 5 | 107 |
| 17 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (نور: 52) کہیں نہیں فرمایا گیا و من يطع اللہ و رسولہ و الامام۔ کیونکہ اللہ و رسول کے سوا کسی کی مطلق اطاعت فرض نہیں ہے۔ خواہ امام ہو مجتہد ہو یا کوئی اور ہو۔ | 5 | 107 |
| 18 | وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (عنکبوت: 27) قرآن میں کہیں نہیں فرمایا گیا و جعلنا فی ذریتہ النبوة و الامامة۔ | 5 | 375 |
| 19 | پھر اہل تشیع نے ذریت ابراہیمی میں امامت کہاں سے جاری کی ہے؟ | 5 | 358 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 580 | 5 | وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب: 71) معلوم ہوا صرف رسول ہی مطاع مطلق ہے تو وہی معصوم و منصوص ہے کوئی اور نہیں۔ | 20 |
| 166 | 6 | أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ (زمر: 71) یہ کہیں نہیں فرمایا گیا الم یأتکم ائمة منکم۔ لہذا صرف مرسلین ہی منصوص من اللہ ہیں۔ | 21 |
| 297 | 6 | وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (شوری: 38) امامت کا شیعہ تصور قرآن سے متصادم ہے بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ | 22 |
| 537 | 6 | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (حجرات: 15) معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جس پہ ایمان لانا مدارِ نجات ہو، خواہ کوئی امام ہو یا مجتہد وغیرہ۔ | 23 |
| 115 | 7 | فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالتَّوْرِ الَّذِي أَنْزَلْنَا (تغابن: 8) قرآن میں کہیں نہیں فرمایا فامنوا باللہ ورسولہ والامام۔ | 24 |
| 119 | 7 | وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ (تغابن: 12) کہیں بھی واطیعوا الامام نہیں کہا گیا اگر بقول شیعہ امامت رسالت سے بھی اہم ہے تو اسکا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ | 25 |
| | | جن آیات سے اہل تشیع امامت منصوصہ پر دلیل لاتے ہیں۔ ان کی وضاحت از کتب شیعہ | |
| 311 | 1 | قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (بقرہ: 124) اس آیت سے بارے اماموں کی امامت منصوصہ کے استدلال کا رد۔ | 26 |
| 349 | 2 | اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء: 59) اس آیت میں اولی الامر سے بارہ اماموں کے مراد لینے کا رد۔ | 27 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 28 | الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (مائدہ: 3) کیا یہ آیت غدیر خم پر اعلانِ امامتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بعد اتری تھی؟ | 2 | 517 |
| 29 | إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ (مائدہ: 55) اس آیت سے اہل تشیع کا خلافت و امامتِ علی رضی اللہ عنہ پر استدلال اور اسکے بطلان کی سات وجوہ۔ | 2 | 602 |
| 30 | يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ (مائدہ: 67) کیا یہ آیت غدیر خم پر اعلانِ خلافتِ علی رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی تھی۔ | 2 | 614 |
| 31 | وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۗ (انعام: 87) اس آیت سے خلافتِ علی رضی اللہ عنہ بلا فصل پہ شیعہ استدلال کا رد۔ | 3 | 75 |
| 32 | هَؤُلَاءِ خُلْفَاؤِي فِي قَوْمِي (اعراف: 142) اس آیت سے امامتِ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر غلط شیعہ استدلال کا رد۔ | 3 | 243 |
| 33 | رافضیت نے یہودیت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ | 3 | 244 |
| 34 | اخلفنی فی قومی سے مراد وقتی خلافت ہے نہ کہ خلافت بعد الوصال۔ | 3 | 244 |
| 35 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں مختلف صحابہ کو مدینہ میں خلیفہ بنایا۔ | 3 | 245 |
| 36 | إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (رعد: 7) اس آیت کے تحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا غلط اثبات۔ | 4 | 97 |
| 37 | يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۗ (بنی اسرائیل: 71) یوم ندعو کل اناس بامامہم سے بارہ اماموں کی امامتِ منصوصہ پر غلط استدلال کا رد۔ | 4 | 371 |
| 38 | وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ (شعراء: 214) کیا اس آیت میں خلافتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلان مراد ہے؟ | 5 | 223 |
| 39 | وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ (احزاب: 33) | 5 | 507 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 39 | اس آیت سے ائمہ اہل بیت کے معصوم عن الخطا ہونے کا غلط استدلال۔ | 5 | 507 |
| | ردِّ ماتم | | |
| 40 | وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۗ (بقرہ: 154) جب شہید زندہ ہے تو اس کے لیے ماتم کیوں؟ | 1 | 359 |
| 41 | قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (بقرہ: 156) مصیبت پر واویلا کی بجائے اِنَّا لِلَّهِ کہنے کا حکم۔ | 1 | 361 |
| 42 | وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۗ (آل عمران: 169) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے منع ماتم کی بیعت لینا۔ | 2 | 210 |
| 43 | وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ (یوسف: 16) قاتلانِ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم برادرانِ یوسف کی طرح ہے۔ | 4 | 15 |
| 44 | قَالَ يَا سَفِي عَلَى يَوْسُفَ (یوسف: 84) اگر پہلی امتوں کو استرجاع سکھایا جاتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یا سَفِي نہ کہتے بقولِ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ از کتب شیعہ۔ | 4 | 68 |
| 45 | سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبْرُنَا (ابراہیم: 21) جزع کا صبر کے خلاف ہونا اور ماتم کی ساری اقسام جزع میں شامل ہیں از کتب شیعہ۔ | 4 | 146 |
| 46 | حرمتِ ماتم پر ائمہ اہل بیت کے اقوال۔ | 4 | 146 |
| 47 | فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝ (ذاریات: 29) اہل تشیع کے جوازِ ماتم پر غلط استدلال کا جواب۔ | 6 | 565 |
| 48 | وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعَهُنَّ (ممتحنہ: 12) اس آیت کے تحت شیعہ کتب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں سے مروجہ ماتم نہ کرنے کی بیعت لینا۔ | 7 | 70 |
| 49 | امام حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت سے قبل کربلا میں مروجہ ماتم نہ کرنے کی وصیت فرمانا۔ | 7 | 70 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| | | اذان میں اضافہ کا رد | |
| 606 | 2 | وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا (مائدہ: 58) اذان میں اضافہ بھی اذان سے مذاق ہے۔ | 50 |
| 606 | 2 | اذان میں اضافہ ایک ملعون فرقہ نے کیا (از کتب شیعہ)۔ | 51 |
| | | حقانیتِ خلافتِ خلفاءِ راشدین | |
| 32 | 2 | قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ (آل عمران: 26) اس آیت کا تب اترنا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران، شام اور یمن وغیرہ کی فتوحات کی بشارت دی اور یہ فتوحات خلافتِ راشدہ میں ہوئیں۔ | 52 |
| 431 | 2 | وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى (نساء: 115) خلافتِ خلفاءِ راشدین پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا، اس سے انحراف گمراہی ہے۔ | 53 |
| 600 | 2 | فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (مائدہ: 54) یہ آیت خلافتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ہونے والے عظیم جہاد کے بارے میں اتری جو مرتدین کے خلاف کیا گیا از کتب شیعہ۔ | 54 |
| 290 | 3 | أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾ (اعراف: 181) امتِ محمدیہ کا اجماع اور خلافتِ راشدہ کی حقانیت۔ | 55 |
| 290 | 3 | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کس طرح اجماع ہوا؟ از کتب شیعہ | 56 |
| 392 | 3 | وَإِذْ نَادَى مِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (براءت: 3) یہ حج اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں کرایا گیا جو آپ کی خلافت کا خاموش اعلان تھا۔ | 57 |
| 392 | 3 | اس حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اعلانِ براءت کرنا خلافتِ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں قادر نہیں ہے۔ | 58 |
| 393 | 3 | کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اعلانِ براءت سے معزول کیا گیا تھا؟ | 59 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|---|-----------|
| 497 | 3 | مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ (براءت: 100) مہاجرین و انصار متبوع ہیں باقی امت کو تابع بنایا گیا ہے تو امت پر ان کا فیصلہ ماننا لازم ہے۔ بقول مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ | 60 |
| 110 | 5 | وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (نور: 55) اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سے بعض کو خلافت کے حصول کی خوشخبری دی جو خلفاء راشدین کی خلافت کی صورت میں پوری ہوئی۔ | 61 |
| 111 | 5 | وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (نور: 55) خلافت راشدہ میں کس طرح خوف امن سے بدل گیا؟ | 62 |
| 111 | 5 | اس آیت کی تفسیر شیعہ مفسرین سے۔ | 63 |
| 112 | 5 | اس آیت کی تفسیر خود مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے۔ | 64 |
| 469 | 6 | تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسَلِّمُوا (فتح: 16) اس آیت میں دو خلافت صدیقی میں ہونے والے جہاد کی بشارت ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف ہوا۔ | 65 |
| 142 | 7 | وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (تحريم: 3) اس آیت کے تحت حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا کہ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خود قرآن سے ثابت ہے کیونکہ جو راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کو بتایا وہ قیام خلافت صدیقی ہی کا تھا۔ | 66 |
| مسئلہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم | | | |
| 75 | 2 | نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ (آل عمران: 61) واقعہ مباہلہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ماننے پر شیعہ استدلال کا جواب۔ | 67 |
| 571 | 5 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ (احزاب: 59) | 68 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|---|-----------|
| 571 | 5 | یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں متعدد ہیں جیسے ازواج۔ | 69 |
| 571 | 5 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار حقیقی صاحبزادیاں ہیں نہ کہ سوتیلی، از کتب شیعہ۔ | 70 |
| 572 | 5 | امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ام کلثوم، زینب، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئیں، از کتب شیعہ۔ | 71 |
| 572 | 5 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: یہ حسین ہے اسکا ماموں ابراہیم بن محمد ہے اور خالائیں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ | 72 |
| 573 | 5 | ارشاد نبوی: مجھے اللہ نے خدیجہ سے طاہر، قاسم، فاطمہ رقیہ ام کلثوم اور زینب دیے۔ از کتب شیعہ۔ | 73 |
| رد تقیہ | | | |
| 27 | 2 | وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ (آل عمران: 21) | 74 |
| تقیہ کی حقیقت اور اسکا رد۔ | | | |
| 228 | 3 | ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٥﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣٦﴾ (اعراف: 125) | 75 |
| سابق جادوگروں کی فرعون کے آگے استقامت اور حق گوئی۔ | | | |
| 228 | 3 | حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تقیہ کا عقیدہ شدید گستاخی نبی و علی ہے۔ | 76 |
| 642 | 3 | وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٧﴾ (هود: 54) | 77 |
| ہر نبی دشمنان دین کے مقابلہ میں اپنا بانگِ دہل بیان کرتا تھا یعنی انہوں نے کبھی تقیہ سے کام نہ لیا۔ | | | |
| 395 | 4 | وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرِعُونَ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ (بنی اسرائیل: 102) | 78 |
| جابر و ظالم حاکموں کے سامنے انبیاء کا اعلانِ حق کہاں اور تقیہ کی صورت میں کتمانِ حق کہاں۔ | | | |
| 408 | 4 | وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (کہف: 14) | 79 |
| اصحابِ کہف کی استقامت اور تقیہ کا رد۔ | | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 80 | قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۵۰﴾ (شعراء: 50) سابق جادوگروں نے جان دیدی مگر تقیہ نہیں کیا۔ | 5 | 187 |
| 81 | اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾ (یس: 21) پوری قوم میں سے ایک شخص نے اعلان حق کیا اور جام شہادت نوش کر لیا، مگر باطل کے آگے نہیں جھکا تو تقیہ کی فضیلت کہاں گئی؟ | 5 | 10 |
| 82 | اتَّقَتُوا رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (مومن: 28) مومن آل فرعون نے جان پہ کھیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں پوری دشمن قوم کے سامنے نعرہ حق لگایا تو کیا ترک تقیہ کے سبب وہ بے دین ہو گیا؟ | 6 | 196 |
| 83 | وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿۸﴾ (بروج: 8) اہل ایمان نے جان دی مگر حق کہ نہ چھپایا تقیہ نہ کیا تو اگر تقیہ کے بغیر ایمان نہیں تو اللہ انکی تعریف کیوں فرما رہا ہے۔ | 7 | 369 |
| 84 | فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴿۷۲﴾ (طہ: 72) فرعون کا سابق جادوگروں کو قتل اور قطع اعضاء کی دھمکی دینا اور انکا کہنا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، اور رد تقیہ۔ | 4 | 547 |
| 85 | وَتَاللَّهِ لَا كَيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۸﴾ (انبیاء: 57، 58) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین چھپایا نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر فرمایا، لہذا تقیہ تعلیمات انبیاء کرام علیہم السلام کی نفی ہے۔ | 4 | 617 |
| جواز تقیہ پر اہل تشیع کے غلط استدلال کا جواب | | | |
| 86 | إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ﴿۲۸﴾ (آل عمران: 28) اس آیت کے غلط استدلال کا جواب۔ | 2 | 36 |
| 87 | إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (نحل: 106) | 4 | 278 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|--|-----------|
| 278 | 4 | اس آیت سے جوازِ تقیہ پر غلط استدلال۔ | 87 |
| 279 | 4 | فضیلتِ تقیہ پر اہل تشیع کی خود ساختہ روایات۔ | 88 |
| انبیاء کرام ﷺ کی مالی میراث پر غلط استدلال | | | |
| 259 | 2 | وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط (نساء: 11) اس آیت سے رسول اللہ ﷺ کی میراث پر اہل تشیع کا غلط استدلال۔ | 89 |
| 261 | 2 | باغِ فدک کے بارے میں صدیقی فیصلہ سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا راضی ہونا از کتب شیعہ۔ | 90 |
| 339 | 4 | وَإِذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ (بنی اسرائیل: 26) اس آیت کا غلط مفہوم لینا کہ ذالقربیٰ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں اور حق سے مراد باغِ فدک ہے اور اسکے سات جوابات۔ | 91 |
| 477 | 4 | يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ؕ (مریم: 6) اس آیت سے انبیاء کے لیے مالی میراث ثابت کرنے کا رد۔ | 92 |
| 240 | 5 | وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ (نمل: 16) اس آیت سے انبیاء کے لیے مالی میراث کا شیعہ استدلال اور اسکا جواب۔ | 93 |
| انبیاء کرام ﷺ کے لیے مالی میراث کے نہ ہونے کے اشارات | | | |
| 205 | 6 | وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْهُدَىٰ وَأَوْثَقْنَا بِرَبِّهِ اسْرَآءِیلَ الْکِتَابَ ﴿۵۳﴾ (مومن: 53) اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کی میراث اسکی کتاب ہوتی ہے۔ | 94 |
| 274 | 6 | وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْکِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ (شوری: 14) گویا انبیاء کی میراث انکی کتاب بتائی گئی ہے۔ | 95 |
| 32 | 7 | مَا آفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرْبٰی فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلَّذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ؕ (حشر: 7) | 96 |
| 32 | 7 | باغِ فدک بھی اموالِ فیسئ میں سے تھا بقولِ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ از اصول کافی، لہذا وہ سب | 97 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 97 | مسلمانوں کا اجتماعی مال تھا۔ | 7 | 32 |
| 98 | کیا فدک کے نہ ملنے پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کلام بند کر دیا تھا؟ | 7 | 34 |
| 99 | شیعہ کتب کے مطابق سیدہ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا فیصلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطمئن تھیں۔ | 7 | 35 |
| | بایں فدک میں فیصلہ صدیقی کی اصابت | | |
| 100 | وَيَسْتَخِرْ جَا كُنْزُهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ؕ (کہف: 82) ایک صالح شخص کی مالی میراث بچانے کیلئے دو انبیاء بھیجے گئے، اگر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی میراث ہوتی تو اللہ رب العزت اسے ہرگز ضائع نہ ہونے دیتا۔ | 4 | 458 |
| 101 | لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ (نمل: 18) چیونٹی کو خبر ہے کہ اصحاب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں پہ ظلم نہیں کر سکتے تو جو انسان سمجھتا ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دختر رسول پر ظلم کیا وہ چیونٹی جتنا بھی شعور نہیں رکھتا۔ | 5 | 244 |
| 102 | قُلْ لَّا زَوَاجِكَ إِن كُنْتَن تَرِدُنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكَنَّ وَ أُسْرِ حُكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿٢٨﴾ (احزاب: 28) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں مال دینے کا مطالبہ پسند نہ آیا تو بیسیٹی کو لمبی چوڑی جاگیر کیسے لکھ کر دیدی؟ | 5 | 497 |
| | صحابہ و اہل بیت کی نامی محبت و الفت | | |
| 103 | فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ؕ (آل عمران: 103) صحابہ و اہل بیت کی محبت پر اوس و خزرج کی محبت کی دلالت۔ | 2 | 125 |
| 104 | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب و شتم اور تبرا بازی کیسے شروع ہوئی؟ | 2 | 125 |
| 105 | لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ؕ (انفال: 63) صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم میں گہری قلبی محبت کا ثبوت قرآن مجید سے۔ | 3 | 371 |
| 106 | إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ (ت: 18) | 6 | 476 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 106 | حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے درخت کے نیچے سب سے پہلے بیت کرنے والا میں تھا۔ شیعہ تفسیر کے حوالے سے۔ | 6 | 476 |
| 107 | وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (نح: 29) | 6 | 487 |
| 108 | وَأَنْ طَأَفْتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا (حجرات: 9) سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا اپنے بھائی سیدنا امام حسین (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کو متحد کرنا۔ | 6 | 517 |
| 109 | حضرت امیر معاویہ اور مولیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے مابین جنگ صفین کیوں ہوئی؟ | 6 | 518 |
| 110 | حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولانا علی رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز موقف از کتب شیعہ۔ | 6 | 520 |
| 111 | حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 6 | 521 |
| انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں اہل تشیع کی گستاخیاں | | | |
| 112 | فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ (بقرہ: 36) بقول شیعہ حضرت آدم علیہ السلام نے مقام پنج تن کو بنظر حسد دیکھا۔ | 1 | 183 |
| 113 | بقول شیعہ بار اماموں سے حسد کی وجہ سے انبیاء کو سزا میں دی گئیں۔ (معاذ اللہ) | 1 | 312 |
| 114 | وَإِذَا النُّونُ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا (انبیاء: 87) حضرت یونس علیہ السلام کو شان ائمہ سے حسد کی وجہ سے بطن حوت میں ڈالا گیا بقول شیعہ۔ (معاذ اللہ) | 4 | 632 |
| صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خصوصاً خلفاء راشدین اور اہمات المؤمنین کی شان میں گستاخیاں | | | |
| 115 | أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ (آل عمران: 14) اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسرین کا خلفاء راشدین اور اہمات المؤمنین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا الزام رکھنا۔ | 2 | 168 |
| 116 | يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 116 | وَهُمْ أَيْبَاءُ لَمْ يَنَالُوا ^١ (براءت: 74) | 3 | 470 |
| | اس آیت کے تحت شیعوں کا کہنا کہ حضرات ابو بکر و عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی پر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ (معاذ اللہ) | | |
| 117 | أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ^٢ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ (نور: 26) | 5 | 73 |
| | ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اہل تشیع کے غلیظ جھوٹے الزامات۔ | | |
| 118 | وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ^٣ (قصص: 6) | 5 | 281 |
| | شیعہ مفسرین یہاں فرعون و ہامان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرات ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو مراد لیتے ہیں۔ از کتب شیعہ | | |
| 119 | الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ^٤ (سورہ محمد: 1) | 6 | 426 |
| | اس آیت کے تحت شیعہ مفسرین ملا فیض کاشانی اور شیخ علی بن ابراہیم قمی و دیگر نے کہا کہ اسکا مصداق صحابہ ہیں کیونکہ وصال نبوی کے بعد انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر ابو بکر کی بیعت کر کے کفر کیا اور دور نبوی میں انکے جہاد وغیرہ کی سب نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ (معاذ اللہ) | | |
| | ذوالجناح پرستی کا رد | | |
| 120 | إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ (بقرہ: 54) | 1 | 211 |
| | ذوالجناح گھوڑے کی تعظیم کا و سالہ پرستی سے مشابہ ہے۔ | | |
| 121 | وَ أَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا (انعام: 138) | 3 | 120 |
| | کفار عرب کاتبوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں پر سوار نہ ہونا اور اہل تشیع کی ذوالجناح کی تعظیم ایک جیسے ہیں۔ | | |
| | اہل تشیع کا وضوء میں پاؤں پر مسح کرنا اور اسکا رد | | |
| 122 | وَ أَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (مائدہ: 6) | 2 | 530 |
| | اہل تشیع کا وضوء میں پاؤں پر مسح کرنا باطل ہے۔ چند وجوہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وضوء میں پاؤں دھوتے تھے بروایت اہل بیت از کتب شیعہ۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 531 | 2 | وضوء میں پاؤں کے دھونے پر اہل تشیع کے اعتراضات کا جواب۔ | 123 |
| | | لفظ شیعہ قرآن میں اکثر گمراہ فرقوں کے لیے بولا گیا ہے | |
| 139 | 3 | إِنَّ الَّذِينَ فَزَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا (انعام: 159) اس آیت میں گمراہ فرقوں کو شیعہ کہا گیا ہے جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے۔ بقول حدیث نبوی | 124 |
| 56 | 3 | أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (انعام: 65) اس آیت میں باہم لڑ کر امت کو کمزور کرنے والے گروہ مراد ہیں۔ | 125 |
| 179 | 4 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ (حجر: 10، 11) اس آیت میں رسولوں کے گستاخ لوگوں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ | 126 |
| 507 | 4 | ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝ (مریم: 69) اس آیت میں جہنمی فرقوں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ | 127 |
| 280 | 5 | إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا (قصص: 4) اس آیت میں فرعون کے پیروکاروں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ | 128 |
| 508 | 4 | اور امام حسن <small>رضی اللہ عنہ</small> کو زخمی کرنے والے خود کو شیعہ کہتے تھے، از کتب شیعہ۔ | 129 |
| 508 | 4 | امام حسین <small>رضی اللہ عنہ</small> کو کوفہ بلانے اور شہید کرنے والوں نے بھی خود کو شیعہ کہا۔ | 130 |
| 509 | 4 | جب کہ اہل سنت متبعین رسول کو کہا جاتا ہے بقول مولیٰ علی <small>رضی اللہ عنہ</small> از کتب شیعہ۔ | 131 |
| 404 | 5 | مِنَ الَّذِينَ فَزَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا (روم: 32) اس آیت میں مشرکین کے گروہوں کو شیعہ کہا گیا ہے۔ | 132 |
| 499 | 7 | إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ (بنہ: 7) اس آیت کے تحت یہ حدیث: اے علی! تم اور تمہارے شیعہ خیر البریہ ہیں حدیث موضوع ہے۔ | 133 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | رد متعہ | | |
| 134 | فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (نساء: 24) اس آیت سے جواز متعہ پر شیعہ استدلال کا رد۔ | 2 | 288 |
| 135 | حرمت متعہ پر قرآن کریم سے دلائل۔ | 2 | 288 |
| 136 | متعہ کا تعارف کتب شیعہ سے۔ | 2 | 289 |
| 137 | متعہ کی حرمت پر کتب اہل سنت اور کتب شیعہ سے احادیث۔ | 2 | 290 |
| 138 | جواز متعہ پر اہل تشیع کے بعض دلائل کا رد۔ | 2 | 291 |
| 139 | وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ (نساء: 25) حرمت متعہ پر روشن قرآنی دلیل۔ | 2 | 294 |
| 140 | وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ متعہ والی عورت بیوی نہیں ہو سکتی نہ لونڈی۔۔ (مومنون: 6، 5) | 5 | 7 |
| 141 | اہل تشیع کے نزدیک متعہ کا عظیم ثواب اور متعہ کرنے والوں کے بلند ترین درجات۔ | 5 | 8 |
| 142 | وَلَيْسَتَعْظِيمِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ (نور: 33) اسلام میں متعہ کا کوئی وجود نہیں۔ | 5 | 91 |
| 143 | وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (شعراء: 166) صرف بیوی سے مباشرت حلال ہے۔ اور متعہ والی عورت بیوی نہیں ہے خود شیعہ روایات کے مطابق اس کا کوئی حق بیوی والا نہیں۔ | 5 | 212 |
| 144 | وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٦٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٦٧﴾ (معارج: 29، 31) بیوی اور لونڈی کے سوا کسی عورت سے مباشرت حلال نہیں ہے۔ اور متعہ والی عورت نہ بیوی ہے نہ لونڈی۔ | 7 | 210 |

رد نجدیت

- جوازِ توٹسل۔
- جوازِ استغاثہ از انبیاء و صالحین۔
- نذرو نیاز و میلاد کے کھانے کو حرام کہنے کا رد۔
- تعظیمِ تبرکات کا استدلال۔
- جوازِ جشنِ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
- ایمانِ آبائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
- سماعِ موتی۔
- جوازِ تقلید۔
- شرک کا صحیح مفہوم کیا ہے؟
- ایصالِ ثواب۔

ردنجیت

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | جواز توسل | | |
| 1 | فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ (بقرہ: 37) حضرت آدم علیہ السلام کی قبولیت توبہ بوسیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ | 1 | 187 |
| 2 | وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ (بقرہ: 89) وسیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ رحمت خدا ہے۔ | 1 | 263 |
| 3 | وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ (نساء: 64) یہ آیت جواز توسل کی مضبوط دلیل ہے۔ | 2 | 357 |
| 4 | وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ: 35) توسل کے چار معانی۔ | 2 | 573 |
| 5 | انبیاء و اولیاء کے وسیلہ سے دعاء کرنے کا جواز قرآن و حدیث سے۔ | 2 | 574 |
| 6 | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ پکارنے کا جواز۔ | 2 | 476 |
| 7 | إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ (اعراف: 160) حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروانا توسل کی صورت ہے۔ | 3 | 270 |
| 8 | أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ (بنی اسرائیل: 57) یعنی مومن جنات اپنے میں سے مقربین کا وسیلہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ | 4 | 359 |
| 9 | قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۗ (مریم: 19) نسبت مجازی کا جواز۔ | 4 | 482 |
| 10 | وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۗ (مومن: 8) | 4 | 176 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 10 | صالح آدمی (ولی اللہ) اپنے آباء و ازواج و اولاد کی بخشش کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ توسل پر ایک اعتراض کا جواب | 6 | 176 |
| 11 | مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ (زمر: 3) اس آیت سے توسل کے خلاف غلط استدلال۔ | 6 | 112 |
| 12 | کفار بتوں کو وسیلہ نہیں بلکہ مستقل خدا مانتے تھے۔ | 6 | 112 |
| 13 | بت پرستوں کے توسل اور اہل ایمان کے توسل میں فرق؟ | 6 | 115 |
| 14 | بتوں کو وسیلہ ماننا اللہ تعالیٰ پر افتراء تھا۔ | 6 | 115 |
| | جواز استغاثہ از مقربین | | |
| 15 | وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ (اعراف: 44) باذن الہی دور و نزدیک سے باتیں سنی جاسکتی ہیں۔ | 3 | 186 |
| 16 | فَتَبَسَّمَا ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا (نمل: 19) دور سے سنا انبیاء کا معجزہ اور اولیاء کی کرامت ہے۔ | 5 | 244 |
| 17 | إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ (فاتحہ: 4) ہر مدد اللہ کی طرف سے ہے، خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، تحت الاسباب ہو یا حقوق الاسباب۔ | 1 | 111 |
| 18 | حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد غائبانہ پکارنا۔ | 1 | 114 |
| 19 | دیوبندی و نجدی علماء کی عبارات سے غائبانہ استغاثہ کا ثبوت۔ | 1 | 116 |
| 20 | فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿ (نازعات: 5) وصال کے بعد ارواح مقربین ملکی صفات بن جاتی ہیں جہاں چاہیں آتی جاتی ہیں۔ از اقوال ائمہ۔ | 7 | 314 |
| 21 | ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ (اعلى: 14) | 7 | 385 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 21 | کافر جہنم میں نہ مرے گا نہ جیے گا جبکہ مومن کو جہنم میں ایک عارضی موت دے کر اس کا احساس ختم کر دیا جائے گا۔ | 7 | 385 |
| جواز استغاثہ پر اعتراضات کا جواب | | | |
| 22 | وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (انعام: 17) جب اللہ ہی مشکل کشا ہے تو انبیاء و اولیاء سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ | 3 | 16 |
| 23 | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بارش کی التجاء کرنا۔ | 3 | 16 |
| 24 | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ پکارنا۔ | 3 | 17 |
| 25 | قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (انعام: 56) قرآن مجید میں غیر اللہ کی دعا سے ممانعت کا معنی غیر اللہ کی عبادت ہے۔ | 3 | 47 |
| 26 | إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ (اعراف: 194) یہ آیت بتوں کے لیے اتری، اسے انبیاء و اولیاء پر لگانا الحاد ہے۔ | 3 | 303 |
| 27 | وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ (یونس: 106) کیا اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا مشرک ہے؟ | 3 | 601 |
| 28 | وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ (یونس: 107) اس آیت کا درست مفہوم اور اس سے غلط استدلال کا جواب۔ | 3 | 602 |
| 29 | وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ (رعد: 14) یدعون بمعنی یعبدون ہے آیات قرآنی کے حوالے سے۔ | 4 | 104 |
| 30 | غیر اللہ کو پکارنے کے مسئلہ پر مولانا گنگوہی اور مولانا وحید الزمان کا فیصلہ کن کلام۔ | 4 | 105 |
| 31 | وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا (نحل: 20) مودودی صاحب کا اس آیت کو انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنا۔ | 4 | 218 |
| 32 | وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتُهُ (بنی اسرائیل: 67) اس آیت میں مقررین کے استغاثہ کی حرمت پر استدلال کا بطلان۔ | 4 | 368 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 33 | إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجْتَنَعُونَ إِلَهًُا (حج: 73) اس آیت کو جو بتوں کے لیے اُتری، انبیاء و اولیاء پر چسپاں کرنے کی گمراہی۔ | 4 | 696 |
| 34 | وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (مومنون: 117) اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی ممانعت معبود سمجھ کر پکارنے پر محمول ہے۔ | 5 | 43 |
| 35 | أَمَّنْ يُجِيبُ الْبُظْظَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ (نمل: 62) ارواحِ صالحین کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے یہ حدیث میں سکھایا گیا ہے۔ | 5 | 266 |
| 36 | فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (عنکبوت: 65) یہ آیت بتوں کے لیے اُتری اسے انبیاء و اولیاء پر لگانا الحاد ہے۔ | 5 | 382 |
| 37 | قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (مومن: 66) قرآن میں مِنْ دُونِ اللَّهِ کے ساتھ لفظ دعا بمعنی عبادت ہوتا ہے نہ کہ بمعنی پکارنا۔ | 6 | 213 |
| نذر و نیاز اور چہلم و میلاد کے کھانے کو حرام کہنے کا رد | | | |
| 38 | وَمَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (بقرہ: 173) اس آیت کا صحیح مفہوم صحابہ و تابعین اور آئمہ مفسرین کے اقوال سے۔ | 1 | 379 |
| 39 | وَمَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (بقرہ: 173) اس آیت کے غلط تراجم کی نشان دہی۔ | 1 | 380 |
| 40 | اولیاء اللہ کے لیے نذر ماننے کا شرعی حکم۔ | 1 | 381 |
| 41 | لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا (مائده: 87) اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام کہنے کی بُرائی۔ | 2 | 631 |
| 42 | وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ (انعام: 119) جب ایک جانور عند الذبح اللہ کا نام لینے سے حلال ہے تو جس کھانے پر بکثرت قرآن پڑھا گیا وہ کیوں حرام ہے؟ | 3 | 103 |
| 43 | وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكًا (انعام: 155) | 4 | 613 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--------------------------------|-----|---|-----------|
| 613 | 4 | هَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ (انبیاء: 50) قرآن برکت والی کتاب ہے جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے اس میں برکت آتی ہے۔ | 44 |
| 613 | 4 | جب صرف بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت آتی ہے تو الحمد للہ اور قل هو اللہ سے کیوں نہیں آئے گی؟ | 45 |
| ایصال ثواب | | | |
| 46 | 7 | وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ (حشر: 10) معلوم ہوازندوں کا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور یہی ایصالِ ثواب کا اہل ہے۔ | 46 |
| 46 | 7 | ایصالِ ثواب پر احادیث صحیحہ۔ | 47 |
| 613 | 6 | وَأَنْ لَيْسَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا سَعَى (نجم: 39) اس آیت کا درست مفہوم اور اس سے ایصالِ ثواب کا عدم جواز ثابت کرنے کا رد۔ | 48 |
| 613 | 6 | ایصالِ ثواب پر قرآن و حدیث سے دلائل۔ | 49 |
| 614 | 6 | اموات کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن کریم کے پڑھنے کا جواز حدیث سے۔ | 50 |
| 615 | 6 | ایصالِ ثواب کے جواز پر علماء اہل حدیث کا فتویٰ۔ | 51 |
| 616 | 6 | ایصالِ ثواب کے لیے دن مقرر کرنے اور کھانا سامنے رکھنے کی حکمت۔ | 52 |
| تعظیم تبرکات کا استدلال | | | |
| 316 | 1 | وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (بقرہ: 125) | 53 |
| 364 | 1 | إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقرہ: 158) اللہ اپنے نیک بندوں کی یادگاریں قائم فرماتا ہے۔ | 54 |
| 530 | 1 | وَبَقِيَّةٍ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ (بقرہ: 248) آثارِ صالحین سے تبرک لینے کا جواز۔ | 55 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 56 | فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ (آل عمران: 97) | 2 | 113 |
| | تبرکات اللہ کی نشانیاں ہیں۔ | | |
| 57 | اذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا (يوسف: 93) | 4 | 74 |
| | قمیض یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کی برکت۔ | | |
| 58 | تبرکات کی تکریم و احترام کا جواز احادیث سے۔ | 4 | 74 |
| 59 | إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (نح: 18) | 4 | 473 |
| | کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والادریخت کثوا دیا تھا؟ | | |
| 60 | عروہ بن مسعود نے حدیبیہ میں دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والا وضوء کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حجامت کے بال نہیں گرنے دیتے۔ | 6 | 474 |
| | جواز جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم | | |
| 61 | وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ (بقرہ: 49) | 1 | 207 |
| | جشن آزادی منانے کا جواز اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جواز۔ | | |
| 62 | رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ (آل عمران: 36) | 2 | 43 |
| 63 | أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ (آل عمران: 39) | 2 | 51 |
| | انبیاء و صالحین کا میلاد بیان کرنا سنت الہیہ ہے۔ | | |
| 64 | وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ (آل عمران: 81) | 2 | 99 |
| | محفل میلاد کا انعقاد سنت الہیہ ہے۔ | | |
| 65 | محفل میلاد سنت انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم بھی ہے۔ | 2 | 99 |
| 66 | محفل میلاد خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ | 2 | 100 |
| 67 | لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ (آل عمران: 164) | 2 | 197 |
| | جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 68 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ایمان سے بھی بڑی نعمت ہیں۔ | 2 | 197 |
| 69 | مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز۔ | 2 | 199 |
| 70 | محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اعتراضات کا جواب۔ | 2 | 200 |
| 71 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ (نساء: 170) آمد رسول کا بیان موضوع قرآن ہے اور یہی محفل میلاد النبی کا موضوع ہے۔ | 2 | 492 |
| 72 | تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا (مائدہ: 114) لفظ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق۔ | 2 | 670 |
| 73 | یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے لیے بلاشبہ یوم عید اکبر ہے۔ | 2 | 670 |
| 74 | لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ (براءت: 128) آمد رسول اور عظمت رسول کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ | 3 | 529 |
| 75 | فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ (یونس: 58) جب قرآن کے ملنے کی خوشی کرنی چاہیے تو قرآن والے رسول کے ملنے پر بھی خوشی کرنی چاہیے۔ | 3 | 572 |
| 76 | اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (ابراہیم: 6) جس دن کسی قوم کو بڑی نعمت ملے وہ اسے یاد رکھنا چاہیے، اور نعمت کبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ | 4 | 134 |
| 77 | أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا (ابراہیم: 28) یہاں نعمة اللہ سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ بلا شک ایمان سے بھی بڑی نعمت ہیں اور میلاد اسی نعمت کے چرچا کے لیے ہے۔ | 4 | 155 |
| 78 | وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾ (ضحیٰ: 11) سب سے بڑی نعمت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اسکا چرچا کرنا ہی اصل محفل میلاد ہے۔ | 7 | 459 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواز | | |
| 79 | وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿33﴾ (مریم: 33) اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا اور آخر میں ان پر سلام بھیجا یہی طریقہ محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ | 4 | 491 |
| 80 | فَإِذَا خِفتَ عَلَيْهِ فَالْقِيَةِ فِي الِيمِّ وَلَا تَخَافِي (قصص: 7) | 5 | 283 |
| 81 | وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ (قصص: 11) | 5 | 287 |
| 82 | وَ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (قصص: 12) گویا انبیاء کا میلاد بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ | 5 | 289 |
| 83 | وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ (صف: 6) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محفل بنی اسرائیل میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا۔ | 7 | 79 |
| | ایمان آباء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم | | |
| 84 | وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ ﴿128﴾ (بقرہ: 128) آباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن ہونا۔ | 1 | 326 |
| 85 | أَبَاكَ إِبرَاهِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ (بقرہ: 133) اب کا لفظ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ | 1 | 331 |
| 86 | وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أزرَ (انعام: 74) آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں چچا تھا اسکے دلائل۔ | 3 | 64 |
| 87 | ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفْلُونَ ﴿131﴾ (انعام: 131) جب تک بعثت رسول نہ ہو عذاب نہیں ہے، لہذا زمانہ فترت کے لوگ جنتی ہیں اگر مشرک نہ ہوں اور والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ | 3 | 115 |
| 88 | رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (ابراہیم: 41) نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کافر و مشرک نہیں ہے۔ | 4 | 164 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 89 | وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ (بنی اسرائیل: 15) بعثت رسول کے بغیر عذاب نہیں لہذا اہل فترت اہل جنت ہیں، اگر مشرک نہ ہوں اور والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے (یعنی اہل فترت) ہی تھے۔ | 4 | 329 |
| 90 | إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ (انبیاء: 52) آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا باپ نہیں اسکے دلائل۔ | 4 | 614 |
| 91 | يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ؕ (سبا: 43) کفار مکہ نے یہ نہ کہا پیرید ان یصدکم مما کان یعبد آباءہ۔ | 5 | 612 |
| 92 | أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ (زمر: 71) معلوم ہوا بعثت رسول کے بغیر عذاب اخروی نہیں ہے۔ تو اہل فترت کے لیے عذاب نہیں اگر وہ مشرک نہ ہوں اور والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ | 6 | 166 |
| 93 | وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ (زخرف: 28) اس آیت سے امام سیوطی کا اثبات: نسل ابراہیمی میں ہمیشہ اہل ایمان موجود رہے اور ان میں آباء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ | 6 | 325 |
| سَمَاعُ مَوْتَى | | | |
| 94 | فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي (اعراف: 79) حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاکت قوم کے بعد ان سے خطاب فرمایا۔ | 3 | 207 |
| 95 | فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي (اعراف: 93) حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم مدین کی ہلاکت کے بعد ان سے خطاب۔ | 3 | 215 |
| سَمَاعُ مَوْتَى بِرِاعْتِرَاضَاتِ كَاجَوَابِ | | | |
| 96 | إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ (نمل: 80) اس آیت سے سماع موتی کے خلاف استدلال کا جواب یہ آیت مردہ دل کفار کے لیے اُتری۔ | 5 | 272 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 97 | احادیث طیبہ کی روشنی میں مردوں کا سننا برحق ہے۔ | 5 | 273 |
| 98 | فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾ (روم: 52) اس آیت کے تحت سماع موتی کی تحقیق اور اسکے خلاف شبہات کا رد۔ | 5 | 413 |
| جواز تقلید | | | |
| 99 | فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ (نمل: 43) فقہی شخصی تقلید کا جواز قرآن و حدیث اور تعامل صحابہ سے۔ | 4 | 231 |
| 100 | فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ (انبیاء: 7) تقلید شخصی کے جواز پر مزید دلائل۔ | 4 | 593 |
| شُرک کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ | | | |
| مشرکین عرب کے شرکیہ عقائد کیا تھے۔ اور کیا قرآن و سنت کا ماننے والا کوئی مسلمان ان شرکیہ عقائد میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ | | | |
| 101 | اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اَنْثَاءً (نساء: 117) مشرکین عرب کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا۔ | 2 | 433 |
| 102 | فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا (بقرہ: 22) حقیقت شرک کیا ہے؟ دیوبندی و اہل حدیث علماء کے اقوال سے۔ | 1 | 161 |
| 103 | مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّ لَا سَابِيَةٍ وَّ لَا وَّصِيْلَةٍ (مائدہ: 103) مشرکین کا جانوروں کو اپنے بتوں کے نام منسوب کر کے انہیں حرام و مسترار دینا (کوئی مسلمان اس شرک کا تصور نہیں کر سکتا)۔ | 2 | 656 |
| 104 | ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهْمُ يَعْدِلُوْنَ ﴿١﴾ (انعام: 1) حقیقت شرک (غیر خدا کو اللہ کے ساتھ برابر کھڑا کرنا)۔ | 3 | 5 |
| 105 | الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فَيَكُمْ شُرَكَاءُ (انعام: 94) شرک کی حقیقت کیا ہے؟ | 3 | 83 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 106 | کوئی مسلمان حقیقتِ شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ | 3 | 84 |
| 107 | لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا (انعام: 108) گویا مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا خدا سمجھتے تھے اپنا نہیں۔ اپنے خدا انکے دوسرے تھے۔ | 3 | 90 |
| 108 | وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا (انعام: 136) مشرکین عرب اپنے اموال اولاد اور انعام کا کچھ حصہ اللہ کے لیے بناتے تھے اور کچھ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے اور دونوں کا مصرف الگ الگ رکھتے۔ | 3 | 117 |
| 109 | فَمَا كَانَ لَشُرِّكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ (انعام: 136) مشرکین عرب اپنے بتوں کے حصہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جانے دیتے تھے گویا نہیں اللہ سے اہم تر جانتے تھے۔ | 3 | 118 |
| 110 | وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ (انعام: 137) وہ اپنے بتوں کی رضا کے لیے اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ | 3 | 118 |
| 111 | وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا (انعام: 138) مشرکین عرب بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے۔ | 3 | 119 |
| 112 | وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا (انعام: 139) وہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانوروں کا دودھ صرف مردوں کیلئے مخصوص جانتے تھے۔ | 3 | 120 |
| 113 | مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ (یونس: 3) مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ انکے جھوٹے خدا ان کو اللہ سے زبردستی چھڑا سکتے ہیں اس لیے فرمایا کہ اذنِ الہی کے بغیر کوئی شفیع نہیں۔ | 3 | 537 |
| 114 | وَيَقُولُونَ هُوَ آءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ (یونس: 18) مشرکین عرب کا اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں زبردستی کا شفیع ماننا۔ | 3 | 548 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 115 | وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ ۗ (نحل: 56) | 4 | 237 |
| | مشرکین عرب اپنے مال میں ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے تھے ایک حصہ بتوں کے لیے۔ | | |
| 116 | وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۗ (نحل: 57) | 4 | 238 |
| | مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے جو کائنات کی تدبیر کرتی ہیں اور وہ انکے نام پر بنائے گئے بتوں کو پوجتے تھے۔ | | |
| 117 | فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (نحل: 71) | 4 | 254 |
| | شرک اور توسل میں فرق۔ | | |
| 118 | ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا (نحل: 75) | 4 | 258 |
| | مشرکین عرب اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو برابر کر دیتے تھے۔ | | |
| 119 | وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا (بنی اسرائیل: 111) | 4 | 399 |
| | اللہ رب العزت کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ یہ ردِ مشرکین عرب ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اکیلا نظام کائنات کو نہیں چلا سکتا۔ لہذا چھوٹے خداؤں کی ضرورت ہے۔ | | |
| 120 | لَنْ نَّدْعُوهُم مِّنْ دُونِهِ الْهَالِكِينَ إِذْ أَشْطَطْنَا (کہف: 14) | 4 | 408 |
| | جس پکارنے کو شرک کہا گیا ہے وہ پرستش کے معنی میں ہے۔ | | |
| 121 | إِذْ نَسُوا لَكُمْ بَرَآءَتِ الْعَالَمِينَ (شعراء: 98) | 5 | 198 |
| | مشرکین اپنے جھوٹے خداؤں کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، جبکہ انبیاء و اولیاء سے توسل کا اس سے کوئی موازنہ ہی نہیں۔ | | |
| 122 | هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِقَانِكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ (روم: 28) | 5 | 400 |
| | مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹے خداؤں سے یوں ڈرتا ہے جیسے باہم حصہ دار ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ | | |
| 123 | وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ (سبا: 22) | 5 | 600 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 123 | مشرکین عرب کے اس خیال کا رد کیا گیا کہ انکے بت اللہ کے مددگار ہیں۔ | 5 | 600 |
| 124 | وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا (صافات: 158) کفار مکہ کا سمجھنا کہ اللہ نے جنات سے شادی کی تو اس سے فرشتے پیدا ہوئے۔ | 6 | 74 |
| 125 | أَجْعَلِ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (ص: 5) مشرکین عرب نے مختلف مقاصد کے لیے مختلف خدا بنا رکھے تھے کیونکہ ان کے نزدیک ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ | 6 | 86 |
| 126 | وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (زمر: 45) اللہ رب العزت کے ذکر سے مشرکین مکہ کے چہرے سکڑ جاتے تھے اور وہ جنگوں میں صرف اپنے بتوں کے نعرے لگاتے تھے۔ حدیث کے حوالے سے۔ | 6 | 150 |
| 127 | قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ تَأْمُرُؤِي أَعْبُدُ إِلَيْهَا الْجَاهِلُونَ (زمر: 64) مشرکین مکہ نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک سال ہم تمہارے رب کی عبادت کریں پر ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، گویا وہ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کا رب سمجھتے تھے۔ | 6 | 162 |
| 128 | مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (مومن: 18) مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ انکے جھوٹے خدا اللہ سے جو کہدیں اللہ کو انکی اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ولا شفيع يطاع | 6 | 183 |
| 129 | أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (جاثیہ: 23) مشرکین ایک پتھر کو پوجتے پھر اس سے اچھال جاتا تو پہلے کو پھینک کر دوسرے کو لے لیتے۔ | 6 | 384 |
| 130 | وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ (جاثیہ: 24) زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ | 6 | 385 |
| 131 | اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً (احقاف: 28) مشرکین کا شرک یہ ہے کہ وہ چند چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں وسیلہ بنیں۔ وہ | 6 | 119 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|---|-----------|
| 119 | 6 | سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائبین ہیں انہی کے ذریعے اللہ کا نظام چلتا ہے۔ | 131 |
| 435 | 6 | وَأَنَّ الْكُفْرِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿۱۱﴾ (سورہ محمد: 11) یہ آیت تب اتری جب احد میں کفار نے نعرہ لگایا یا لانا العزى ولا عزی لکم۔ تو مسلمانوں نے نعرہ لگایا اللہ مولانا ولا مولی لکم گویا کفار جنگوں میں اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے اپنے بتوں کے نعرے لگاتے تھے۔ | 132 |
| 559 | 7 | وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا آعْبُدُ ﴿۳﴾ (الکافرون: 3) رسول اللہ ﷺ کا خدا اور ہے مشرکین کا خدا اور تھا اور وہ آپ کے خدا کو نہیں پوجتے تھے، اپنے ہی خداؤں کو پوجتے تھے۔ | 133 |
| ملحدین و زندیقین کی بُرائی اور ان سے دور رہنے کا حکم | | | |
| 392 | 2 | وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا (نساء: 89) ملحدین و زندیقین سے دوستی حرام ہے۔ | 134 |
| 431 | 2 | وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (نساء: 115) اجماع امت کی پیروی ترک کرنے والے گمراہ و جہنمی ہیں۔ | 135 |
| 458 | 2 | فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴿۱۴۰﴾ (نساء: 140) بد مذہبوں سے مجالست حرام ہے۔ | 136 |
| 59 | 3 | وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (انعام: 68) بد مذہب لوگوں کے پاس بیٹھنے کی بُرائی حدیث سے۔ | 137 |
| 60 | 3 | بد مذہب لوگوں کی کتابیں پڑھنا اور انکی ویب سائٹس کا دیکھنا بھی حرام ہے الا یہ کہ رد کے لیے دیکھا جائے۔ | 138 |
| 99 | 3 | عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ (انعام: 112) شیاطین کس طرح انسانوں میں سے اپنے ساتھی پیدا کرتے ہیں؟ | 139 |
| 139 | 3 | إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴿۱۵۹﴾ (انعام: 159) | 140 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 140 | دین میں تفرقہ ڈالنے والوں کی مذمت حدیث سے۔ | 3 | 139 |
| 141 | وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (انعام: 21) جھوٹی حدیث گھڑنا اللہ رب العزت پر افتراء عظیم ہے۔ | 3 | 20 |
| 142 | اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ (براءت: 31) انبیاء و اولیاء کی محبت میں غلو کی بُرائی۔ | 3 | 421 |
| 143 | اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۰۷﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴿۱۰۸﴾ (براءت: 107، 108) منافقین کی تیار کردہ مسجد کو ضرر قرار دے کر گرا دیا گیا۔ | 3 | 503 |
| 14 | طہرین کو شعائرِ اسلامیہ کے استعمال کی اجازت نہیں دی جاسکتی | 3 | 503 |
| 145 | وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۹۷﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴿۹۸﴾ (ہود: 97، 98) ہر گمراہی کا موجد اپنے پیروکاروں کو ساتھ لیکر جہنم میں جائے گا۔ | 3 | 664 |
| 146 | وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴿۱۱۳﴾ (ہود: 113) بد عقیدہ لوگوں سے دور رہنے کا حکم حدیث سے۔ | 3 | 671 |
| 147 | فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (مومنون: 53) فرقہ پرستی کا رد اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت۔ | 5 | 25 |
| 148 | يُوَيْلِي لِيَتَّبِعَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿۲۸﴾ (فرقان: 28) گمراہ لوگوں کی دوستی سے دور رہنا لازم ہے۔ | 5 | 148 |
| 149 | كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۵﴾ (شعراء: 105) دین کے کسی ایک حصہ سے انکار سارے دین سے انکار ہے قوم نوح نے ایک رسول کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلایا۔ | 5 | 201 |
| 150 | مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ﴿۳۲﴾ (روم: 32) | 5 | 404 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 150 | دین میں تفرقہ پیدا کرنے والے کون ہیں اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ | 5 | 404 |
| 151 | وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (مومن: 28) اگر کسی کی قوم گمراہ ہے اور اسے معرفت حق ملی ہے تو اسے حق کا ساتھ دینا چاہیے اپنی قوم کا نہیں۔ | 6 | 196 |
| 152 | أَنْ أَقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (شوری: 13) دین میں تفرقہ بازی کیسے جنم لیتی ہے؟ | 6 | 273 |
| 153 | لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (مجادلہ: 22) جن لوگوں کے عقائد اللہ و رسول کی صریح مخالفت پر مبنی ہیں ان سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں، خواہ وہ والدین، اولاد، بھائی یا قریبی ہوں۔ | 7 | 21 |
| 154 | إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْعَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (ممتحنہ: 4) حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنے قریبیوں سے قطع تعلق کر لیا۔ کیونکہ ان کے عقائد کفر و شرک پہ مبنی تھے۔ | 7 | 60 |

القرآن

- ☆ قرآن کریم کی خصوصیات۔
- ☆ قرآن کریم کی مثال لانا ممکن نہیں۔
- ☆ قرآن کریم سب سے پُر تاثیر کتاب ہے۔
- ☆ قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے۔
- ☆ قرآن کریم پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے۔
- ☆ قرآن کریم کی زبان صرف عربی ہے۔
- ☆ قرآن کریم سب سے آخری کتاب ہدایت ہے۔
- ☆ قرآنی پیش گوئیاں جو حرف بحرف پوری ہوئیں۔
- ☆ قرآنی سورتوں اور بعض آیات کے انفرادی فضائل۔
- ☆ قرآن کریم کا سائنسی علوم کے حصول پر زور دینا۔
- ☆ قرآن کریم کے سائنسی انکشافات۔
- ☆ قرآن کریم اور طب۔
- ☆ حقوق قرآن کریم۔
- ☆ آداب تلاوت قرآن کریم۔
- ☆ بعض فضائل قرآن کریم۔
- ☆ تورات، زبور اور انجیل کے احوال۔
- ☆ تورات و انجیل میں کی جانے والی تحریفات۔

تفسیر برہان القرآن

جلد ہشتم

القرآن

قرآن کریم کی خصوصیات

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| | | پہلی خصوصیت: قرآن کریم کی مثل ممکن نہیں | |
| 162 | 1 | فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ^(بقرہ: 23) تمام جن وانس مل کر قرآن جیسی ایک آیت نہیں لاسکتے۔ | 1 |
| 163 | 1 | قرآن لازوال معجزہ محمدی ہے۔ | 2 |
| 584 | 6 | فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ^(طور: 34) قرآن کی مثل کالانا ممکن ہے۔ | 3 |
| 391 | 1 | وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ^(بقرہ: 179) قرآن کریم کی بے مثال فصاحت۔ | 4 |
| 561 | 3 | قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللّٰهِ ^(یونس: 38) قرآن کی ایک آیت کی مثل آیت لانا ممکن نہیں۔ | 5 |
| 562 | 3 | قرآن رسول اللہ ﷺ کا زندہ و لازوال معجزہ ہے۔ | 6 |
| 615 | 3 | قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللّٰهِ ^(ہود: 13) تمام جن وانس مل کر قرآن کریم جیسی آیت نہیں لاسکتے۔ | 7 |
| 386 | 4 | قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ^(بنی اسرائیل: 88) | 8 |
| | | دوسری خصوصیت: قرآن کریم سب سے پُر تاثیر اور پُر شفا کتاب ہے | |
| 629 | 2 | وَ اِذَا سَبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اِلٰی الرَّسُوْلِ تَرٰی اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ ^(مائدہ: 83) سعید روہیں قرآن سن کر لرز اٹھتی ہیں۔ | 9 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 10 | وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَبِعُ إِلَيْكَ ۗ (انعام: 25) قرآن کو جس نیت سے سنا جائے وہی تاثیر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ | 3 | 22 |
| 11 | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (انفال: 2) قرآن کریم کا دلوں پر اثر انداز ہونا۔ | 3 | 316 |
| 12 | وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (یونس: 57) | 3 | 570 |
| 13 | لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ (نحل: 102) | 4 | 275 |
| 14 | إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (بنی اسرائیل: 9) | 4 | 324 |
| 15 | إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ (بنی اسرائیل: 107) یہ تاثیر قرآن ہے کہ آج بھی کئی عیسائی قرآن سن کر رونے لگتے اور ایمان لے آتے ہیں۔ | 4 | 397 |
| 16 | كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ۚ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (زمر: 23) قرآن کریم کا دلوں پر اثر کرنا۔ | 6 | 130 |
| 17 | قرآن سن کر بعض لوگوں کا محفل میں بے ہوش ہو جانا بناوٹ ہے بقول امام قرطبی۔ | 6 | 131 |
| 18 | إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ (جن: 1، 2) جنات نے قرآن سنا تو ایمان لے آئے، اس میں انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ | 7 | 229 |
| تیسری خصوصیت: قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے | | | |
| 19 | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ (حجر: 9) حفاظت قرآن کے چار اسباب۔ | 4 | 174 |
| 20 | اول۔ اسکی زبان صرف عربی ہے۔ | 4 | 174 |
| 21 | دوم۔ حفظ قرآن کا آسان ہونا۔ | 4 | 174 |
| 22 | سوم۔ کتابت قرآن اور کردار خلفاء راشدین۔ | 4 | 174 |
| 23 | چہارم۔ نماز تراویح باجماعت کا اجراء۔ | 4 | 174 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 176 | 4 | نماز تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بدعت عمر نہیں۔ | 24 |
| 221 | 5 | وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُونَ ﴿٢١٢﴾ (شعراء: 210-212) شیاطین اس جیسا ایک لفظ نہیں بنا سکتے بلکہ وہ اسے سن بھی نہیں سکتے، اللہ نے نزول قرآن کے وقت پہرے بٹھار کھے تھے۔ | 25 |
| 249 | 1 | ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ (بقرہ: 75) قرآن میں تحریف ماننے والوں کا رد۔ | 26 |
| 561 | 1 | ثُمَّ بَعَثْنَا (بقرہ: 259) قرآن محفوظ ترین کتاب ہے (حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات کے احیاء کے لیے زندہ کیا گیا، مگر قرآن مٹ نہیں سکتا۔) | 27 |
| 93 | 2 | يَلُونِ السِّنْتَهُمْ بِالْكِتَابِ (آل عمران: 78) قرآن کا تحریف سے پاک ہونا۔ | 28 |
| 586 | 2 | بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ (مائدہ: 44) تورات کی حفاظت علماء یہود کے ذمے رکھی گئی۔ | 29 |
| 101 | 3 | لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ﴿١١٥﴾ (انعام: 115) (کہف: 27) اب قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ | 30 |
| 545 | 3 | أَنْتَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴿١٥﴾ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ﴿١٥﴾ (یونس: 15) جب خود صاحب قرآن رسول اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن میں جو نسخ ہوا حکم ربی سے عہد نبوی میں ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا۔ | 31 |
| | | چوتھی خصوصیت: قرآن کریم کو پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|---|-----|-----------|
| 32 | هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ (آل عمران: 138) قرآن تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے۔ | 2 | 160 |
| 33 | فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ (انعام: 157) قرآن ساری نسل انسانی کے لیے دلیل بنایا گیا ہے۔ | 3 | 137 |
| 34 | وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (آل عمران: 103) قرآن کا مفہوم اللہ کی رسی ہونا حدیث سے۔ | 2 | 119 |
| 35 | يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ (يونس: 57) قرآن کی نصیحت عالمگیر اور تاقیامت ہے۔ | 3 | 570 |
| 36 | إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ (يوسف: 104) قرآن عالمگیر کتاب ہدایت ہے۔ | 4 | 85 |
| 37 | هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ (ابراہیم: 52) قرآن رہتی دنیا تک تمام نسل انسانی کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ | 4 | 168 |
| 38 | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ (بقرہ: 185) | 1 | 402 |
| 39 | وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ (سجدہ: 23) تورات پر قرآن کی برتری۔ | 5 | 464 |
| پانچویں خصوصیت: قرآن کریم کی زبان صرف عربی ہے | | | |
| 40 | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ (يوسف: 2) قرآن کی زبان ایک ہی کیوں رکھی گئی؟ | 4 | 3 |
| 41 | غیر عربی میں قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ | 4 | 3 |
| 42 | عربی زبان کی فضیلت۔ | 4 | 4 |
| 43 | وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا (طہ: 113) قرآن کریم کو بار بار عربی کہنا دراصل اہل عرب کے لیے چیلنج ہے۔ | 4 | 571 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 123 | 4 | وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا (رعد: 37) | 44 |
| 218 | 5 | بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ (شعراء: 195) قرآن کو غیر عربی میں نہیں پڑھا جاسکتا۔ | 45 |
| | | چھٹی خصوصیت: قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے | |
| 79 | 6 | ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ (س: 1) قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور قرآن کو سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا یعنی زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ | 46 |
| 131 | 6 | كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا ﴿٢٣﴾ (زمر: 23) قرآن کا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جانا۔ | 47 |
| 201 | 4 | وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي (حجر: 87) | 48 |
| | | ساتویں خصوصیت: عظمتِ حاملینِ قرآن | |
| 271 | 1 | إِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ (بقرہ: 97) تزیلِ قرآن کو حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے وجہِ عظمت بتایا گیا۔ | 49 |
| 571 | 3 | هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ (یونس: 58) علمِ قرآن کامل جانا ہر نعمت کے ملنے سے عظیم تر ہے۔ | 50 |
| 571 | 3 | حاملینِ قرآن کی فضیلت حدیث سے۔ | 51 |
| 572 | 3 | فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴿٥٨﴾ (یونس: 58) حصولِ قرآن پر خوشی کرنی چاہیے (جشنِ نزولِ قرآن، جشنِ حفظِ قرآن وغیر)۔ | 52 |
| 327 | 7 | بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٦﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٥﴾ (ص: 15, 16) حاملینِ قرآن کی فضیلت۔ | 53 |
| | | آٹھویں خصوصیت: قرآن کریم سب سے آخری کتابِ ہدایت ہے | |
| 593 | 2 | وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ | 54 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 54 | مُهِينًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (مائدہ: 48) قرآن اللہ کی آخری کتاب اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ | 2 | 593 |
| 55 | وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ (انعام: 115) | 2 | 593 |
| 56 | وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (يونس: 37) | 3 | 101 |
| 57 | أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثَلِّي عَلَيْهِمْ (عنكبوت: 51) قرآن ہدایت کے لیے کافی وافی کتاب ہے اسکے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ | 5 | 371 |
| 58 | كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ﴿٥٨﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿٥٩﴾ (مذثر: 54، 55) (عبس: 12) قرآن تا قیامت ہدایت و نصیحت ہے۔ اسکے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں یہ دلیل ختم نبوت بھی ہے۔ | 7 | 267 |
| 59 | قرآن کا تا قیامت آنے والوں کیلئے ہدایت ہونا اور دلیل ختم نبوت۔ | 7 | 326 |
| قرآنی بیسی گونیاں جو حرف بحرف پوری ہوئیں | | | |
| 60 | وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ (مائدہ: 67) ہزار ہا حملوں کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے وعدہ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا اور آپ نے طبعی عمر پوری فرمائی اور دین کو غالب کر کے فرمایا۔ | 2 | 617 |
| 61 | وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ (يونس: 40) کفار مکہ کچھ ایمان لائیں گے کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی ہوا۔ | 3 | 562 |
| 62 | وَأَمَّا نُرِّيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ (يونس: 46) (رعد: 40) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غلبہ اسلام کا وعدہ پورا ہوا۔ | 3 | 565 |
| 63 | فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ آيَةً (يونس: 92) فرعون کی لاش کا محفوظ دستیاب ہونا صداقت قرآن کی دلیل ٹھہرا۔ | 3 | 593 |
| 64 | وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (نور: 55) | 5 | 109 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------------------|--|-----|-----------|
| 64 | خلافتِ راشدہ کے قیام کی پیش گوئی پوری آب و تاب سے پوری ہوئی۔ | 5 | 109 |
| 65 | الْمَلَّةُ غَلَبَتِ الرُّومَ ۝ فِي آذُنِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝ (روم: 41) | 5 | 387 |
| 66 | لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ ۗ (فتح: 27) | 6 | 485 |
| 67 | سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ۝ (قمر: 45) | 6 | 635 |
| 68 | عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۗ (ممتحنہ: 7) | 7 | 64 |
| 69 | لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝ (انشقاق: 19) | 7 | 362 |
| 70 | إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ (نصر: 1، 2) | 7 | 563 |
| تلاوتِ قرآن کے آداب | | | |
| 71 | يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ (بقرة: 121) | 1 | 306 |
| 72 | فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ۗ (بقرة: 97) | 1 | 271 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 309 | 3 | وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (اعراف: 204) بہت سے لوگوں کا مل کر بلند آواز سے قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ | 73 |
| 309 | 3 | مقتدی کو امام کے پیچھے تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ | 74 |
| 274 | 4 | فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾ (نحل: 98) تلاوت کے وقت استعاذہ کے چند احکام۔ | 75 |
| 397 | 4 | لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ (بنی اسرائیل: 106) قرآن کو اس قدر ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ضروری ہے۔ اور اتنا تیز پڑھنا کہ حروف کے محارج و صفات لازمہ ادا نہ ہوں، حرام ہے۔ | 76 |
| 399 | 4 | وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا (بنی اسرائیل: 110) نماز میں قرآن نہ بہت بلند پڑھا جائے کہ خلاف خشوع ہو اور نہ اتنا آہستہ کہ سنائی نہ دے۔ | 77 |
| 522 | 4 | مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿۲﴾ (طہ: 2) قرآن کی وجہ سے کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ شبینہ قرآن کی اذیت ناک رسم۔ | 78 |
| 572 | 4 | وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿۱۱۴﴾ (طہ: 114) تلاوت قرآن کے وقت خاموشی سے سننا لازم ہے۔ | 79 |
| 591 | 4 | إِلَّا اسْتَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۲﴾ (انبیاء: 2) قرآن کو غفلت سے سننا طریقہ کفار ہے۔ | 80 |
| 217 | 5 | نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (شعراء: 193، 194) اس جگہ کلبک پڑھنے سے کفری معنی بن جاتا ہے حالانکہ اکثر پڑھنے والے ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ | 81 |
| 421 | 6 | فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ﴿۲۹﴾ (احقاف: 29) جب جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تو باہم کہا خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو، تو قرآن کریم کو خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ | 82 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--|-----|---|-----------|
| 421 | 6 | فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ (احقاف: 29) جنات قرآن سن کر اپنی قوم میں گئے تو انہیں قرآن پہنچایا۔ تو یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ اسے سن کر آگے پہنچایا جائے۔ | 83 |
| 246 | 7 | وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ (مزل: 4) ترتیل قرآن اور اسکے تقاضے۔ | 84 |
| 273 | 7 | لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ (قیامہ: 16-18) جب استاذ قرآن پڑھے تو شاگرد صرف نے ساتھ نہ پڑھے بلکہ بعد میں پڑھے۔ | 85 |
| 273 | 7 | یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا خاموشی سے سننا لازم ہے، خواہ وہ نماز میں سورہ فاتحہ یا اور کوئی دوسری سورت ہو۔ | 86 |
| سورہ و آیات قرآن کے انفرادی فضائل | | | |
| 98 | 1 | سورۃ الفاتحہ کا تعارف اور فضائل۔ | 87 |
| 120 | 1 | آمین کہنے کی فضیلت۔ | 88 |
| 122 | 1 | سورۃ البقرہ کے فضائل۔ | 89 |
| 124 | 1 | سورۃ البقرہ کی خصوصیات۔ | 90 |
| 126 | 1 | حروف مقطعات کی حقیقت کے بارے میں اقوال۔ | 91 |
| 127 | 1 | حروف مقطعات اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین راز ہے، ائمہ دین کے اقوال کی روشنی میں۔ | 92 |
| 128 | 1 | حروف مقطعات کے قرآن میں رکھے جانے کی حکمتیں۔ | 93 |
| 129 | 1 | ایمان بالقرآن اور عقیدہ عدم تحریف قرآن۔ | 94 |
| 143 | 1 | بعض دلوں پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ | 95 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 546 | 1 | آیت الکرسی کی فضیلت۔ | 96 |
| 596 | 1 | وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ (بقرہ: 281) قرآن میں نازل ہونے والی سب سے آخری آیت۔ | 97 |
| 612 | 1 | سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت۔ | 98 |
| 2 | 2 | سورہ آل عمران کی فضیلت۔ | 99 |
| 22 | 2 | شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ (آل عمران: 18) آیت کی فضیلت۔ | 100 |
| 159 | 2 | وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً (آل عمران: 135) اس آیت کی فضیلت۔ | 101 |
| 241 | 2 | سورہ نساء کی فضیلت۔ | 102 |
| 144 | 3 | سورہ اعراف کی فضیلت | 103 |
| 1 | 3 | سورہ انعام کی فضیلت۔ | 104 |
| 6 | 3 | سورہ انعام کی پہلی تین آیات کی فضیلت۔ | 105 |
| 530 | 3 | سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی سے قرآن میں لکھا جاتا۔ | 106 |
| 533 | 3 | رایات سورتوں کی فضیلت۔ | 107 |
| 604 | 3 | سورہ ہود کی فضیلت۔ | 108 |
| 2 | 4 | سورہ یوسف کی فضیلت۔ | 109 |
| 90 | 4 | سورہ رعد کی فضیلت۔ | 110 |
| 202 | 4 | وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ (حجر: 87) سبع مثنیٰ کی مختلف تفاسیر۔ | 111 |
| 269 | 4 | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (محل: 90) اس آیت کی فضیلت۔ | 112 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 400 | 4 | سورہ کہف کی فضیلت۔ | 113 |
| 473 | 4 | سورہ مریم کی فضیلت۔ | 114 |
| 519 | 4 | سورہ طہ کی فضیلت۔ | 115 |
| 587 | 4 | سورہ انبیاء کی فضیلت۔ | 116 |
| 1 | 5 | سورہ مومنوں کی پہلی دس آیات کی فضیلت۔ | 117 |
| 43 | 5 | سورہ مومنوں کی آخری چار آیات کی فضیلت۔ | 118 |
| 45 | 5 | سورہ نور کی فضیلت۔ | 119 |
| 171 | 5 | طواسین سورتوں کی فضیلت۔ | 120 |
| 449 | 5 | سورہ السجدہ کی فضیلت۔ | 121 |
| 1 | 6 | سورہ یاسین کی فضیلت۔ | 122 |
| 170 | 6 | سورہ غافر (سورہ مومن) کی فضیلت۔ | 123 |
| 173 | 6 | سورہ غافر کی پہلی تین آیات کی فضیلت۔ | 124 |
| 221 | 6 | سورہ حم سجدہ کی فضیلت۔ | 125 |
| 351 | 6 | سورہ دخان کی فضیلت۔ | 126 |
| 451 | 6 | سورہ فتح کی فضیلت۔ | 127 |
| 538 | 6 | سورہ ق کی فضیلت۔ | 128 |
| 538 | 6 | حزب مفصل سورتوں کی فضیلت۔ | 129 |
| 589 | 6 | سورہ نجم کی فضیلت۔ | 130 |
| 621 | 6 | سورہ قمر کی فضیلت۔ | 131 |
| 638 | 6 | سورہ رحمان کی فضیلت۔ | 132 |
| 54 | 7 | سورہ حشر کی آخری تین آیات کی فضیلت۔ | 133 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 128 | 7 | سورہ طلاق کی آیت 3 کی عظیم فضیلت۔ | 134 |
| 157 | 7 | سورہ ملک کی فضیلت۔ | 135 |
| 269 | 7 | سورہ القیامہ کی فضیلت۔ | 136 |
| 364 | 7 | سورہ بروج اور سورہ طارق کی فضیلت۔ | 137 |
| 380 | 7 | سورہ اعلیٰ کی فضیلت۔ | 138 |
| 388 | 7 | سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کی فضیلت۔ | 139 |
| 415 | 7 | سورہ الشمس کی فضیلت۔ | 140 |
| 421 | 7 | سورہ اللیل کی فضیلت۔ | 141 |
| 503 | 7 | سورہ زلزال کی فضیلت۔ | 142 |
| 509 | 7 | سورہ العادیات کی فضیلت۔ | 143 |
| 516 | 7 | سورہ التکاثر کی فضیلت۔ | 144 |
| 521 | 7 | سورہ العصر کی فضیلت۔ | 145 |
| 556 | 7 | سورہ الکافرون کی فضیلت۔ | 146 |
| 571 | 7 | سورہ الاخلاص کی فضیلت۔ | 147 |
| 576 | 7 | معوذتین کی فضیلت۔ | 148 |
| | | قرآن اور سائنس | |
| 175 | 1 | وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ: 31) سائنسی علوم کی افادیت۔ | 149 |
| 234 | 2 | وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (آل عمران: 191) نظام کائنات میں فکر کرنے کی فضیلت۔ | 150 |
| 234 | 2 | قرآن سائنسی انکشافات کی ترغیب دیتا ہے۔ | 151 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 152 | أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ (اعراف: 185) کائناتِ ارضی و سماوی میں غور و فکر کی دعوت اور علوم سائنس۔ | 3 | 294 |
| 153 | قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ^ط (یونس: 101) قرآن سائنسی علوم کی تحصیل پر زور دیتا ہے۔ | 3 | 599 |
| 154 | وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ^ق (یوسف: 105) قرآن علوم سائنس کے حصول کی ترغیب دلاتا ہے۔ | 4 | 85 |
| 155 | وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ (رعد: 13) بادلوں کی گرج چمک کے بارے میں سائنسی نظریہ اور احادیث میں مطابقت۔ | 4 | 102 |
| 156 | إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ^ط وَفِي خَلْقِكُمْ (جاثیہ: 3، 4) سائنسی علوم کا پڑھنا منشاء قرآن ہے اور بعض مسلم سائنسدانوں کا ذکر۔ | 6 | 373 |
| 157 | الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ^ق (رحمان: 5) شمس و قمر جس حسب پر چل رہے ہیں اسکا سمجھنا ضروری ہے تاکہ رمضان و عید اور اوقاتِ صلاۃ کا صحیح تعین کیا جاسکے۔ تو قرآن علم فلکیات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ | 6 | 641 |
| قرآن اور سائنسی انکشافات | | | |
| رحم مادر میں انسانی تخلیق کے مراحل | | | |
| 158 | فَاتَا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (حج: 5) رحم مادر میں نطفہ سے انسان کیسے بنتا ہے؟ اسکے مراحل حدیث سے۔ یہ تفصیل سائنس پر آج منکشف ہوئی ہے قرآن و سنت نے آج سے چودہ صدیاں پہلے بتادی تھی جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ | 4 | 650 |
| 159 | ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ^ط فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ | 5 | 12 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 159 | الْخَلْقَيْنِ ﴿۱۴﴾ (مومنون: 14) | 5 | 12 |
| 160 | هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾ (مومن: 67) | 6 | 214 |
| بگ بینگ تھیوری | | | |
| 161 | أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (انبیاء: 30) | 4 | 603 |
| زمین و آسمان پہلے ایک ہی چیز تھے پھر پھٹ کر جدا ہوئے۔ یہی بگ بینگ تھیوری ہے جو سائنس آج بتا رہی ہے اور قرآن نے چودہ صدیاں پہلے بتادی تھی۔ 1927ء میں سائنس دان جوز جیمپٹری نے یہ تھیوری سب سے پہلے پیش کی۔ | | | |
| 162 | ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (احم سجدہ: 11) | 6 | 235 |
| آسمان کا پہلے ایک گیس ہونا بھی بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ ہے۔ | | | |
| شمس و قمر اور دیگر سیاروں کا اپنے مداروں میں گھومنا | | | |
| 163 | وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (انبیاء: 33) | 4 | 605 |
| فلسفہ قدیمہ کہتا تھا کہ سیارے اپنے اپنے فلک میں لگے ہوئے ہیں اور افلاک گھومتے ہیں قرآن نے بتایا کہ وہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ سائنس کو یہ بات بعد میں معلوم ہوئی بلکہ قرآن سے معلوم ہوئی۔ | | | |
| 164 | وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۴۰﴾ (یس: 40) | 6 | 16 |
| زمین کے اندر گیلی مٹی کی تہہ کا ہونا | | | |
| 165 | لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَاتَحْتَ الثَّرَىٰ ﴿۶﴾ (طہ: 6) | 4 | 523 |
| ثریٰ وہ گیلی مٹی کی تہہ ہے جس سے چشموں، کنوؤں اور نلکوں میں پانی آتا ہے۔ اس تہہ کے نیچے کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اس تہہ کی خبر قرآن نے دی۔ | | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | دو سمندروں کا باہم ملنا اور خلط نہ ہونا | | |
| 166 | مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ (رحمان: 19، 20) دنیا میں کئی جگہ دو سمندر باہم ملتے ہیں ایک کھاری ایک، میٹھا مگر باہم خلط نہیں ہوتے۔ یہ خبر سب سے پہلے قرآن نے دی آج سائنس بھی تصدیق کر رہی ہے۔ | 6 | 645 |
| | زمین کا گول ہونا | | |
| 167 | فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ (معارج: 40) زمین اپنی گولائی میں تین سو ساٹھ ڈگریوں میں منقسم ہے۔ اور ہر ڈگری پر سورج کا نسیا مشرق اور نیا مغرب ہوتا ہے تو 360 مشارق اور مغارب ہیں۔ تو زمین کے گول ہونے کی حقیقت قرآن نے چودہ صدیاں پہلے بیان فرمائی۔ | 7 | 214 |
| | زمین پر خشکی و تری میں پہاڑوں کے رکھے جانے کا فلسفہ | | |
| 168 | وَالْقُلُوبِ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ (لقمان: 10) زمین پر پہاڑ رکھے گئے کیونکہ سمندروں میں مد و جزر کی وجہ سے آنے والے تغیرات زمین میں زلزلے لاتے رہتے اگر پہاڑ نہ ہوتے، یہ سائنسی علم قرآن نے اس وقت دیا جب اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ | 5 | 432 |
| | لوہا آسمان سے اترتا ہے (اسکے اجزاء بارش کے ساتھ اترتے ہیں) | | |
| 169 | وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ (حدید: 25) بارش کے ذریعے لوہے کے اجزاء پہاڑوں پر اترتے اور ان میں جذب ہو جاتے ہیں پتھروں کو رگڑ کر ان سے فولادی اجزاء الگ کیے جاتے ہیں۔ | 6 | 703 |
| | قرآن اور علم طب | | |
| 170 | وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (اعراف: 31) بسیار خوری کی مذمت قرآن اور حدیث سے۔ | 3 | 170 |
| 171 | لَبَنًا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّرْبِ ﴿٦٦﴾ (نحل: 66) | 3 | 243 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 172 | دودھ کی افادیت اور انسان کی نشوونما میں دودھ کا کردار۔ | 3 | 243 |
| 173 | دودھ علامتِ فطرت ہے، حدیث کی روشنی میں۔ | 3 | 243 |
| 174 | يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ (نحل: 69) شہد کے شفا بخش ہونے پر احادیث۔ | 3 | 251 |
| 175 | فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ (نحل: 115) جان بچانے کے لیے حرام دوا کا استعمال جائز ہے۔ | 4 | 286 |
| 176 | کسی کی جان بچانے کیلئے اعضا کی پیوند کاری مشروط طور پر جائز ہے۔ | 4 | 286 |
| 177 | اعضا کی پیوند کاری کے جواز کے لیے چند شرائط۔ | 4 | 288 |
| 178 | پیوند کاری اعضا کی حلت پر چند شبہات کا ازالہ۔ | 4 | 289 |
| 179 | مِنْ شَجَرَةٍ مَبْرُكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ (نور: 35) درخت زیتون کی برکت و افادیت۔ | 5 | 96 |
| 180 | وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴿٨٠﴾ (شعراء: 80) ہر شفاء من جانب اللہ ہے لہذا بھروسہ دوا پر نہیں خالق دواء پر ہونا چاہیے۔ | 5 | 195 |
| قرآن کریم کے حقوق | | | |
| بہا حق: اس کے ہر حرف پر ایمان رکھنا | | | |
| 181 | ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ (بقرہ: 2) | 1 | 126 |
| 182 | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ (حجر: 9) | 4 | 173 |
| 183 | تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ (سجدہ: 2) | 5 | 450 |
| دوسرا حق: اسکی تلاوت کرنا | | | |
| 184 | الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ (بقرہ: 121) | 1 | 304 |
| 185 | إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (آل عمران: 164) | 2 | 197 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 186 | إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ | 5 | 635 |
| | (فاطر: 29) | | |
| | تیسرا حق: اس پر عمل کرنا | | |
| 187 | وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ (انعام: 155) | 3 | 137 |
| 188 | وَالَّذِينَ يُسْكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (اعراف: 170) | 3 | 280 |
| 189 | إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (انفال: 2) | 3 | 316 |
| | چوتھا حق: اسے دوسروں تک پہنچانا | | |
| 190 | كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (ابراہیم: 1) | 4 | 131 |
| 191 | وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ (نحل: 64) | 4 | 240 |
| 192 | وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (انعام: 19) | 3 | 14 |
| | پانچواں حق: قرآن میں تدبیر اور غور و فکر کرنا | | |
| 193 | إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (یوسف: 2) | 4 | 3 |
| 194 | أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (سورہ محمد: 24) | 6 | 443 |
| 195 | كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ (ص: 29) | 6 | 91 |
| | چھٹا حق: قرآن کو خاموشی اور غور سے سنا اور چربنا | | |
| 196 | وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (اعراف: 204) | 3 | 309 |
| 197 | وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ (الحج سجدہ: 26) | 6 | 244 |
| 198 | فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا (احقاف: 29) | 6 | 418 |
| | ساتواں حق: قرآن کو بے وضوء باتھنہ لگانا اور اونچی جگہ رکھنا | | |
| 199 | لَا يَمَسُّهَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (واقعة: 79) | 6 | 671 |
| 200 | فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ (بئس: 13، 14) | 7 | 326 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 201 | رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مَّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ (بنیہ: 2) | 7 | 495 |
| | تورات و انجیل و زبور | | |
| 202 | وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ (آل عمران: 3) | 2 | 5 |
| | آنزل اور نزل میں فرق؟ | | |
| 203 | يَلُونُ السِّتْرَهُمُ بِالْكِتَابِ (آل عمران: 78) | 2 | 92 |
| | تورات و انجیل میں یہود و نصاریٰ کا اختلاف۔ | | |
| 204 | إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴿٤٤﴾ (مائدہ: 44) | 2 | 585 |
| | تورات و انجیل کی فضیلت۔ | | |
| 205 | وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَ هَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذَكَرْنَا لِلْمُتَّقِينَ (انبیاء: 48) | 4 | 612 |
| 206 | وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾ (انبیاء: 105) | 4 | 640 |
| 207 | وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ (نساء: 163) | 2 | 485 |
| 208 | وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ (سجدہ: 23) | 5 | 463 |
| | تورات و انجیل میں کی جانے والی تحریفات | | |
| 209 | فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۖ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (بقرہ: 79) | 1 | 248 |
| | رسول اللہ ﷺ کے حلیہ مبارکہ کا تورات میں بدلا جانا۔ | | |
| 210 | مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (نساء: 46) | 2 | 333 |
| 211 | فَصَبْرٌ جَبِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ (یوسف: 18) | 4 | 16 |
| | تورات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے خبری کا جھوٹا واقعہ۔ | | |
| 212 | فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۗ (اعراف: 83) | 3 | 210 |
| | تورات میں حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ شراب کے نشے میں بدکاری | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|------------------------------------|-----|---|-----------|
| 210 | 3 | کرنے اور انکے حاملہ ہونے اور زنا کے بچے جننے کا حیا سوز من گھڑت واقعہ۔ | 212 |
| 560 | 4 | وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ (طہ: 90) حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پرستی سے روکا اور دعوتِ توحید دی، مگر تورات میں ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بچھڑا بنا کر دیا۔ (معاذ اللہ) | 213 |
| قرآن کریم کے گونا گوں فضائل | | | |
| 376 | 4 | وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (بنی اسرائیل: 78) تلاوتِ قرآن نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ | 214 |
| 375 | 4 | نماز فجر میں قرآن سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ | 215 |
| 380 | 4 | وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (بنی اسرائیل: 82) قرآنی آیات کے تعویذات کے لکھنے اور لٹکانے کا جواز احادیث سے۔ | 216 |
| 382 | 4 | تعویذ لکھنے کے جواز پر غیر مقلد علماء کے اقوال۔ | 217 |
| 385 | 4 | وَلَيْنُ شِئْنَا لَنذَهِبَنَّ بِالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ (بنی اسرائیل: 86) قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی اعلیٰ دلیل۔ | 218 |
| 403 | 4 | وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَبِيْمًا (کہف: 2) قرآن میں کوئی تعارض نہیں، کوئی بات خلاف واقعہ و خلاف عقل نہیں۔ | 219 |
| 149 | 5 | وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَرْبِ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا (فرقان: 30) معلوم ہو اور روزِ قیامت کی کامیابی قرآن سے وابستگی میں ہے۔ | 220 |
| 150 | 5 | وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُوْرٌ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمَّلَةً وَّ اَحَدًا (فرقان: 32) قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمتیں۔ | 221 |
| 630 | 6 | وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدْكِرٍ (قر: 22) قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا گیا ہے۔ بچہ بچہ حافظِ قرآن ہے۔ یہ شان کسی اور کتاب کی | 222 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 630 | 6 | نہیں ہے۔ | 222 |
| 249 | 7 | إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ (مزل: 5) قرآن کو قَوْلًا ثَقِيلًا کیوں فرمایا گیا؟ | 223 |
| 289 | 7 | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾ (دھر: 23) قرآن کریم کو بتدریج نازل کر کے اتارے جانے کے اسباب۔ | 224 |
| 398 | 7 | وَالشَّفَعِ وَالْوَثْرِ ﴿٣﴾ (نجر: 3) قرآن کریم میں اواخر آیات کی رعایت۔ | 225 |

العبادات

✿ طہارت (وضوء، غسل، تیمم)

✿ نماز

○ اہمیت و فرضیت۔

○ نماز باجماعت کا وجوب۔

○ مسجد کی اہمیت و حرمت۔

○ نماز کے اہم مسائل۔

○ نماز جمعہ۔

○ صلوٰۃ المسافر۔

○ صلوٰۃ الخوف۔

○ نماز تہجد۔

○ نماز اشراق۔

✿ زکوٰۃ

✿ روزہ

○ تراویح

○ اعتکاف

✿ حج بیت اللہ

○ ارکان حج۔

○ احکام احرام۔

✿ دُعاء و ذکر

الطہارۃ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | وضوء کے احکام | | |
| 1 | إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ (مائدہ: 6) | 2 | 529 |
| | وضوء کے فرائض سنتیں، مستحبات اور نواقض۔ | | |
| 2 | اہل تشیع کا وضوء میں پاؤں پر مسح کرنا اور اس کا بطلان۔ | 2 | 530 |
| 3 | نیل پالش کی موجودگی میں وضوء یا غسل نہیں ہو سکتا۔ | 2 | 532 |
| 4 | وضوء میں چار چیزوں کے سوا کچھ فرض نہیں۔ | 2 | 533 |
| 5 | وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ (انفال: 11) | 3 | 325 |
| | دریاؤں، نہروں، چشموں کا پانی بے دلیل پاک ہے۔ | | |
| 6 | فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱۰۸﴾ (براعت: 108) | 3 | 506 |
| | اسلام میں طہارت کی اہمیت۔ | | |
| 7 | هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ (محل: 10) | 4 | 213 |
| | نہر، چشمے، کنوئیں اور تالاب میں نجاست کے پڑنے کا حکم۔ | | |
| 8 | مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا (محل: 80) | 4 | 263 |
| | چمڑہ رنگ لینے سے پاک ہو جاتا ہے، خواہ وہ حلال جانور کا ہو یا حرام کا، احادیث کی روشنی میں، سوا خنزیر کے۔ | | |
| 9 | وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿۴۸﴾ (فرقان: 48) | 5 | 158 |
| | کونسا پانی طہور ہے جس سے وضوء و غسل جائز ہے۔ | | |
| 10 | لَا يَمْسُهَا إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۷۹﴾ (واقعة: 79) | 6 | 672 |
| | قرآن کو بے وضوء پکڑنے کی ممانعت۔ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 11 | کیا جنبی شخص کو کمپیوٹر پر قرآن کریم کے لکھنے کی اجازت ہے؟ | 6 | 673 |
| 12 | قرآنی جلد کے چھونے کے احکام۔ | 6 | 674 |
| | غسل کے احکام | | |
| 13 | وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (نساء: 43) | 2 | 329 |
| 14 | وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطْهَرُوا (مائدہ: 6) وضوء اور غسل کا فلسفہ۔ | 2 | 533 |
| | تیمم کے احکام | | |
| 15 | فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَسَّبُوا (نساء: 43) کس صورت میں تیمم جائز ہے کس صورت میں نہیں۔ | 2 | 331 |
| 16 | وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَى (نساء: 43) محض بیماری پیدا ہونے کے خوف سے تیمم جائز نہیں۔ | 2 | 331 |
| 17 | فَتَيَسَّبُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (نساء: 43) جنس زمین سے تیمم جائز ہے۔ | 2 | 332 |
| 18 | فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (نساء: 43) تیمم کا طریقہ۔ | 2 | 331 |

نماز

| | | اہمیت و فرضیت | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1 | وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (بقرہ: 3) | اقامتِ صلوة کے پانچ تقاضے۔ | 133 |
| 2 | دین اسلام میں نماز کی اہمیت و فرضیت۔ | | 133 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 3 | نماز قائم کرنے کا اجر و ثواب۔ | 1 | 134 |
| 4 | ترک نماز کا گناہ۔ | 1 | 135 |
| 5 | وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِيِّينَ ﴿٤٥﴾ (بقرہ: 45) نماز کو بھاری سمجھنا مومن کا شیوہ نہیں۔ | 1 | 201 |
| 6 | مومن کو نماز سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ | 1 | 201 |
| 7 | حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ﴿٢٣٨﴾ (بقرہ: 238) حفاظت نماز کا حکم۔ | 1 | 513 |
| 8 | نماز عصر کی اہمیت۔ | 1 | 513 |
| 9 | أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ ﴿١١٣﴾ (آل عمران: 113) نماز عشاء کی فضیلت۔ | 2 | 138 |
| 10 | فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴿١٠٢﴾ (نساء: 102) نماز حالت جنگ میں بھی معاف نہیں۔ | 2 | 418 |
| 11 | وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ ﴿١٤٢﴾ (نساء: 142) نماز میں سستی منافقوں کا کام ہے۔ | 2 | 462 |
| 12 | لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ (آمدہ: 12) دین پر عمل کا اولین تقاضا قیامتِ صلوة ہے۔ | 2 | 541 |
| 13 | الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿٤﴾ (انفال: 4,3) نماز کو ایمان کی نشانی بتایا گیا۔ | 3 | 317 |
| 14 | فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿٥﴾ (براءت: 5) نماز و زکوٰۃ کو ایمان کی نشانی قرار دیا گیا۔ | 3 | 397 |
| 15 | فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴿١١﴾ (براءت: 11) | 3 | 401 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 15 | جب کوئی ایمان لا کر نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرے تو وہ مومن ہے۔ گویا نماز ایمان کی کل وقتی نشانی ہے۔ | 3 | 401 |
| 16 | وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (براءت: 71) | 3 | 465 |
| 17 | وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۷﴾ (یونس: 87) نماز سے مشکلیں تلتی ہیں۔ | 3 | 590 |
| 18 | اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (هود: 52) نماز استغناء کی فضیلت۔ | 3 | 640 |
| 19 | إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (هود: 114) نماز کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، احادیث کی روشنی میں۔ | 3 | 672 |
| 20 | وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ (رعد: 22) | 4 | 112 |
| 21 | قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ (ابراہیم: 31) ایمان کا سب سے پہلا تقاضا قیامتِ صلوة ہے۔ | 4 | 156 |
| 22 | رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ﴿۴۰﴾ (ابراہیم: 40) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پابندی نماز کی دعا کی۔ | 4 | 164 |
| 23 | شب معراج پانچ نمازوں کی فرضیت۔ | 4 | 313 |
| 24 | أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (بنی اسرائیل: 78) پانچ نمازوں کی فرضیت۔ | 4 | 374 |
| 25 | وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ (طہ: 130) نماز پنجگانہ کا فلسفہ۔ | 4 | 582 |
| 26 | وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: 132) اہل خانہ و اولاد کو نماز کا پابند کرنے کی تاکید۔ | 4 | 585 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 27 | الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ﴿٢﴾ (مؤمنون: 2) | 5 | 3 |
| | صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نماز میں خشوع۔ | | |
| 28 | بزرگان دین کا نماز میں خشوع۔ | 5 | 5 |
| 29 | نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جاسکتا ہے؟ | 5 | 5 |
| 30 | وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ (مؤمنون: 9) | 5 | 9 |
| 31 | وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (نمل: 3، 2) | 5 | 232 |
| | اہل ایمان کی پہلی نشانی اقامتِ صلوٰۃ بتائی گئی۔ | | |
| 32 | إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٤٥﴾ (عنکبوت: 45) | 5 | 367 |
| | نماز بے حیائی اور بُرے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ | | |
| 33 | لَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴿٤٥﴾ (عنکبوت: 45) | 5 | 366 |
| | اس میں یہ بیان ہے کہ جب بندہ نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اس کا یاد کرنا بڑا ہے حدیث سے وضاحت۔ | | |
| 34 | فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٦﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٧﴾ (روم: 17، 18) | 5 | 393 |
| | پانچ نمازوں کی فرضیت کا بیان اور ان کا فلسفہ۔ | | |
| 35 | نماز پڑھنے والا شخص مشرک نہیں ہو سکتا۔ | 5 | 403 |
| 36 | هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (لقمان: 4، 3) | 5 | 422 |
| | محسنین کی پہلی صفت اقامتِ صلوٰۃ بتائی گئی تو نماز کے بغیر پیری فقیری کا دعویٰ محض الحاد ہے۔ | | |
| 37 | وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَآذَانَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾ (ق: 39، 40) | 6 | 555 |
| | قرآن میں پانچوں نمازوں کا حکم ہے۔ | | |
| 38 | نماز کے بعد کے اور اداوار (آذَانَ السُّجُودِ) | 6 | 556 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 210 | 7 | إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأِیْمُونَ ﴿۲۳﴾ (سارج: 22، 23) | 39 |
| | | نماز پر دوام کا مفہوم۔ | |
| 266 | 7 | مَا سَلَکُمْ فِی سَقَرٍ ۗ قَالَ لَوْلَا اَلَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿۴۳﴾ (مدثر: 42، 43) | 40 |
| | | اہل جہنم اپنا سب سے پہلا گناہ یہ بتائیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ | |
| 382 | 7 | سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الِاعْلٰی ﴿۱﴾ (اعلیٰ: 1) | 41 |
| | | سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی فضیلت۔ | |
| 386 | 7 | قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكٰی ﴿۱۵﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلٰی ﴿۱۴﴾ (اعلیٰ: 14، 15) | 42 |
| | | یعنی نماز تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے۔ اگر اسے صحیح طرح پڑھا جائے۔ | |
| | | نماز باجماعت کا وجوب و اہمیت | |
| 195 | 1 | وَ اذْکَعُوْا مَعَ الرّٰکِعِیْنَ ﴿۴۳﴾ (بقرہ: 43) | 43 |
| | | نماز باجماعت کی اہمیت و تاکید۔ | |
| 196 | 1 | | 44 |
| | | امام کے لیے ضروری ہے کہ بد عقیدہ نہ ہو۔ | |
| 197 | 1 | | 45 |
| | | داڑھی منڈانے یا حد شرعی سے کم رکھنے والوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ | |
| 418 | 2 | فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَکَ (نساء: 102) | 46 |
| | | حالت جنگ میں بھی نماز باجماعت قائم کرو۔ | |
| 588 | 3 | وَ اجْعَلُوْا بُیُوْتَکُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِیْبُوا الصَّلٰوةَ ﴿۸۷﴾ (یونس: 87) | 47 |
| | | نماز باجماعت کی اہمیت اور مسجد کا مقام۔ | |
| 184 | 4 | وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِیْنَ مِنْکُمْ وَّلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِیْنَ ﴿۲۴﴾ (حجر: 24) | 48 |
| | | جماعت کی پہلی صف کی فضیلت۔ | |
| 96 | 5 | فِیْ بُیُوْتِ اٰذِنِ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَّ یُذْکَرَفِیْہَا اسْمُہٗ ﴿۳۶﴾ (نور: 36) | 49 |
| | | اس آیت میں مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ | |
| 97 | 5 | | 50 |
| | | نماز باجماعت کی اہمیت۔ | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-------------------------------|-----|--|-----------|
| 98 | 5 | يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۗ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ (نور: 37) معلوم ہوا مسجد میں مردوں کا آنا ہی عند اللہ محبوب ہے عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، حدیث سے۔ | 51 |
| 98 | 5 | کاروبار چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے آنا سب سے افضل نماز ہے۔ | 52 |
| 36 | 3 | وَالصَّفَاتِ صَفًّا (الصف: 1) باجماعت صف میں کھڑے ہونے والے فرشتوں یا مومنوں کی قسم۔ | 53 |
| 249 | 6 | وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ (م سجدہ: 33) اذان کہنے کی فضیلت۔ | 54 |
| 250 | 6 | اذان سے قبل درود شریف پڑھنے کا استحباب۔ | 55 |
| 356 | 6 | نوافل کا باجماعت پڑھنا کیسا ہے؟ | 56 |
| 186 | 7 | وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾ (ن: 43) نماز باجماعت کی اہمیت و وجوب۔ | 57 |
| مسجد کی اہمیت اور حرمت | | | |
| 317 | 1 | أَنْ طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ (بقرہ: 125) مسجد کی صفائی کا حکم۔ | 58 |
| 421 | 1 | وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴿١٨٧﴾ (بقرہ: 187) مسجد میں میاں بیوی کی صحبت کا حرام ہونا (مسجد کے آداب کے تقاضے)۔ | 59 |
| 406 | 3 | إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (براءت: 18) مسجد کی تعمیر کا ثواب حدیث سے۔ | 60 |
| 407 | 3 | مسجد کے آباد کرنے کا ثواب حدیث سے۔ | 61 |
| 664 | 4 | وَوَطَّئْتُ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ (ح: 26) مسجد کی صفائی کی اہمیت اور اس کا ثواب حدیث سے۔ | 62 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--------------------------|-----|--|-----------|
| 96 | 5 | فِي بُيُوتِ الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ (نور: 36) مسجد کو بلند و بالا بنانا مستحسن ہے (یہ ان ترفیع کی ایک تفسیر ہے)۔ | 63 |
| 96 | 5 | مسجدیں ذکر اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے نہیں۔ | 64 |
| 296 | 1 | وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ (بقرہ: 114) مساجد سے عورتوں کو جبراً نہ روکا جائے البتہ انکی نماز گھر میں افضل ہے۔ | 65 |
| 235 | 7 | وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (جن: 18) مساجد کو غیر دینی مقاصد کیلئے استعمال کی حرمت۔ | 66 |
| نماز کے اہم مسائل | | | |
| 309 | 3 | وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا (اعراف: 204) امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ | 67 |
| 340 | 1 | قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (بقرہ: 142) اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر دل مطمئن ہو ادھر ہی رخ کر لیا جائے۔ | 68 |
| 345 | 1 | مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ (بقرہ: 142) اس کا فلسفہ کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا کیوں ضروری ہے؟ | 69 |
| 347 | 1 | فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (بقرہ: 144) کعبہ کی سمت ہی قبلہ ہے نہ کہ کعبہ کی دیوار۔ | 70 |
| 353 | 1 | استقبال قبلہ کے چند احکام۔ | 71 |
| 515 | 1 | وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ (بقرہ: 238) نماز میں قیام کا فرض ہونا۔ | 72 |
| 330 | 2 | حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء: 43) اگر قراءت کا معنی بدل جائے تو نماز نہ ہوگی۔ | 73 |
| 515 | 1 | وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ (بقرہ: 238) | 74 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 75 | نماز میں رفع یدین کی ممانعت۔ | 1 | 515 |
| 76 | حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (نساء: 43) نیند کے غلبہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ | 2 | 330 |
| 77 | فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ (نساء: 102) نماز میں عارضہ لاحق ہونے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ | 2 | 418 |
| 78 | فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا (نساء: 103) نماز کے فوراً بعد ذکر بالجہر کا جواز۔ | 2 | 419 |
| 79 | إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (نساء: 103) نماز پنجگانہ کے اوقات۔ | 2 | 420 |
| 80 | ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ | 2 | 420 |
| 81 | خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف: 31) نماز و طواف میں ستر عورت فرض ہے۔ | 3 | 170 |
| 82 | قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (زل: 42:2) نماز میں قیام اور قرأت کا فرض ہونا۔ | 7 | 248 |
| 83 | أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف: 55) آمین بھی دعا ہے وہ بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ نماز میں آہستہ آمین کہنے کے سنت ہونے پر دلائل۔ | 3 | 193 |
| 84 | مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ (براءت: 17) کافر سے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ لینا جائز نہیں ہے۔ | 3 | 406 |
| 85 | إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (براءت: 37) عبادات کے اوقات میں اپنی مرضی سے تبدیلی کفر ہے۔ | 3 | 430 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 589 | 3 | وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (یونس: 87) قبلہ نما (COMPASS) کی شرعی حیثیت۔ | 86 |
| 375 | 4 | أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (بنی اسرائیل: 78) وقت عشاء شفق ابیض کے غروب سے شروع ہوتا ہے۔ | 87 |
| 244 | 6 | لَا تَسْعَوْا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِیْهِ (حم سجدہ: 26) امام کے پیچھے قراءت بھی تلاوت قرآن میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ | 88 |
| 259 | 7 | قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۗ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۗ (مدثر: 4-2) نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ | 89 |
| 259 | 7 | وربک فکبر سے معلوم ہوا کہ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ | 90 |
| 255 | 7 | فَاقْرَأْهُ وَمَا تَنَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ (مزل: 20) نماز میں قرآن کریم کا پڑھنا مطلقاً فرض ہے۔ | 91 |
| | | نماز جمعہ | |
| 92 | 7 | ذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (جمعة: 9) نماز جمعہ کی فرضیت اور خطبہ جمعہ کے سننے کی تاکید۔ | 92 |
| 93 | 7 | جمعہ کی پہلی اذان پر کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف جانا ضروری ہے۔ | 93 |
| 93 | 7 | اجتماع جمعہ کی تاریخی حیثیت اور نماز جمعہ کب فرض ہوئی۔ | 94 |
| 94 | 7 | روز جمعہ کی فضیلت حدیث سے۔ | 95 |
| 95 | 7 | نماز جمعہ کی فرضیت و اہمیت۔ | 96 |
| 95 | 7 | چھوٹے گاؤں میں جمعہ ادا نہیں ہوتا۔ | 97 |
| 95 | 7 | نماز جمعہ کی فضیلت اور اسکے ترک کا گناہ۔ | 98 |
| 96 | 7 | نماز جمعہ کی چند ضروری احکام۔ | 99 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | صلوٰۃ المسافر | | |
| 100 | وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (نساء: 101) | 2 | 414 |
| | سفر میں نماز کا قصر واجب ہے۔ اسکے دلائل۔ | | |
| 101 | سفر میں قصر صلوٰۃ کے چند احکام۔ | 2 | 415 |
| 102 | إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (نساء: 103) | 2 | 420 |
| | سفر میں دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کا عدم جواز۔ | | |
| 103 | اہل تشیع کا ایک وقت میں دو نمازوں کو سفر و حضر میں اکٹھا کرنا اور اس کا رد از کتب شیعہ۔ | 2 | 421 |
| | صلوٰۃ الخوف | | |
| 104 | فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (نساء: 102) | 2 | 416 |
| | صلوٰۃ الخوف کا طریقہ اور شان نزول حدیث سے۔ | | |
| | نماز تہجد | | |
| 105 | تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (سجدہ: 16) | 5 | 459 |
| | یہ آیت تہجد کے لیے بستر کے چھوڑنے کی فضیلت بتاتی ہے۔ | | |
| 106 | كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (ذاریات: 17) | 6 | 562 |
| | نماز تہجد کی فضیلت حدیث سے۔ | | |
| 107 | قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (مزل: 3، 2) | 7 | 246 |
| | ابتداء اسلام میں نماز تہجد فرض کی گئی پھر اسے نفل بنا دیا گیا۔ | | |
| 108 | وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ (بنی اسرائیل: 79) | 4 | 377 |
| | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد ہمیشہ فرض رہی۔ | | |
| 109 | تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے۔ | 4 | 378 |
| 110 | إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً (مزل: 6) | 7 | 250 |
| | رات کو شب بیداری کرنے والی جان زیادہ ثابت قدم اور راست گو ہوتی ہے۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 122 | 6 | اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا (زمر: 9) یہ آیت بھی تہجد گزاروں کی فضیلت بتاتی ہے۔ | 111 |
| | | نماز اشراق کی فضیلت | |
| 86 | 6 | يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاشْرَاقِ ﴿١٨﴾ (ص: 18) اشراق کا وقت تسبیح کا وقت ہے۔ اس میں نماز اشراق کی فضیلت پر حدیث صحیح۔ | 112 |
| 417 | 7 | وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ (شمس: 1) وقت اشراق کی قسم اٹھائی گئی جو اسکی فضیلت پر دال ہے تو اس وقت میں خصوصی نماز رکھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسکی وصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ | 113 |
| | | زکوٰۃ و عشر اور نفل صدقہ و خیرات | |
| 565 | 1 | مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (بقرہ: 261) اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا عظیم ثواب۔ | 114 |
| 566 | 1 | صدقہ کوزمین میں دانہ بونے سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ | 115 |
| 569 | 1 | كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ (بقرہ: 264) دکھاوے کے صدقے کی بُرائی۔ | 116 |
| 571 | 1 | يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ (بقرہ: 265) اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ پیش کرنے کی فضیلت۔ | 117 |
| 572 | 1 | اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ (بقرہ: 267) زکوٰۃ و عشر کی فرضیت۔ | 118 |
| 573 | 1 | زکوٰۃ و عشر کے چند احکام۔ | 119 |
| 574 | 1 | وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (بقرہ: 267) راہ خدا میں گھٹیا مال دینے کی بُرائی۔ | 120 |
| 576 | 1 | اِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (بقرہ: 271) | 121 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 121 | انفاق فی سبیل اللہ کے آداب۔ | 1 | 576 |
| 122 | لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ (بقرہ: 272) کفار کو نفلی صدقات کا دینا جائز ہے۔ | 1 | 578 |
| 123 | لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا (بقرہ: 273) بھیک مانگنے کی مذمت۔ | 1 | 581 |
| 124 | حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: 92) راہِ خدا میں پسندیدہ چیز خرچ کرنا۔ | 2 | 109 |
| 125 | وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ (آل عمران: 180) زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب۔ | 2 | 222 |
| 126 | الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ (نساء: 37) بخل کی بُرائی حدیث سے۔ | 2 | 324 |
| 127 | وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (نساء: 37) اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ | 2 | 326 |
| 128 | وَأْتُوا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ (انعام: 141) وجوب عشر کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے فقہ حنفی کی بالادستی جتنی بار کھیتی کئے ہر بار عشر لازم ہے۔ | 3 | 122 |
| 129 | مکڑی، شہد، ریشم اور مچھلیوں کی افزائش پر عشر واجب ہے۔ | 3 | 123 |
| 130 | وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (آل عمران: 4) انفاق فی سبیل اللہ والے سچے مومنین ہیں۔ | 3 | 316 |
| 131 | (براءت: 34, 35) زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اخروی عذاب۔ | 3 | 426 |
| 132 | وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (براءت: 34) | 3 | 427 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 427 | 3 | جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ کنز نہیں خواہ کروڑوں میں ہو۔ | 132 |
| 112 | 4 | وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (رعد: 22) | 133 |
| 155 | 4 | وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (ابراہیم: 31) | 134 |
| 609 | 5 | وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ (سبا: 39) اللہ رب العزت کی راہ میں دینے سے برکت کیسے آتی ہے؟ حدیث سے | 135 |
| 107 | 7 | أَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (منافقون: 10) زکوٰۃ مرنے تک لازم رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ | 136 |
| 450 | 3 | إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ (براءت: 60) مصارف زکوٰۃ کا بیان۔ آٹھ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل۔ | 137 |
| 452 | 3 | مسجد، مدرسہ، ہسپتال، سکول یا کسی رفاہی ادارہ کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ | 138 |
| 453 | 3 | نئے مصارف میں ادائیگی زکوٰۃ کے لیے حیلہ کی اجازت۔ | 139 |
| 454 | 3 | کیا پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ | 140 |
| 455 | 3 | مال تجارت میں قبضہ سے قبل خریدار پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ | 141 |
| 456 | 3 | سیورٹی ڈپازٹ کی زکوٰۃ کسی پر لازم نہیں۔ | 142 |
| 471 | 3 | وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ (براءت: 75) بعض منافقین کا زکوٰۃ دینے سے انکار اور ان پر اللہ کی پھٹکار۔ | 143 |
| 472 | 3 | ثعلبہ والی روایت قابل قبول ہے۔ | 144 |
| 474 | 3 | زکوٰۃ نہ دینے کی بُرائی۔ | 145 |
| 474 | 3 | زیادہ مال کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ | 146 |
| 474 | 3 | مال کی ناجائز محبت انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ | 147 |
| 491 | 3 | وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا (براءت: 98) | 148 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 148 | زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھنا منافقوں کا کام ہے، مومن خوشدلی سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ | 3 | 491 |
| | روزہ | | |
| 149 | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ: 183) روزہ کے جسمانی و روحانی فوائد۔ | 1 | 394 |
| 150 | روزہ کب اور کیسے فرض ہوا اور اسکے بعض احکام۔ | 1 | 395 |
| 151 | تحقیق یہ ہے کہ انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کے فضائل۔ | 1 | 396 |
| 152 | روزے کے فضائل۔ | 1 | 399 |
| 153 | فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ (بقرہ: 184) نفل روزہ کی اصلیت۔ | 1 | 402 |
| 154 | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ: 185) رمضان المبارک کی فضیلت۔ | 1 | 403 |
| 155 | انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ | 1 | 406 |
| 156 | فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقرہ: 185) رویت ہلال کا اسلامی نظام۔ | 1 | 406 |
| 157 | رویت ہلال میں فلکیات سے مدد لینا جائز ہے۔ | 1 | 407 |
| 158 | بصری رویت ضروری ہے علمی رویت کافی نہیں ہے۔ | 1 | 408 |
| 159 | جس کی گواہی نہ مانی جائے وہ روزہ رکھے۔ | 1 | 408 |
| 160 | وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (بقرہ: 187) فضیلتِ سحور۔ | 1 | 420 |
| 161 | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ (بقرہ: 189) اسلامی مہینوں کا آغاز چاند کی رویت سے ہے وجود سے نہیں۔ | 1 | 425 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------------|--|-----|-----------|
| 162 | فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (نساء: 92) روزہ کی اہمیت (کہ اسے متعدد کفارات میں شامل کیا گیا)۔ | 2 | 402 |
| 163 | وَالصَّائِبِينَ وَالصَّيْتِ (احزاب: 35) روزہ نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ | 5 | 512 |
| نماز تراویح کی اہمیت | | | |
| 164 | إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (حجر: 9) حفاظت قرآن کا ایک سبب نماز تراویح باجماعت کا اجراء ہے۔ | 4 | 176 |
| 165 | نماز تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بدعت عمر نہیں۔ احادیث سے۔ | 4 | 176 |
| 166 | حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں بیس تراویح پڑھاتے تھے۔ | 4 | 177 |
| 167 | نماز تراویح کے لیے بیس کا لفظ حدیث میں ہے آٹھ کا کہیں نہیں ہے۔ | 4 | 177 |
| اعتکاف کی فضیلت | | | |
| 168 | وَأَنْتُمْ عِكْفُونَ فِي الْمَسْجِدِ (بقرہ: 187) اعتکاف کی تعریف اور اسکی اقسام۔ | 1 | 420 |
| 169 | اعتکاف رمضان کی فضیلت۔ | 1 | 421 |
| 170 | اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ | 1 | 422 |
| حج بیت اللہ | | | |
| 171 | اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا (بقرہ: 126) حرم کے جائے امن ہونے کا معنی۔ | 1 | 319 |
| 172 | وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ (بقرہ: 126) اہل مکہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھلوں کی دعاء کرنا۔ | 1 | 319 |
| 173 | وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ (بقرہ: 127) تعمیر کعبہ کے مختلف مراحل و ادوار۔ | 1 | 321 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 362 | 1 | إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بقرہ: 158) صفا و مروہ میں سعی کا حکم صرف سنت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے احیاء کے لیے کیا گیا۔ | 174 |
| 363 | 1 | صفا و مروہ میں سعی کے احکام۔ | 175 |
| 433 | 1 | وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (بقرہ: 196) روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری تکمیل حج میں سے ہے۔ حدیث کی روشنی میں۔ | 176 |
| 436 | 1 | فَمَنْ تَبَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (بقرہ: 196) حج تمتع اور قرآن میں قربانی کا وجوب۔ | 177 |
| 438 | 1 | فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (بقرہ: 197) حج میں صبر کی اہمیت۔ | 178 |
| 438 | 1 | فَلَا رَفَثَ (بقرہ: 197) تلبیہ کی کثرت کا استحباب۔ | 179 |
| 440 | 1 | لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا (بقرہ: 198) حج میں تجارت کا جواز۔ | 180 |
| 112 | 2 | إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ (آل عمران: 96) کعبۃ اللہ کی عظمت۔ | 181 |
| 114 | 2 | وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (آل عمران: 97) حدودِ حرم کے جائے امن ہونے کے تین معانی۔ | 182 |
| 115 | 2 | آمِنًا وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ (آل عمران: 97) فرضیت حج۔ | 183 |
| 652 | 2 | جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ (مائدہ: 97) کعبہ کو جائے قیام بنائے جانے کے معانی۔ | 184 |
| 396 | 3 | يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (براءت: 3) | 185 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 185 | حج اکبر کیا ہے اسکی تحقیق۔ | 3 | 396 |
| 186 | فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (براءت: 28) کفار کو حرم مکہ سے دور رہنے کا حکم۔ | 3 | 416 |
| 187 | مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ (براءت: 36) چار مہینوں میں قتال حرام ہے تاکہ حج و عمرہ کے لیے جانے والوں کو مشکل نہ آئے۔ | 3 | 428 |
| 188 | وَ أذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوكِ رَجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ (حج: 27) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار حج کے لیے کیسے بلایا؟ | 4 | 665 |
| 189 | حج کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ | 4 | 665 |
| 190 | پیدل حج کی فضیلت۔ | 4 | 665 |
| 191 | لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (حج: 28) حج کے دینی و دنیوی فوائد و منافع۔ | 4 | 666 |
| 192 | ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (حج: 29) حج کی میل کچیل کا اللہ رب العزت کے ہاں مقام۔ | 4 | 667 |
| 193 | ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج: 32) | 4 | 669 |
| 194 | حج اللہ کی نشانیوں کے قائم رکھنے کا نام ہے جیسے۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ | 4 | 669 |
| 195 | اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ | 4 | 669 |
| ارکان حج | | | |
| 196 | فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ (بقرہ: 198) وقوف عرفہ کی فرضیت اور اسکے احکام۔ | 1 | 441 |
| 197 | مزدلفہ و منیٰ کے ارکان۔ | 1 | 441 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------|--|-----|-----------|
| 198 | کیاری جمرات، قربانی اور حلق کے درمیان ترتیب واجب ہے؟ | 1 | 445 |
| 199 | فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ (بقرہ: 198) وقوفِ مزدلفہ کا وجوب اور اسکے احکام۔ | 1 | 440 |
| 200 | وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ (حج: 28) ایام نحر میں قربانی کرنے کا حکم۔ | 4 | 666 |
| 201 | وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ (حج: 29) طوافِ زیارت کی فرضیت۔ | 4 | 666 |
| 202 | لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ ﴿٣٣﴾ (حج: 33) قربانی کے جانور سے فوائد لیے جاسکتے ہیں جیسے سواری، دودھ، اُون وغیرہ۔ | 4 | 670 |
| احرام کے چند احکام | | | |
| 203 | فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۗ (بقرہ: 196) جب محرم کو راستہ میں روک دیا جائے تو کیا کرے؟ | 1 | 434 |
| 204 | وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ (بقرہ: 196) احرام کھولنے کیلئے سر کا منڈوانا افضل ہے۔ | 1 | 435 |
| 205 | فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ (بقرہ: 196) جب محرم کو پابندی احرام کے خلاف کوئی عمل کرنا پڑے تو اس کا کفارہ۔ | 1 | 435 |
| 206 | غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ (مائدہ: 1) احرام میں شکار کی ممانعت۔ | 2 | 504 |
| 207 | لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ (مائدہ: 95) حالت احرام میں شکار کی حرمت۔ | 2 | 650 |
| 208 | احرام میں شکار کرنے کے بارے میں چند احکام۔ | 2 | 651 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------------|---|-----|-----------|
| 209 | أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ (مائدہ: 96) محرم کے لیے سمندر سے مچھلی پکڑنے کی اجازت۔ | 2 | 651 |
| 210 | مُحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ (نح: 27) احرام کھولتے ہوئے قصر کی بجائے حلق افضل ہے۔ | 6 | 486 |
| الدعاء والذکر بعض دعائیں | | | |
| 211 | رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا (بقرہ: 286) | 1 | 611 |
| 212 | رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (آل عمران: 8) | 2 | 11 |
| 213 | قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ (آل عمران: 26) ادائیگی قرض کے لیے اس آیت کا پڑھنا از حدیث۔ | 2 | 32 |
| 214 | رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا (آل عمران: 147) | 2 | 171 |
| 215 | حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران: 173) کہنے کی فضیلت۔ | 2 | 216 |
| 216 | رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي (آل عمران: 193) | 2 | 235 |
| 217 | رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً (بقرہ: 201) اس دعا کی فضیلت۔ | 1 | 444 |
| 218 | رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (مومنون: 94) فتنوں سے بچنے کی دعا | 5 | 36 |
| 219 | رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (احقاف: 24، 25) کبھی طوفانی ہوا عذاب لاتی ہے تو ایسے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ | 6 | 416 |
| دعاء و آداب دعاء | | | |
| 220 | فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ (انعام: 41) ہر دعا کا قبول ہونا ضروری نہیں۔ | 3 | 34 |
| 221 | يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (انعام: 52) (کہف: 28) نماز جنازہ کے بعد دعاء کا جواز۔ | 3 | 42 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------------------------------|--|-----|-----------|
| 222 | دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہو مانگو۔ | 4 | 427 |
| 223 | ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (اعراف: 55) دعا کے بعض آداب۔ | 3 | 193 |
| 224 | وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (بقرہ: 186) دعا کی فضیلت و برکت۔ | 1 | 410 |
| 225 | دعا کی عدم قبولیت کے اسباب۔ | 1 | 411 |
| 226 | ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (قصص: 24) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین پہنچ کر بھوک اور بے سروسامانی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کھانا دیا بلکہ بیوی اور گھر بھی دیدیا۔ | 5 | 298 |
| 227 | يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (سجدہ: 16) اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنے کی فضیلت حدیث سے۔ | 5 | 460 |
| ذکر کی فضیلت اور بعض اذکار | | | |
| 228 | وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ (اعراف: 205) چچ چچ کر اور اچھل اچھل کر ذکر کرنا خلاف قرآن ہے۔ | 3 | 311 |
| 229 | أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (رعد: 28) اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون کیسے ملتا ہے؟ | 4 | 117 |
| 230 | لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (انبیاء: 87) اس ذکر کی فضیلت۔ | 4 | 632 |
| 231 | اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُبَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ (نور: 10-12) استغفار کی کثرت سے برکتیں آتی ہیں۔ | 7 | 219 |

النکاح والطلاق

- نکاح کے اہم احکام و آداب۔
- حرام رشتوں کا بیان۔
- تربیت اولاد۔
- رضاعت کے احکام۔
- حقوق الزوجین۔
- مجامعت کے احکام۔
- ایلاء۔
- لعان۔
- مہر کے احکام۔
- طلاق۔
- ظہار۔
- عدت۔
- ثبوت نسب۔

النکاح

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | نکاح کے اہم احکام و آداب | |
| 415 | 1 | هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (بقرہ: 187) بے نکاح شخص بے لباس ہے۔ | 1 |
| 468 | 1 | وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ (بقرہ: 221) مشرکین سے نکاح کی حرمت۔ | 2 |
| 469 | 1 | وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ ۖ (بقرہ: 221) نکاح کے لیے ایمان اور اچھے کردار کو معیار بنایا جائے۔ | 3 |
| 470 | 1 | وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (بقرہ: 221) غیر کفو میں نکاح جائز ہے۔ | 4 |
| 470 | 1 | وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ (بقرہ: 221) مسلمان عورت کا از خود اپنا نکاح کرنا عند اللہ پسندیدہ نہیں۔ | 5 |
| 493 | 1 | حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا ۗ (بقرہ: 230) اگر عورت بغیر اذن ولی شادی کرے تو وہ منعقد ہے۔ | 6 |
| 498 | 1 | فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ (بقرہ: 232) مطلقہ عورت کو نکاح ثانی سے روکنے کی بُرائی۔ | 7 |
| 498 | 1 | إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ (بقرہ: 232) کورٹ میرج شرعی نکاح ہے۔ | 8 |
| 499 | 1 | بالغزلی کی کا نکاح اسکی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ | 9 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 249 | 2 | مَثْنِي وَ ثُلُثٌ وَ رُبْعٌ (نساء: 3) | 10 |
| | | ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت۔ | |
| 248 | 2 | ایک مرد کے لیے چار بیویوں کی اجازت کیوں ہے؟ | 11 |
| 276 | 2 | لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا (نساء: 19) | 12 |
| | | بالغیر کی کا نکاح اسکی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ | |
| 89 | 5 | وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ (نور: 32) | 13 |
| | | نادار لوگوں اور لونڈیوں غلاموں کے نکاح میں انکی مدد کرو۔ | |
| 89 | 5 | وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامِي سے اہمیت نکاح پر روشنی۔ | 14 |
| | | بیوہ عورت اور رنڈوے مرد کو نکاح کی ترغیب۔ | |
| 90 | 5 | إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (نور: 32) | 15 |
| | | نکاح سے رزق میں برکت آتی ہے۔ | |
| 301 | 5 | إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (قصص: 27) | 16 |
| | | حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان و عمل دیکھا اور ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، حالانکہ وہ غریب الوطن نادار بے سہارا تھے۔ تو نکاح کے لیے ایمان و اعمال کو دیکھنا چاہیے نسب یا مال کو نہیں۔ | |
| 302 | 5 | اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی کا ولی کسی صالح شخص کو اپنی لڑکی کا نکاح پیش کر سکتا ہے۔ | 17 |
| 518 | 5 | أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ فَالْتَمَّ قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا (احزاب: 37) | 18 |
| | | معلوم ہوا آزاد عورت کا غلام سے نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ اصل کفو صرف اسلام ہے۔ | |
| 552 | 5 | وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ (احزاب: 52) | 19 |
| | | معلوم ہوا جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہوا سے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ | |
| 277 | 2 | وَ إِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ (نساء: 20) | 20 |
| | | اگر بناہ نہ ہو سکے تو بیوی بدلی جاسکتی ہے۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 21 | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ (نساء: 24) نکاح کی فضیلت (منکوحہ عورتوں کو محفوظ عورتیں کہا گیا)۔ | 2 | 285 |
| 22 | فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (نساء: 25) کتابیات سے نکاح کی کراہت۔ | 2 | 294 |
| 23 | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (مائدہ: 5) کتابیہ عورتوں سے نکاح فی نفسہ حلال ہے۔ | 2 | 525 |
| 24 | البتہ دور حاضر کی اکثر کتابیات دہریہ ہیں، ان سے نکاح حلال نہیں ہے۔ | 2 | 525 |
| 25 | مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ (مائدہ: 5) حرمتِ متعہ پر قرآنی دلیل۔ | 2 | 526 |
| 26 | وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ (انعام: 151) خاندانی منصوبہ بندی کا حکم شرعی۔ | 3 | 130 |
| 27 | وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (رعد: 38) نکاح تمام انبیاء کرام ﷺ کی سنت ہے۔ | 4 | 125 |
| 28 | يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرًا وَ إِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيْبًا (شوری: 49) اولاد کے نہ ہونے پر بیوی کو منحوس سمجھنا جہالت ہے۔ | 6 | 304 |
| 29 | لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ (متحنہ: 10) کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر سے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ | 7 | 67 |
| 30 | ایمان اور دار کا اختلاف نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ | 7 | 67 |
| 31 | وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۖ (تکویر: 8) غربت کے خوف سے خاندانی منصوبہ بندی کی حرمت۔ | 7 | 334 |
| 32 | بعض طبی و اخلاقی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی اجازت۔ | 7 | 334 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--|-----|--|-----------|
| 257 | 4 | جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (نحل: 72) انسان کی بیوی انسان کی جنس ہی سے ہو سکتی ہے۔ | 33 |
| 270 | 4 | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا (نحل: 92) ایک منگنی کے بعد دوسری منگنی کرنے کی ممانعت۔ | 34 |
| 344 | 4 | وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ (بنی اسرائیل: 31) تنگدستی کے خوف سے فیلی پلاننگ کی حرمت۔ | 35 |
| نکاح کے لیے حرام اور حلال رشتوں کا بیان | | | |
| 280 | 2 | حُرْمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ (نساء: 23) ایک مرد کے لیے کس عورت سے نکاح (ہمیشہ کے لیے) حرام ہے۔ | 36 |
| 280 | 2 | وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ (نساء: 23) رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہے۔ | 37 |
| 281 | 2 | رضاعت وہ معتبر ہے جو دو برس کی عمر کے دوران ہو۔ | 38 |
| 283 | 2 | قرآن میں مذکور چودہ رشتوں کی حرمت کا فلسفہ۔ | 39 |
| 286 | 2 | وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَلِكَ (نساء: 24) قرآن میں مذکور چودہ حرام رشتوں کے سوا ہر رشتہ حلال ہے۔ | 40 |
| 529 | 6 | وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ (حجرات: 13) سب اہل اسلام باہم کفو ہیں، سوا حرام رشتوں کے۔ | 41 |
| 530 | 6 | خاندان رسالت کی وہ مقدس بیٹیاں جن کے نکاح خاندان سے باہر کیے گئے۔ | 42 |
| 531 | 6 | اگر کسی معزز خاندان کی لڑکی کسی عام آدمی سے خود نکاح کر لے تو کیا کیا جائے؟ | 43 |
| اولاد اور تربیت اولاد | | | |
| 331 | 1 | فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۲﴾ (بقرہ: 132) اولاد کے حسن عاقبت کی فکر رکھنی چاہیے۔ | 44 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--------------|---|-----|-----------|
| 45 | صِبْغَةَ اللَّهِ (بقرہ: 138) نومولود کے کان میں اذان دینے اور ختنہ کرنے کا حکم۔ | 1 | 336 |
| 46 | وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ (بقرہ: 233) بچے کا نسب باپ سے ہے ماں سے نہیں۔ | 1 | 503 |
| 47 | حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ (آل عمران: 14) اولاد کی بے جا محبت سراسر بربادی ہے۔ | 2 | 18 |
| 48 | إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي (آل عمران: 35) بچے کی ولادت پر اسلامی آداب۔ | 2 | 44 |
| 49 | قَالَ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّي إِلَّا الضَّالُّونَ (حجر: 56) نکاح کے بعد اولاد میں تاخیر ہو تو رحمت الہی سے مایوس نہ ہوا جائے۔ | 4 | 194 |
| 50 | وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (مریم: 55) سب سے پہلے اہل خانہ کو دینی تربیت دینی چاہیے۔ | 4 | 501 |
| 51 | يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان: 17) حضرت لقمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کا اپنے بیٹے کو نیکیوں کی وصیات۔ | 5 | 437 |
| 52 | اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ (تغابن: 14) ازواج و اولاد کی غیر شرعی خواہش کو پورا کرنا خود سے دشمنی کرنا ہے۔ | 7 | 121 |
| 53 | قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (تحریم: 6) ہر شخص اپنے اہل خانہ کی اصلاحی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ | 7 | 149 |
| 54 | وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ: 132) اولاد کو نماز کی تربیت بچپن سے دینا ضروری ہے۔ | 4 | 585 |
| رضاعت | | | |
| 55 | وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (بقرہ: 233) | 1 | 501 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---------------------|-----|--|-----------|
| 501 | 1 | دوسال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ | 55 |
| 502 | 1 | مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں۔ | 56 |
| 503 | 1 | باپ بچے کو ماں سے چھین کر دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری عورت کو نہیں دے سکتا۔ | 57 |
| 503 | 1 | بچے کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانے سے بلا عذر انکار نہیں کر سکتی۔ | 58 |
| 406 | 6 | وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا (احقاف: 15) معلوم ہوا دودھ پلانے کی عمر زیادہ سے زیادہ دو برس ہے۔ | 59 |
| 280 | 2 | وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ (نساء: 23) رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہے۔ حدیث کی روشنی میں۔ | 60 |
| حقوق الزوجین | | | |
| 415 | 1 | هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ (بقرہ: 187) میاں بیوی کو ایک دوسرے کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ظلم نہ ہو | 61 |
| 481 | 1 | وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (بقرہ: 228) میاں بیوی کے ایک دوسرے پر اہم حقوق۔ | 62 |
| 504 | 1 | عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ (بقرہ: 233) میاں بیوی کو اپنے گھر کے معاملات باہم مشاورت سے طے کرنے چاہیں۔ | 63 |
| 251 | 2 | وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُم (نساء: 5) مرد حاکم سلطنت خانہ ہے وہ مال کماتا ہے وہ ان پر خود خرچ کرے۔ | 64 |
| 313 | 2 | الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (نساء: 34) شوہر اپنی بیوی پر حاکم ہے۔ | 65 |
| 314 | 2 | اللہ نے شوہر کو بیوی پر حاکم کیوں بنایا ہے اس کا فلسفہ۔ | 66 |
| 316 | 2 | وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (نساء: 34) عورت کا کسب معاش کے لیے نکلنا اللہ کو پسند نہیں۔ | 67 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 68 | فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ (نساء: 34) بحکم قرآن بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ | 2 | 316 |
| 69 | عورت پر اسکے شوہر کا حق اسکے باپ سے فائق ہے۔ | 2 | 317 |
| 70 | وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْبَضَائِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ (نساء: 34) شوہر اپنی بیوی کو بے حیائی پر مار سکتا ہے۔ مارنے کی قیود | 2 | 318 |
| 71 | فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (نساء: 35) میاں بیوی میں جھگڑا کیسے ختم کیا جائے؟ | 2 | 319 |
| 72 | فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا (نساء: 128) میاں بیوی کو مصالحت اور تقویٰ کا راستہ اپنانا چاہیے۔ | 2 | 447 |
| 73 | فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَا كَالْمِعْلَقَةِ (نساء: 129) بیویوں کے درمیان حقوق کی مساوی تقسیم کا وجوب۔ | 2 | 448 |
| 74 | اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (اعراف: 19) بیوی شوہر کے تابع ہے۔ | 3 | 158 |
| 75 | وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (اعراف: 189) عورت مرد کے تابع ہے۔ | 3 | 299 |
| 76 | وَالْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ (يوسف: 25) شوہر بیوی کا آقا اور حاکم ہے۔ | 4 | 25 |
| 77 | إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (طہ: 118) اس میں اشارہ ہے کہ بیوی شوہر کے تابع ہو کر رہتی ہے۔ | 4 | 575 |
| 78 | وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (روم: 21) معلوم ہوا بیوی وہی اچھی ہے جو مرد کی اطاعت کرے تاکہ اسے ذہنی سکون ملے۔ | 5 | 396 |
| 79 | وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (روم: 21) | 5 | 397 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--------------------------------|-----|--|-----------|
| 397 | 5 | میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ | 79 |
| 131 | 7 | أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (طلاق: 6) مرد پر لازم ہے کہ بیوی کو رہائش مہیا کرے۔ | 80 |
| 131 | 7 | عورت مرد سے نہیں کہہ سکتی کہ جہاں میں رہوں گی تم وہاں رہو گے بلکہ مرد جہاں رکھے اسے وہاں رہنا پڑے گا۔ | 81 |
| 140 | 7 | تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكُمْ (تحریم: 1) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ازواج کی دلداری فرماتے تھے، یہ ہمارے لیے درس ہدایت ہے۔ | 82 |
| بیوی سے مجامعت کے احکام | | | |
| 471 | 1 | فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ (بقرہ: 222) حیض والی عورت کے چند احکام۔ | 83 |
| 472 | 1 | عورت سے وطی فی الدبر جائز نہیں۔ | 84 |
| 473 | 1 | حالت حیض میں بیوی سے مجامعت کا نقصان اور گناہ۔ | 85 |
| 474 | 1 | نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ (بقرہ: 223) بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دینے کی وجہ۔ | 86 |
| 474 | 1 | بیوی سے عزل جائز ہے۔ | 87 |
| 478 | 1 | لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (بقرہ: 226) بیوی کو مجامعت سے بلا وجہ دور رکھنا گناہ ہے۔ | 88 |
| 159 | 3 | وَطَفِقًا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ (اعراف: 22) میاں بیوی کو گدھوں جیسی برہنگی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ | 89 |
| 211 | 5 | وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (شعراء: 166) معلوم ہوا عورت میں اللہ رب العزت نے مرد کے لیے جو مقام بنایا ہے اس کے سوا دوسرا مقام استعمال کرنا حرام ہے۔ اور حدیث میں اس پر لعنت وارد ہے۔ | 90 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | بیوی سے ایلاء کرنے کا حکم | | |
| 91 | لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ (بقرہ: 226) ایلاء کا حکم۔ | 1 | 477 |
| | میان بیوی کے درمیان لعان کا حکم | | |
| 92 | وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ (نور: 6) جب شوہر بیوی پہ زنا کا الزام رکھے اور گواہ نہ ہو، تو دونوں لعان کریں پھر قاضی ان کا نکاح فسخ کر دے۔ | 5 | 55 |
| 93 | لعان کے چند شرعی احکام۔ | 5 | 56 |
| | مہر کے احکام | | |
| 94 | وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرًا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرًا (بقرہ: 236) رخصتی و تقرر مہر سے قبل طلاق کی صورت میں متاع واجب ہے۔ | 1 | 510 |
| 95 | اَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً (بقرہ: 236) مہر کا نام لیے بغیر بھی نکاح منعقد ہے، مگر وہ لازم ہے۔ | 1 | 510 |
| 96 | مباشرت اور تقرر مہر سے قبل شوہر فوت ہو جائے تو کتنا مہر ہے؟ | 1 | 510 |
| 97 | اِلَّا اَنْ يَّعْفُوَنَّ (بقرہ: 237) مہر عورت کا حق ہے اسکے اولیاء کا نہیں۔ | 1 | 511 |
| 98 | اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيْ هَتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرِنِيْ ثَلٰثِيْ حِجَجٍ (قصص: 27) کیا بیوی یا سر کی خدمت کو حق مہر بنایا جاسکتا ہے؟ | 5 | 300 |
| 99 | وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (نساء: 4) حق مہر کا وجوب اور اسکی اہمیت۔ | 2 | 247 |
| 100 | وَآتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا (نساء: 20) حق مہر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوا اسکی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ | 2 | 280 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------|---|-----|-----------|
| 101 | أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (نساء: 24) حق مہر کا از قسم مال ہونا ضروری ہے۔ | 2 | 287 |
| الطلاق | | | |
| 102 | الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِبَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِأِحْسَانٍ (بقرہ: 229) طلاق رجعی اور خلع کا بیان۔ | 1 | 483 |
| 103 | الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ (بقرہ: 229) جائز کاموں میں سب سے بڑی چیز طلاق ہے (مَرَّتَيْنِ کہا گیا طلاق انہیں)۔ | 1 | 484 |
| 104 | وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ (بقرہ: 229) طلاق کی صورت میں عورت سے زیورات کا واپس لینا ظلم ہے۔ | 1 | 485 |
| 105 | فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (بقرہ: 229) اگر مہیاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے تو نکاح کا ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ | 1 | 485 |
| 106 | فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا (بقرہ: 230) تیسری طلاق کے بعد حلالہ کا بیان۔ | 1 | 486 |
| 107 | فَإِنْ طَلَّقَهَا (بقرہ: 230) ایک مجلس میں تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی (فاء تعقیب مع الوصل کے لیے ہے) اور احادیث۔ | 1 | 487 |
| 108 | ایک مجلس میں تین طلاقوں کو ایک قرار دینے پر ابن تیمیہ کے دلائل کا رد۔ | 1 | 489 |
| 109 | حلالہ کی شرعی حیثیت۔ | 1 | 493 |
| 110 | حلالہ کا مقصد طلاق کی حوصلہ شکنی ہے۔ | 1 | 494 |
| 111 | یہ اعتراض کہ حلالہ کی صورت میں عورت کو سزا کیوں دی گئی۔ | 1 | 494 |
| 112 | وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (بقرہ: 231) اگر شوہر حقوق ادا نہ کرے تو عورت تنسیخ نکاح کروا سکتی ہے۔ | 1 | 496 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|----------------------|-----|---|-----------|
| 497 | 1 | وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا (بقرہ: 231) نکاح و طلاق کی اداکاری حقیقی نکاح و طلاق ہے۔ | 113 |
| 509 | 1 | مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ (بقرہ: 237) مباشرت سے قبل طلاق دینے کے احکام۔ | 114 |
| 512 | 1 | الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (بقرہ: 237) نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہے بیوی کے ہاتھ میں نہیں۔ | 115 |
| 447 | 2 | وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (نساء: 128) طلاق کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہونا۔ | 116 |
| 125 | 7 | لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (طلاق: 1) طلاق کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہونا۔ | 117 |
| 126 | 7 | فَأَمْسِكُوهُنَّ بِبَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِبَعْرُوفٍ (طلاق: 2) معلوم ہوا طلاق رجعی دینی چاہیے اکٹھی تین طلاقیں دینے کی برائی۔ | 118 |
| ظہار کے احکام | | | |
| 472 | 5 | وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ (احزاب: 4) جن بیویوں سے ظہار کیا جائے وہ ماں کا درجہ نہیں لیتیں اور نہ ہی ان سے نکاح ختم ہوتا ہے، صرف کفارہ لازم آتا ہے۔ | 119 |
| 5 | 7 | الَّذِينَ يُظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ (مجادلہ: 2) کفارہ ظہار کی تفصیل۔ | 120 |
| عدت | | | |
| 479 | 1 | وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (بقرہ: 228) طلاق کی عدت آزاد عورت کے لیے تین حیض ہی ہے نہ کہ تین طہر۔ | 121 |
| 479 | 1 | عدت کا گزارنا مطلقہ عورت پر کیوں ضروری ہے؟ | 122 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 480 | 1 | وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ (بقرہ: 228) عدت کے بارے میں عورت ہی کا قول معتبر ہے۔ | 123 |
| 505 | 1 | وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ (بقرہ: 234) بیوہ عورت کے لیے عدت کے احکام۔ | 124 |
| 506 | 1 | عدتِ وفات چارہ ماہ دس دن کیوں مقرر کی گئی؟ | 125 |
| 548 | 5 | ثُمَّ طَلَّقْتُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (احزاب: 49) جب عورت کو رخصتی سے قبل ہو گئی تو اس پر کوئی عدت نہیں، اس کے حق میں ایک طلاق بھی بائن ہے۔ | 126 |
| 124 | 7 | إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (طلاق: 1) عورت کی عدت میں اضافہ کرنا گناہ ہے۔ | 127 |
| 124 | 7 | تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ (طلاق: 1) دورانِ عدت عورت کو گھر سے نکالنا حرام ہے۔ | 128 |
| 125 | 7 | وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (طلاق: 1) دورانِ عدت مطلقہ عورت شوہر کے گھر میں عدت کا گزارنا ضروری ہے۔ | 129 |
| 125 | 7 | عدت کے بعض ضروری احکام۔ | 130 |
| 128 | 7 | وَالنَّسَاءُ يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ (طلاق: 4) جن عورتوں کو بڑھاپے یا بیماری کے سبب حیض نہ آتا ہو انکی عدت تین ماہ ہے۔ | 131 |
| 129 | 7 | وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (طلاق: 4) حاملہ مطلقہ عورت کی عدت۔ | 132 |
| 129 | 7 | طلاق کی عدت تین حیض ہی ہے نہ کہ تین طہر۔ | 133 |
| 129 | 7 | حاملہ بیوہ عورت کی عدت بھی وضع حمل ہی ہے۔ | 134 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | نسب کے احکام | | |
| 135 | وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ^ط (فرقان: 54) | 5 | 161 |
| | انسان کا نسب اس کے لیے اللہ کی عظیم نعمت ہے اسی سے اسکے سب رشتے قائم ہوتے ہیں۔ | | |
| 136 | وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ^ط (احزاب: 4) | 5 | 472 |
| | منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، نہ وہ وارث ہے نہ ہی بہو بیٹیوں کا اس سے پردہ ختم ہو سکتا ہے۔ | | |
| 137 | أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ^ع (احزاب: 5) | 5 | 473 |
| | لے پالک بچے کا نسب اپنے ساتھ ملانا حرام ہے۔ باعث لعنت ہے، حدیث سے۔ | | |
| 138 | جَبَّاسًا كَوَّيْمًا لَّيْسَ لَهُ وَالِدٌ يَبْتَسِمُ فِي وَجْهِهِ إِذْ يُبْعَثُ وَأُولُو عِرْقٍ ظَهِيرًا ^ط (احقاف: 15) | 5 | 406 |
| | جب اس کو و حمله و فضلہ و ثلثون شہرا ^ط سے ملائیں تو نتیجہ یہ ہے کہ جو بچہ نکاح کے چھ ماہ بعد پیدا ہوا، اس کا نسب ثابت ہے۔ | | |
| 139 | لَيْكُنْ لَكُمْ مَوَالِيٌّ مِمَّنْ لَمَّ بِالْمُنَافِقِينَ كَلِمَتُهُمْ ^ط (احزاب: 37) | 5 | 516 |
| | منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ عورتوں سے شادی کی جاسکتی ہے۔ | | |
| 140 | فِي آيٍ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ^ط (انفطار: 8) | 7 | 344 |
| | کسی بچے کی صورت کا اپنے والدین سے نہ ملنا اسکے نسب میں مخل نہیں۔ | | |
| 141 | وَأَمْرًا تُهْتَبُ بِهِ السَّيِّئَاتُ لَمَّا كُنْتُمْ فِي كَيْدِ الْكَاذِبِينَ ^ط (لہب: 4) | 7 | 570 |
| | معلوم ہوا کفار کے نکاح درست ہیں، خواہ وہ کسی طریقہ پر ہوں اور ان کا نسب ثابت ہے۔ | | |

البيوع

- تجارت کے بعض احکام۔
- حرام ذرائع آمدن کی مذمت۔
- حرمت سود۔

کتاب البیوع

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | تجارت کے بعض احکام | | |
| 1 | لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ؕ (بقرہ: 198) تجارت اللہ کا فضل ہے۔ | 1 | 440 |
| 2 | إِذَا سَأَلْتُم مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ (بقرہ: 233) اجیر و مستاجر کے لیے تقویٰ و بھلائی کی ہدایت۔ | 1 | 505 |
| 3 | وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ؕ (بقرہ: 280) مقروض پر زمی کرنے کا ثواب۔ | 1 | 594 |
| 4 | إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ (بقرہ: 282) قرض یا ادھار کے لکھنے کا حکم۔ | 1 | 596 |
| 5 | ادھار کے لکھنے کے فوائد۔ | 1 | 597 |
| 6 | بیع سلم کے احکام۔ | 1 | 597 |
| 7 | وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ؕ (بقرہ: 282) مالی معاملات میں شرعی شہادت قائم کرنے کا بیان۔ | 1 | 599 |
| 8 | وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ (آل عمران: 75) کفار سے لین دین اور تجارت کا جواز۔ | 2 | 90 |
| 9 | وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ؕ (نساء: 6) نابالغ بچہ بیع و شراء سے مجبور ہے۔ | 2 | 251 |
| 10 | سمجھ دار بچے کا تصرف اسکے ولی کی اجازت سے درست ہے۔ | 2 | 251 |
| 11 | فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُّشْدًا (نساء: 6) | 2 | 251 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 11 | کم عقل آدمی کا مال اسکے سپرد نہ کیا جائے، اس بارے میں فقہی حکم۔ | 2 | 251 |
| 12 | وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْبِيزَانَ بِالْقِسْطِ (انعام: 152) ناپ تول میں برابری کہاں تک ضروری ہے؟ | 3 | 133 |
| 13 | وَ اَمْوَالٌ اِقتَرَفْتُمُوهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ (براءت: 24) تجارت کو اللہ اور اسکے رسول کے حکم پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ | 3 | 412 |
| 14 | وَ لَمِنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَّ اَنَابَهُ زَعِيمٌ (یوسف: 72) کفالت کے بعض شرعی احکام۔ | 4 | 61 |
| 15 | كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ (یوسف: 76) اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حیلہ سکھایا۔ | 4 | 62 |
| 16 | جائز کام کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے۔ | 4 | 63 |
| 17 | وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا (نحل: 92) ایک بیج کے بعد دوسری بیج اور ایک منگنی پر دوسری منگنی کی ممانعت۔ | 4 | 270 |
| 18 | لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ (بنی اسرائیل: 12) رزق ڈھونڈو اور جو مل جائے اسے فضل خداوندی جانو۔ | 4 | 326 |
| 19 | وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (بنی اسرائیل: 35) ناپ تول میں کمی کا گناہ قرآن و حدیث سے۔ | 4 | 347 |
| 20 | وَ عَلَّمْنَاهُ صِنْعَةَ لُبُوسٍ لَّكُمْ (انبیاء: 80) حضرت داؤد علیہ السلام کا زرہیں بنانا اور ہاتھ سے کما کر کھانے کی فضیلت۔ | 4 | 628 |
| 21 | کسی پیشے سے تعلق رکھنا عیب نہیں ہے۔ | 4 | 628 |
| 22 | اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرَ ت الْقَوِيُّ الْاَمِينُ (قصص: 26) کسی کام کے لیے وہ شخص اجرت پر رکھا جائے جو اس کام پر قادر ہو اور امین ہو۔ | 5 | 299 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--------------------------------|---|-----|-----------|
| 23 | وَ آخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مزل: 20) بحکم قرآن سچے تاجر کو راہِ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثل قرار دیا گیا ہے۔ | 7 | 256 |
| 24 | وَيْلٌ لِلْبَاطِفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ زَنَوْهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ (الطائفین: 1-3) ناپ تول میں کمی کی سزا۔ | 7 | 349 |
| حرام ذرائع آمدن کی مذمت | | | |
| 25 | لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (بقرہ: 188) حرام ذرائع آمدن اختیار کرنے کی بُرائی۔ | 1 | 422 |
| 26 | وَتُدَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ (بقرہ: 188) جھوٹے دعوے کر کے مال کمانے کی بُرائی۔ | 1 | 423 |
| 27 | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ (بقرہ: 219) جوئے کے دنیوی اُخروی نقصانات۔ | 1 | 464 |
| 28 | مروجہ لاٹری میں بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ | 1 | 465 |
| 29 | لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (نساء: 29) رشوت لینے دینے کا عذاب۔ | 2 | 297 |
| 30 | جوئے کی کمائی کی حرمت۔ | 2 | 298 |
| 31 | إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (نساء: 29) سچے تاجر کی عظمت حدیث سے۔ | 2 | 298 |
| 32 | پگڑی کے مروجہ کاروبار کا حکم۔ | 2 | 298 |
| 33 | سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ (مائدہ: 42) علماء یہود کا رشوت لے کر احکام کو بدلنا۔ | 2 | 584 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 644 | 2 | انَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ (مائدہ: 90) جوئے کی تعریف اور اسکی بعض جدید صورتوں کا بیان۔ | 34 |
| 645 | 2 | جوئے کی حرمت کا فلسفہ۔ | 35 |
| 649 | 2 | لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ (مائدہ: 94) حرام مال کا آسانی بکثرت ملنا امتحان ہے۔ | 36 |
| 212 | 3 | فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ (اعراف: 85) ناپ تول میں کمی زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ | 37 |
| 658 | 3 | وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۷﴾ (ہود: 84) ناپ تول میں کمی عذاب الہی کا سبب ہے۔ از حدیث | 38 |
| 658 | 3 | بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۸۶﴾ (ہود: 86) جائز بچت میں برکت ہے۔ قرآن و حدیث سے | 39 |
| 554 | 4 | كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴿طہ: 81﴾ یہود پر خدا کا غضب اس لیے بھی اُترا کہ وہ سود خوری میں پڑ گئے۔ | 40 |
| 24 | 5 | يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿۵۱﴾ (مومنون: 51) اکل حلال کی اہمیت قرآن و حدیث سے۔ | 41 |
| 24 | 5 | اعمال کی مقبولیت اکل حلال پر موقوف ہے۔ | 42 |
| 215 | 5 | أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۷۸﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ السُّبُّطِ ﴿۷۹﴾ (شعراء: 181-182) ناپ تول میں کمی گناہ۔ | 43 |
| 408 | 5 | وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّ لَيْرَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ﴿۳۹﴾ (روم: 39) اللہ تعالیٰ سود کے سبب برکت اٹھالیتا ہے۔ | 44 |
| | | حرمت سود | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 583 | 1 | الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (بقرہ: 275) | 45 |
| 583 | 1 | وَاحْلَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (بقرہ: 275) سود کھانے کا اخروی عذاب۔ | 46 |
| 585 | 1 | سود کو بیچ پر قیاس کر کے جائز قرار دینے کا رد۔ | 47 |
| 585 | 1 | سود کی چار بڑی قباحتیں۔ | 48 |
| 586 | 1 | حرمتِ سود پر چند اہم سوالات کا جواب۔ | 49 |
| 590 | 1 | ربا الفضل اور ربا النسیئہ میں فرق۔ | 50 |
| 591 | 1 | کیا کرنسی نوٹوں کو باہم کمی بیشی سے بیچنا جائز ہے۔ | 51 |
| 591 | 1 | انعامی بانڈز میں ملنے والی اضافی رقم سود نہیں ہے۔ | 52 |
| 592 | 1 | اسلام سود کا کیا نعم البدل پیش کرتا ہے۔ | 53 |
| 151 | 2 | لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (آل عمران: 130) حرمتِ سود۔ | 54 |
| 152 | 2 | دار الحرب میں حرمتِ سود کی بحث۔ | 55 |
| 154 | 2 | بینکوں کا تجارتی سود بھی مطلق سود کی طرح حرام ہے۔ | 56 |

الحدود والقصاص

- حد ارتداد۔
- حد سرقہ۔
- حد زنا۔
- حد قذف۔
- حد قطع طریق۔
- قصاص و دیت۔
- قتلِ خطا کے احکام۔

الحدود والقصاص

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|--|
| | حد ارتداد | | |
| 1 | وَاللّٰهُ اَزْكَسَهُمْ --- فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ (نساء: 88-89) | 2 | 393 |
| | | | مرتد کی سزا قتل ہے۔ قرآن و حدیث سے۔ |
| | حد سرقہ | | |
| 2 | وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (مائدہ: 38) | 2 | 577 |
| | | | چوری کی شرعی سزا قطعید۔ |
| 3 | چوری کیا ہے اسکی تعریف۔ | 2 | 578 |
| 4 | جب عدالت میں چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ ضرور کٹے گا، خواہ صاحب حق معاف کر دے۔ | 2 | 578 |
| 5 | چور کا ہاتھ کلائی سے کاٹنا ضروری ہے۔ | 2 | 579 |
| 6 | ہاتھ کا کاٹنا ہی چور کی ساری سزا ہے۔ | 2 | 579 |
| 7 | حد کے اجراء سے اخروی سزا معاف نہیں ہوتی اگر توبہ نہ کی جائے۔ | 2 | 580 |
| | حد زنا | | |
| 8 | وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۴﴾ (مائدہ: 44) | 2 | 587 |
| | | | رجم شرعی سزا ہے اسکا منکر قرآن و سنت کا منکر ہے۔ |
| 9 | وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۝۱ (اعراف: 84) | 3 | 210 |
| | | | لواطت کرنے کروانے والے کو (اگر اسکی رغبت ہو) سزائے قتل دی جاسکتی ہے۔ |
| 10 | جَعَلْنَا عَلٰی يٰهَا سَافِلَهَا (حود: 82) | 3 | 656 |
| | | | لواطت کی برائی اور اسکا باعث عذاب ہونا۔ |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 11 | الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (نور: 2) | 5 | 47 |
| | غیر شادی شدہ زنا کار مرد و عورت کو سو سو کوڑے مارے جائیں۔ | | |
| 12 | زنا کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ | 5 | 48 |
| 13 | حدِ زنا کیسے جاری کی جائے؟ | 5 | 48 |
| 14 | رجم کا حدِ شرعی ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ | 5 | 49 |
| 15 | کوڑے مارنے کی سزا میں بے جا شدت کی اجازت نہیں۔ | 5 | 51 |
| 16 | زنا کی شرعی سزا میں ایک سال قید کرنا شامل نہیں ہے۔ | 5 | 51 |
| 17 | وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (نور: 2) | 5 | 52 |
| | زانیوں پر اقامتِ حد میں کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ | | |
| 18 | اقامتِ حدود کی برکت حدیث سے۔ | 5 | 52 |
| | حدِ قذف | | |
| 19 | فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (نور: 4) | 5 | 53 |
| | زنا کی تہمت زنی کرنے والے کو اسی کوڑے لگائے جائیں۔ | | |
| | حدِ قذف کے احکام | | |
| 20 | کسی پہ زنا کا الزام رکھنے والے پر چار گواہ لانا ضروری ہے۔ | 5 | 54 |
| 21 | مومن کی عزت و حرمت کی اہمیت۔ | 5 | 54 |
| 22 | وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا (نور: 4) | 5 | 54 |
| | محدود فی القذف کی گواہی ہمیشہ کے لیے مردود ہے۔ | | |
| 23 | لَوْ لَا جَاءُ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاذْ لَمَّ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (نور: 13) | 5 | 61 |
| | چار گواہوں کے بغیر تہمت زنا رکھنے والا شخص جھوٹا اور قابلِ حدِ قذف ہے۔ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | حد قطع طریق | | |
| 24 | إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا (مائدہ: 33) ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی حد۔ | 2 | 570 |
| 25 | صرف اسلامی سزائیں ہی جرائم کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ | 2 | 572 |
| | قصاص و دیت | | |
| 26 | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ (بقرہ: 178) قصاص کا وجوب۔ | 1 | 389 |
| 27 | وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ (نساء: 29) خودکشی کی حرمت اور اس کا عذاب۔ | 2 | 308 |
| 28 | وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (نساء: 93) قتل عمد کی اخروی سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ | 2 | 403 |
| 29 | وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (نساء: 92) قتل خطا کی دیت کے احکام۔ | 2 | 399 |
| 30 | دیت کیا ہے اور اسکی شرعی مقدار کیا ہے؟ | 2 | 400 |
| 31 | فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۰﴾ (مائدہ: 30) قائیل کی ذلت و رسوائی۔ | 2 | 566 |
| 32 | فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ؕ (مائدہ: 45) قصاص کو معاف کیا جاسکتا ہے (حدود کو نہیں)۔ | 2 | 590 |
| | الامارة والقضاء | | |
| 33 | الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (نساء: 34) عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی۔ | 2 | 315 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 34 | وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ؕ (سآء: 59) حاکم اسلام کی اطاعت کی فرضیت اور اسکے چند احکام۔ | 2 | 346 |
| 35 | وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (انعام: 9) عورت کا نبی یا امام یا حاکم بننا جائز نہیں۔ | 3 | 8 |
| 36 | إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ (انعام: 57) حکم اللہ ہی کا ہے ہر حاکم و قاضی حکم الہی کے نفاذ کا پابند ہے۔ | 3 | 48 |
| 37 | وَكَذَلِكَ نُؤَيِّبُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا (انعام: 129) جب اکثریت بد عمل ہو جائے تو ان پر بد عمل حاکم مسلط کیا جاتا ہے۔ | 3 | 113 |
| 38 | وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ (بقرہ: 228) عورت جب گھر کی سربراہ نہیں بن سکتی، تو ملک کی کیسے بن سکتی ہے؟ | 1 | 482 |
| 39 | يُرِيدُونَ أَن يُتَّخَذَ كَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ (سآء: 60) قانون اسلامی کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے تحت فیصلہ کرنا کارِ منافقین ہے۔ | 2 | 352 |
| 40 | وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ (يوسف: 16) قاضی یا حاکم کو دلائل پر فیصلہ کرنا چاہیے محض کسی کے رونے پر نہیں، کیونکہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ | 4 | 14 |
| 41 | إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ (يوسف: 40) شریعت کا قانون ہی ہر قانون پر غالب ہے۔ | 4 | 37 |
| 42 | اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ؕ (يوسف: 55) جب بے دین نا اہل لوگ اقتدار پر قابض ہوں تو دین دار لوگوں کو حصولِ اقتدار کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ دین کا نفاذ کر سکیں۔ | 4 | 47 |
| 43 | ایکشن کے موجودہ طریق کار کو کس طرح شریعت کے مطابق کیا جاسکتا ہے؟ | 4 | 48 |
| 44 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا (يوسف: 109) (نمل: 43) | 4 | 87 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 44 | عورت نبوت یا امامتِ صلوة کی اہل نہیں اور نہ وہ حکومت سنبھال سکتی ہے۔ | 4 | 87 |
| 45 | عورت کے امام یا حاکم بننے کی حرمت۔ | 4 | 231 |
| 46 | وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ (رد: 1) اکثریت کی رائے کہاں معتبر ہے کہاں نہیں (جمہوریت کا حکم) | 4 | 91 |
| 47 | تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ اس آیت کے تحت یہ بیان کہ ایک مسلم حاکم کو کیسا متواضع ہونا چاہیے؟ (قصص: 83) | 5 | 335 |
| 48 | لِسِنَّ الْمُلْكِ الْيَوْمَ ۗ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٦﴾ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (مومن: 16-17) ظالم حکمرانوں کے لیے درس عبرت۔ | 6 | 180 |
| 49 | أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ (مومن: 28) معلوم ہوا ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے۔ | 6 | 196 |
| 50 | وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۗ (شوری: 38) اسلام میں موروثی بادشاہت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ | 6 | 296 |
| 51 | موجودہ جمہوریت کو اسلامی شورائی نظام حکومت بنایا جاسکتا ہے۔ | 6 | 297 |

الایمان والشہادۃ

- قسم اٹھانے کے احکام
- گواہی دینے کے احکام

الایمان والشہادۃ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | قسم اٹھانے کے احکام | | |
| 1 | وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ (بقرہ: 224) قسم اٹھانے کے بارے میں ہدایت۔ | 1 | 475 |
| 2 | وَلَكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (بقرہ: 225) جھوٹی قسم اٹھانے کی بُرائی۔ | 1 | 476 |
| 3 | فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ (مائدہ: 89) قسم اٹھانے کی تین صورتیں اور ان کے احکام۔ | 2 | 634 |
| 4 | کسی چیز کو خود پر حرام کہنا قسم بن جاتا ہے۔ | 2 | 635 |
| 5 | گناہ کی قسم اٹھانے پر اسکا توڑ دینا لازم ہے۔ | 2 | 636 |
| 6 | فَيُقْسِنُ بِاللَّهِ (مائدہ: 107) شرعی قسم صرف اللہ کے نام سے ہے۔ | 2 | 660 |
| 7 | تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ (مائدہ: 106) قسم اٹھانے والے کو مسجد میں لیجانا بہتر ہے۔ | 2 | 660 |
| 8 | وَقَاتِلْهُمْ مِمَّا آتَىٰ لَكُمْ مِنَ النَّصِيحِينَ (اعراف: 21) جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے اٹھائی تو یہ کام اسکی پیروی ہے۔ | 3 | 159 |
| 9 | وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَيْنَكُمْ (توبہ: 56) جھوٹی قسمیں اٹھانا منافقین کا کام ہے، مومنین کا نہیں۔ | 3 | 448 |
| 10 | وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (شعراء: 44) غیر خدا کے نام کی قسم اٹھانا کفار کا کام ہے، حدیث میں اسے شرک کہا گیا ہے۔ | 5 | 185 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|----------------------------|-----|--|-----------|
| 17 | 7 | اِتَّخَذُوا اٰیْمَانَهُمْ جُنَّةً (مجادلہ: 16) (منافقون: 2) | 11 |
| | | جھوٹی قسم کا ریمانہ نقین ہے۔ | |
| 101 | 7 | اَشْهَدُ کہنا قسم اٹھانے کے معنی میں ہے۔ | 12 |
| 140 | 7 | قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اٰیْمَانِكُمْ ؕ (تحریم: 2) | 13 |
| | | کسی چیز کو خود پر حرام قرار دینا قسم اٹھانے کے معنی میں ہے۔ | |
| 181 | 7 | وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿۱۰﴾ (ن: 10) | 14 |
| | | زیادہ قسمیں اٹھانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ | |
| 282 | 7 | يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ (دھر: 7) | 15 |
| | | نذر کے احکام، نذر قسم اٹھانے کے حکم میں ہے۔ | |
| گواہی دینے کے احکام | | | |
| 599 | 1 | وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ؕ (بقرہ: 282) | 16 |
| | | مالی معاملات میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی لازم ہے۔ | |
| 599 | 1 | عورت کی گواہی مرد سے نصف کیوں رکھی گئی؟ اسکے تین اسباب۔ | 17 |
| 600 | 1 | عورت کے عقلی طور پر مرد سے کمزور ہونے کے دلائل۔ | 18 |
| 271 | 2 | فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمُ ؕ (نساء: 15) | 19 |
| | | ضروری ہے کہ زنا میں چار عاقل بالغ مسلمان مرد گواہ ہوں۔ | |
| 537 | 2 | كُوْنُوا قَوْمًا يَمِيْنًا لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ (مائدہ: 8) | 20 |
| | | جھوٹی گواہی کی مذمت اور دور حاضر میں جھوٹی گواہی کی صورتیں۔ | |
| 604 | 1 | وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اِثْمٌ قَلْبُهُ ؕ (بقرہ: 283) | 21 |
| | | گواہی کا چھپانا ظلم ہے۔ | |
| 659 | 2 | يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهِدُوْا بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ (مائدہ: 106) | 22 |
| | | موت کے وقت وصیت پر دو گواہ قائم کرنے کا حکم۔ | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 659 | 2 | اٰثْنِ ذَوَا عَدَلٍ مِّنْكُمْ (مائدہ: 106) کم از کم دو گواہ ہوں جو عادل اور مسلمان ہوں۔ | 23 |
| 660 | 2 | لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمْنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى (مائدہ: 106) جھوٹی گواہی کی مذمت قرآن و حدیث سے۔ | 24 |
| 490 | 3 | سَيَخْلِفُوْنَ بِاِلٰهٍ لَّكُمْ اِذَا اُنْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۗ اِنَّهُمْ رَجِسٌ (براءت: 95) جھوٹی قسمیں اٹھانا منافقین کا کام ہے، مومنین کا نہیں۔ | 25 |

الصید والذبايح

- ★ شکار اور ذبح کے احکام۔
- ★ عید الاضحیٰ پر قربانی کے احکام۔
- قربانی کے چند احکام۔

الصید والذبائح

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | شکار اور ذبح کے احکام | | |
| 1 | أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً (بقرہ: 67) | 1 | 240 |
| | گائے کی قربانی اللہ کو پسند ہے۔ | | |
| 2 | وَمَا أَهْلًا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (بقرہ: 173) | 1 | 379 |
| | اس آیت کا صحیح معنی صحابہ کرام، تابعین اور اجلہ مفسرین کے اقوال کی روشنی میں۔ | | |
| 3 | وَمَا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (مائدہ: 3) | 2 | 512 |
| | اس کا صحیح مفہوم صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے اقوال سے۔ | | |
| 4 | وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ (مائدہ: 3) | 2 | 513 |
| | بغیر ذبح مر جانے والے بعض جانوروں کی حرمت۔ | | |
| 5 | جانور کی حلت ذبح کے وقت اللہ کا نام لینے پر موقوف ہے۔ | 2 | 513 |
| 6 | وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ (مائدہ: 3) | 2 | 514 |
| | جو جانور کسی انسان کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ | | |
| 7 | غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ (مائدہ: 1) | 2 | 504 |
| | احرام کی حالت میں شکار کردہ جانور مردار کی طرح حرام ہے۔ | | |
| 8 | وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ (مائدہ: 4) | 2 | 521 |
| | شکار کے ذریعے جانور کے مارنے کے احکام۔ | | |
| 9 | شکاری کتے کے ذریعے شکار کردہ جانور کب حلال ہے۔ اسکے احکام | 2 | 522 |
| 10 | شکاری یا حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ | 2 | 522 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------------------|--|-----|-----------|
| 11 | وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ (مائدہ: 5) اہل کتاب کا ذبح کردہ جانور حلال ہے جب وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں۔ | 2 | 523 |
| 12 | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا ذبیحہ کھایا۔ | 2 | 524 |
| 13 | وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (انعام: 121) جس جانور کے ذبح پر اللہ کا نام لینا بھول جائے وہ حلال ہے۔ | 3 | 106 |
| 14 | أَوْ فَسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (انعام: 145) بسم اللہ کی بجائے ذبح پر بسم الرسول یا بسم فلاں کہا تو وہ جانور حرام ہے۔ | 3 | 125 |
| عیہ الاضحیٰ کی قربانی کے احکام | | | |
| 15 | وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذْكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ (حج: 34) جانور کی قربانی کسی نہ کسی انداز میں ہر امت میں رہی زمانہ آدم علیہ السلام میں بھی تھی۔ | 4 | 671 |
| 16 | جانوروں کی قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ | 4 | 671 |
| 17 | فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (حج: 36) اونٹوں کو صَوَافَّ یعنی صف بستہ کھڑے کر کے ذبح کرنا چاہیے، جسے نخر کہتے ہیں۔ | 4 | 673 |
| 18 | فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (حج: 36) قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ فقراء کو بھی کھلاؤ قانع کو پہلے دو۔ | 4 | 673 |
| 19 | لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (حج: 37) دکھاوے کی قربانیوں کی مذمت جن میں تقویٰ نہیں۔ | 4 | 673 |
| قربانی کے چند احکام | | | |
| 20 | وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (مائدات: 108) یہ آیت سنتِ قربانی کی اہمیت واضح کرتی ہے۔ | 6 | 62 |
| 21 | سنتِ قربانی کے بارے میں چند فقہی احکام۔ | 6 | 63 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 63 | 6 | عید قربان پر جانور قربان کرنے کا فلسفہ۔ پانچ اسباب | 22 |
| 62 | 6 | عید قربان پر جانور کے قربان کرنے کے اجر و ثواب۔ | 23 |
| 553 | 7 | فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (کوثر: 2) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سے محبت۔ | 24 |

الآداب

- ★ کھانے پینے کے آداب۔
- کیا کھانا پینا حلال ہے کیا حرام؟
- کھانے پینے کے بعض آداب۔
- ★ لباس کے آداب۔
- کیا پہننا جائز ہے کیا ناجائز؟
- مردوں کے لیے زیورات اور ریشم کا حرام ہونا۔
- ★ چہرہ اور حجامت کے آداب۔
- ★ آداب گفتگو۔
- ★ پردہ داری کے آداب (پردہ کے احکام)۔
- ★ سوار ہونے کے آداب۔
- ★ آداب مجلس۔
- ★ مہمان نوازی کے آداب۔
- ★ رہائش کے آداب۔
- ★ سونے جاگنے کے آداب۔

الآداب

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | کھانے پینے کے آداب | |
| | | کیا کھانا پینا حلال ہے کیا حرام؟ | |
| 169 | 1 | مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ؕ (بقرہ: 22) اباحتِ اصلیہ۔ | 1 |
| 373 | 1 | حَلَالًا طَيِّبًا ؕ (بقرہ: 168) حلال اور طیب میں فرق۔ | 2 |
| 374 | 1 | اکلِ حلال کی اہمیت۔ | 3 |
| 374 | 1 | اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام مت کہو۔ | 4 |
| 374 | 1 | كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا (بقرہ: 168) اتنا کھانا کہ جان بچ جائے فرض ہے۔ | 5 |
| 377 | 1 | إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ (بقرہ: 173) مردار کی تعریف اور اس کی حرمت کا فلسفہ۔ | 6 |
| 378 | 1 | وَالدَّمِ (بقرہ: 173) خون کی حرمت اور اس کا فلسفہ۔ | 7 |
| 378 | 1 | وَلَحْمِ الْخِنزِيرِ (بقرہ: 173) حرمتِ خنزیر کا فلسفہ۔ | 8 |
| 382 | 1 | فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ (بقرہ: 173) جان کا بچانا سب سے بڑا فرض ہے۔ | 9 |
| 382 | 1 | بامرِ مجبوری حرام دوا کا استعمال جائز ہے۔ | 10 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 464 | 1 | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ (بقرہ: 219) شراب اور جوئے کے دنیوی و اخروی نقصانات۔ | 11 |
| 509 | 2 | وَالدَّمُ (مائدہ: 3) اسلام سے قبل اہل جاہلیت مردار خون کیسے پیتے تھے؟ | 12 |
| 509 | 2 | وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (مائدہ: 3) حرمیت خنزیر کے بارے میں احکام۔ | 13 |
| 510 | 2 | جدید برقی مشین کے ذبیحہ کا شرعی حکم۔ | 14 |
| 381 | 1 | اولیاء اللہ کے لیے نذر مانے گئے جانور کا حکم۔ | 15 |
| 637 | 2 | اِنَّبَا الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْاَنْصَابِ وَالْاَزْلَامِ رَجُسٌ (مائدہ: 90) شراب اور جوئے کی حرمت۔ | 16 |
| 639 | 2 | شراب اور جو انسان کو ذکر و نماز سے روک دیتے ہیں۔ | 17 |
| 639 | 2 | شراب اور جوئے کے بارے میں دس تنبیہات۔ | 18 |
| 640 | 2 | شراب اور جوئے کا اخروی عذاب از حدیث۔ | 19 |
| 640 | 2 | کیا غیر انگوری شراب کو غیر نشہ آور مقدار میں پینا حلال ہے؟ | 20 |
| 643 | 2 | مجبوری میں حرام دوا کا استعمال جائز ہے۔ | 21 |
| 644 | 2 | اگر شراب کی حقیقت ہی بدل گئی تو وہ شراب نہ رہی۔ | 22 |
| 105 | 3 | وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ (انعام: 121) جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے اسکی حرمت۔ | 23 |
| 212 | 4 | وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ (نحل: 8) گھوڑا حرام جانور ہے خچر اور گدھے کی طرح۔ | 24 |
| 243 | 4 | تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكْرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا (نحل: 67) جس چیز کا زیادہ پینا نشہ لائے اس کی قلیل مقدار بھی حرام اور نجس ہے۔ اس بارے میں | 25 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------------------------|---|-----|-----------|
| 25 | فقہا احناف کے حوالہ جات۔ | 4 | 243 |
| 26 | احادیث صحیحہ کی روشنی میں نشہ آور مشروب کا قلیل بھی حرام ہے۔ | 4 | 247 |
| 27 | فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْطَىٰ طَعَامًا (کہف: 19) غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط چاہیے۔ | 4 | 416 |
| 28 | وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ (عم: 12) کفار جانوروں کی طرح کھاتے ہیں کسی حلال یا حرام کا امتیاز نہیں رکھتے مسلمان پہلے دیکھتا ہے کہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ | 6 | 437 |
| 29 | غیر خدا کی تعظیم کے لیے ذبح کردہ جانور بہر حال حرام ہے۔ | 3 | 106 |
| 30 | وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (اعراف: 157) کچھ طیبات اور خبائث کی تفصیل۔ | 3 | 265 |
| کھانے پینے کے بعض آداب | | | |
| 31 | وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ (یونس: 10) ہر نعمت کے حصول پہ الحمد لله کہنا چاہیے۔ | 3 | 541 |
| 32 | وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ (اعراف: 31) کھانے پینے میں اعتدال سے بڑھنا اسراف ہے۔ | 3 | 170 |
| 33 | بسیار خوری کی مذمت حدیث سے۔ | 3 | 170 |
| 34 | لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ (احزاب: 53) اس میں یہ درس ہے کہ کسی کے گھر دعوتِ طعام میں بغیر بلائے مت جاؤ۔ | 5 | 555 |
| 35 | غَيْرِ نَظَرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا (احزاب: 53) دعوتِ طعام کا جو وقت دیا گیا ہو اس سے قبل نہ جاؤ۔ | 5 | 555 |
| 36 | فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴿٥٣﴾ (احزاب: 53) جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ تا دیر بیٹھ کر باتوں میں نہ لگ جاؤ۔ | 5 | 555 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|--|-----|---|-----------|
| 555 | 5 | اِذَا دُعِيتُمْ فَاذْخُلُوا (احزاب: 53) دعوت کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث سے اسکی فضیلت | 37 |
| 15 | 6 | وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۳﴾ (یس: 33) روٹی کی فضیلت اور دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے کا ثواب۔ | 38 |
| 670 | 6 | فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿۷۰﴾ (واقعه: 70) کھانے یا پینے کے بعد دعا کرنی چاہیے اور حدیث میں جو دعا وارد ہے۔ | 39 |
| تصویر سازی کی حرمت | | | |
| 593 | 5 | يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَ تَمَاثِيلَ (سبا: 13) اس آیت کے تحت تحقیق کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بناتے تھے۔ | 40 |
| 593 | 5 | جاندار چیز کی تصویر بنانا ہر شریعت میں حرام رہا ہے۔ | 41 |
| 594 | 5 | تصویر کی حرمت پر بعض شبہات کا رد۔ | 42 |
| 110 | 7 | وَ صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ ؕ (تغابن: 3) جاندار چیز کی تصویر بنانے کی حرمت احادیث سے۔ | 43 |
| 111 | 7 | حرمت تصویر کے بارے میں بعض شبہات کا ازالہ۔ | 44 |
| 112 | 7 | پاسپورٹ اور ضروری شناخت کے لیے تصویر سازی کا جواز۔ | 45 |
| 112 | 7 | موبائل فون، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ اور مووی میں رکھی گئی تصاویر کا حکم۔ | 46 |
| لباس کے آداب --- کیا پہننا جائز ہے کیا ناجائز | | | |
| 160 | 3 | بَدَاتْ لَهُمَا سَؤَاتُهُمَا (اعراف: 22) شیطان انسان کو برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ | 47 |
| 165 | 3 | يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيْشًا (اعراف: 26) ستر عورت لازم ہے۔ | 48 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 49 | پورا لباس نہ پہننے والی عورتوں کیلئے وعیدِ جہنم۔ | 3 | 165 |
| 50 | لَبِنَىٰ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ (اعراف: 27) شیطان انسان کو بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ | 3 | 165 |
| 51 | وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا (اعراف: 28) اہل عرب کانتگے ہو کر طوافِ کعبہ کرنا۔ | 3 | 167 |
| 52 | کعبہ کی حرمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحال فرمائی۔ | 3 | 168 |
| 53 | قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (اعراف: 32) عمدہ لباس، سواری، مکان اور کھانا بُرا نہیں، اگر تکبر نہ ہو۔ | 3 | 172 |
| 54 | وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ (نحل: 5) اونی کپڑوں کا جواز، خواہ حرام جانور کی اون ہو۔ | 4 | 210 |
| 55 | وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَابِئِلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِئِلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمْ (نحل: 81) لباس اللہ رب العزت کی نعمت ہے، خواہ وہ امن کا لباس ہو یا جنگ کا۔ | 4 | 264 |
| مردوں کے لیے زیورات اور ریشم کا حرام ہونا | | | |
| 56 | يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ (کہف: 31) ریشم مردوں کے لیے صرف جنت میں ہے دنیا میں حرام ہے، جو یہاں اسے پہنے جنت میں نہ پائے گا حدیث سے۔ | 4 | 428 |
| 57 | يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٧﴾ دنیا میں مومن مردوں کے لیے زیورات اور ریشم کا حرام ہونا۔ (نحل: 23) (فاطر: 33) | 4 | 661 |
| 58 | أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيَةِ (زخرف: 18) معلوم ہوا زیورات میں پروان چڑھنا عورت کی حالت ہے مرد کی نہیں۔ | 6 | 317 |
| 59 | فَلَوْ لَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ (زخرف: 53) | 6 | 334 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-------------------------------|-----|--|-----------|
| 334 | 6 | مردوں کا زیورات پہننا فرعونی طریقہ ہے۔ | 59 |
| 459 | 7 | وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿۱۱﴾ (ضحیٰ: ۱۱) تحدیثِ نعمت کے لیے اچھا پہننا یا برتنا معیوب نہیں۔ | 60 |
| چہرہ اور حجامت کے آداب | | | |
| 435 | 2 | وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرُونَ خُلُقَ اللَّهِ ۗ (نساء: ۱۱۹) شیطان لوگوں کو اللہ کا بنایا ہوا چہرہ بدلنے کا حکم کرتا ہے۔ | 61 |
| 435 | 2 | چہرہ گودنے اور ابرو باریک کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے، حدیث سے۔ | 62 |
| 435 | 2 | خوبصورتی کیلئے چہرہ کی پلاسٹک سرجری حرام ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے چہرہ کا بدلنا ہے۔ | 63 |
| 436 | 4 | داڑھی کا مونڈنا بھی اللہ کے بنائے ہوئے چہرہ کا بدلنا ہے۔ | 64 |
| 7 | 2 | هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ (آل عمران: 6) اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلنا موجب لعنت ہے۔ | 65 |
| 562 | 4 | لَا تَأْخُذْ بِذُنُوبِ قَوْمٍ وَلَا بِرَأْسِهِ ۗ (طہ: 94) حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی قدر قبضہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آگئی۔ | 66 |
| 562 | 4 | ہر پیغمبر کی داڑھی قدر قبضہ تھی حدیث اور تورات سے۔ | 67 |
| 563 | 4 | حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی داڑھی قدر قبضہ تھی احادیث سے۔ | 68 |
| 564 | 4 | قبضہ سے کم داڑھی کا کاٹنا جائز نہیں ہے، فقہاء کے اقوال۔ | 69 |
| 212 | 6 | وَصَوِّرْكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ (مومن: 64) اللہ کی بنائی ہوئی تصویر میں مرد کی داڑھی بھی شامل ہے تو اس تصویر کا بدلنا جائز نہیں ہے۔ | 70 |
| آداب گفتگو: سلام کہنا | | | |
| 389 | 2 | وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ (نساء: 86) سلام کہنے کے چند شرعی آداب۔ | 71 |
| 390 | 2 | ہر کسی کو سلام کہنا چاہیے، خواہ باہمی تعارف ہو یا نہ ہو۔ | 72 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-------------------|-----|--|-----------|
| 390 | 2 | سلام کہنے کے تلفظ میں غلطیوں کی تصحیح۔ | 73 |
| 541 | 3 | وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (یونس: 10) سلام کہنا اہل جنت کا طریقہ ہے۔ | 74 |
| 649 | 3 | قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ (ہود: 69) پہلے انبیاء کرام بھی ملاقات کے آغاز میں سلام و جواب سلام کہتے تھے۔ | 75 |
| 193 | 4 | إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا (حجر: 52) ملاقات پر مسلمان سلام کہتا ہے نہ کہ گڈ مورنگ اور آداب۔ | 76 |
| 125 | 5 | فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ (نور: 61) گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنے کی برکات حدیث سے۔ | 77 |
| 9 | 7 | وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ (مجادلہ: 8) کیا کفار کے سلام کا جواب دینا چاہیے؟ | 78 |
| 9 | 7 | سلام کے الفاظ درست کہنے چاہئیں۔ | 79 |
| نرم گفتاری | | | |
| 189 | 2 | فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنَ حَوْلِكَ (آل عمران: 159) نرم گفتاری لوگوں کو جمع کرتی ہے اور سخت گوئی انہیں بھگا دیتی ہے۔ | 80 |
| 569 | 4 | وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ (طہ: 108) پست آوازی ادب کی نشانی ہے۔ | 81 |
| 165 | 5 | وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (فرقان: 63) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تذکرہ۔ | 82 |
| 438 | 5 | وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَبِيرِ (لقمان: 19) سب سے بُری آواز گدھے کی ہے۔ | 83 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | ان شاء اللہ کہنے کی فضیلت | | |
| 84 | وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ ؕ (کہف: 23) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاء اللہ نہ کہا تو وحی پندرہ دن تک رُکی رہی۔ | 4 | 422 |
| 85 | حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان شاء اللہ نہ کہا تو اولاد نہ ملی، حدیث سے۔ | 4 | 423 |
| 86 | وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٧٠﴾ (بقرہ: 70) اگر بنی اسرائیل ان شاء اللہ نہ کہتے تو کبھی مطلوبہ گائے نہ پاسکتے۔ | 1 | 238 |
| 87 | سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ (صافات: 102) ان شاء اللہ کہنے کی فضیلت۔ | 6 | 59 |
| 88 | سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾ (قصص: 27) | 5 | 299 |
| | ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہنے کی فضیلت | | |
| 89 | وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ (کہف: 39) نعمت کے ملنے پر ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کہنے کی فضیلت حدیث سے۔ | 4 | 432 |
| 90 | لاحول ولا قوۃ الا باللہ کہنے کی فضیلت حدیث سے۔ | 4 | 432 |
| | گالی گلوچ اور لعنت بازی سے بچنا | | |
| 91 | اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ (بقرہ: 161) صرف اس کافر پر لعنت جائز ہے جس کا کفر پہ مرنا حتمی معلوم ہو۔ | 1 | 367 |
| 92 | لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ﴿١٢٨﴾ (آل عمران: 128) کسی کا نام لیکر لعنت کا عدم جواز۔ | 2 | 149 |
| 93 | لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (انعام: 108) کسی کو گالی دینا اپنے آپ کو گالی دینا ہے۔ | 3 | 96 |
| 94 | كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعْنَتْ اُخْتَهَا ﴿٣٨﴾ (اعراف: 38) ایک دوسرے کو لعنت کرنا اہل جہنم کا طریقہ ہے۔ | 3 | 179 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|---|-----------|
| 543 | 3 | وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ (یونس: 11) بددعا کرنے کی برائی حدیث سے۔ | 95 |
| 577 | 5 | إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرَيْنَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ (احزاب: 64) جس شخص کا کفر پر مرنا معلوم ہو، اسکے سوا کسی پر لعنت جائز نہیں۔ | 96 |
| مختصر آداب مسکن | | | |
| 528 | 4 | قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَ أَهْشُ بِهَا عَلَى غَنِيِّ وَ لِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ﴿١٨﴾ (طہ: 18) اگر برکت کا حصول مقصود ہو تو سوال کا لمبا جواب دیا جاسکتا ہے۔ | 97 |
| 528 | 4 | امام شاذلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا عظیم الشان خواب اور امام غزالی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا حضرت موسیٰ <small>علیہ السلام</small> سے طویل کلام۔ | 98 |
| بیرونی کی آداب | | | |
| (اجنبی سردوں عورتوں کے عدم اختلاط کے احکام) | | | |
| 17 | 2 | زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ (آل عمران: 14) شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ | 99 |
| 565 | 2 | قَالَ لَا قُتِلَنَّكَ ﴿٢٧﴾ (مائدہ: 27) عورت سے ناجائز محبت جرائم کی جڑ ہے۔ | 100 |
| 9 | 3 | وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (انعام: 9) عورتوں کے فلموں، ڈراموں اور پلے ٹیوں میں کام کرنے کی ممانعت۔ | 101 |
| 131 | 3 | وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ ﴿١٥١﴾ (انعام: 151) بدنگاہی۔ نامحرم عورتوں سے اختلاط اور انکے ساتھ خلوت کا گناہ اور یورپ و امریکہ کی حالتِ ذار۔ | 102 |
| 168 | 3 | إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴿٢٨﴾ (اعراف: 28) | 103 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 168 | 3 | گھروں میں نامحرم کو بٹھانا بے حیائی ہے، خواہ وہ پیر یا استاذ ہو۔ | 103 |
| 172 | 3 | قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (اعراف: 33) | 104 |
| 297 | 5 | وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (قصص: 23) حضرت شعیب <small>علیہ السلام</small> کی لڑکیاں مردوں سے الگ تھلگ کھڑی ہوئیں، گویا اگر عورت مجبوراً کسب معاش کو نکلے تو مردوں سے الگ رہے۔ | 105 |
| 482 | 4 | قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (مریم: 18) کوئی عورت کسی اجنبی غیر محرم مرد کو خلوت میں پاس نہ آنے دے، حدیث۔ | 106 |
| 63 | 5 | إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (نور: 19) فلموں ڈراموں اور بے حیائی کے دوسرے طریقوں سے فواحش کے پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید۔ | 107 |
| | | کسی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل اجازت لینے کا حکم | |
| 76 | 5 | لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (نور: 27) کسی کے گھر میں بے اجازت داخل ہونے کی ممانعت۔ | 108 |
| 77 | 5 | کسی کے گھر میں داخل ہونے کا اور اجازت لینے کا اسلامی طریقہ۔ | 109 |
| 119 | 5 | لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (نور: 58) نابالغ نوکروں، چاکروں اور اولاد کو مخصوص تین اوقات میں گھروں میں اجازت لیکر آنے کا حکم۔ | 110 |
| 121 | 5 | وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (نور: 59) جوان اولاد کو تمام اوقات میں اجازت لیکر گھر میں داخل ہونے کا حکم۔ | 111 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 112 | فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ (احزاب: 32) عورت غیر محرم مرد سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کرے۔ | 5 | 501 |
| 113 | وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (احزاب: 33) عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ کھل مل کر کام کرنا جائز نہیں ہے۔ | 5 | 503 |
| 114 | عورت کا بن سنور کر بے پردہ باہر نکلنے کا گناہ۔ | 5 | 503 |
| 115 | وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ (احزاب: 53) معلوم ہوا مرد وزن کا آزادانہ اختلاط حرام ہے۔ | 5 | 557 |
| پست نگاہی کا حکم | | | |
| 116 | قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (نور: 30) | 5 | 80 |
| 117 | وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (نور: 31) ہر مرد اور عورت کو نگاہیں پست رکھنے کا حکم۔ | 5 | 80 |
| 118 | بدنگاہی زنا تک لیجا سکتی ہے، یہ زنا کا پہلا زینہ ہے۔ | 5 | 80 |
| 119 | حدیث میں نگاہ کو قابو میں رکھنے کی تاکید شدید۔ | 5 | 80 |
| 120 | عورتوں کے اعضاء اور انکے حسن و جمال پر شاعری حرام ہے۔ | 5 | 81 |
| فلمی گانوں اور آلات موسیقی کے بجانے اور سننے کی حرمت | | | |
| 121 | وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (بنی اسرائیل: 64) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور تمام جلیل القدر مفسرین کے نزدیک شیطان کی آواز سے مراد موسیقی کی آواز ہے۔ | 4 | 365 |
| 122 | فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ (روم: 15) اہل جنت وہاں روح پرور نعمات حمد سنیں گے، بشرطیکہ وہ دنیا میں آلات موسیقی سے دور رہے۔ | 5 | 395 |
| 123 | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (لقمان: 6) | 5 | 422 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|---|-----|---|-----------|
| 422 | 5 | گانا سننا اور موسیقی سے لطف اندوز ہونا حرام ہے، احادیث کی روشنی میں۔ | 123 |
| 425 | 5 | آلات موسیقی کی حرمت پر محدثین و فقہاء کے اقوال۔ | 124 |
| 425 | 5 | موسیقی کے بارے میں شبہات کا ازالہ۔ | 125 |
| 427 | 5 | کیا مروجہ قوالی جو آلات موسیقی کے ساتھ ہوتی ہے جائز ہے؟ | 126 |
| 428 | 5 | مروجہ قوالی کے بارے میں اعلیٰ حضرت اور صدر الشریعہ رحمہ اللہ کا فتویٰ۔ | 127 |
| 429 | 5 | کیا خواجگانِ چشت مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے تھے؟ | 128 |
| 184 | 6 | يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ (مومن: 19) بد نظری کی برائی حدیث سے۔ | 129 |
| عورتوں کو اعضاء زینت کے ڈھانپنے کا حکم | | | |
| 81 | 5 | وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (نور: 31) الَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے چہرہ اور دونوں ہاتھ مرد ہیں اقوال صحابہ و تابعین۔ | 130 |
| 82 | 5 | جوان عورت کے لیے چہرے کا چھپانا بھی لازم ہے، خوفِ فتنہ کے سبب۔ | 131 |
| 83 | 5 | عورتوں کے لیے چست کپڑوں کے پہننے کی ممانعت۔ | 132 |
| 83 | 5 | وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (نور: 31) عورتیں اپنے سینوں پر موٹی چادریں ڈالیں۔ | 133 |
| 83 | 5 | گردن، کانوں اور گریبان کا پردہ بھی فرض ہے۔ | 134 |
| 83 | 5 | وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ (نور: 31) عورت کن مردوں کے سامنے اپنے اعضاء زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ | 135 |
| 84 | 5 | منہ بولے بیٹے سے پردہ لازم ہے، وہ غیر محرم ہے۔ | 136 |
| 85 | 5 | دیور جیٹھ، سدھی اور کزن سے پردہ لازم ہے۔ | 137 |
| 85 | 5 | پیر اور استاذ سے بھی پردہ فرض ہے۔ | 138 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 139 | عورت کا کھلے سرئی وی کیمرہ کے سامنے آنا حرام ہے۔ | 5 | 85 |
| 140 | مرد کے لیے غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کا گناہ۔ | 5 | 86 |
| 141 | وَلَا يَضُرُّ بِنَ بَارِ جُلْهَنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ (نور: 31) | 5 | 86 |
| 142 | اسکے زیور کی جھنکار کسی کو سنائی نہ دے۔ | 5 | 86 |
| 143 | خوشبو لگا کر باہر جانے والی عورت کی سزا قیامت میں۔ | 5 | 87 |
| 144 | جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ (نور: 60) | 5 | 122 |
| | بوڑھی عورتوں کے لیے سر ڈھانپنے کے بارے میں کچھ تخفیف۔ | | |
| 145 | فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمِثُّ عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۗ (قصص: 25) | 5 | 298 |
| | حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دختر شعیب رضی اللہ عنہا چہرے کو ڈھانپ کر آئی، گویا اگر عورت مجبوراً گھر سے نکلے تو حجاب میں نکلے۔ | | |
| 146 | إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ (قصص: 27) | 5 | 302 |
| | حضرت شعیب رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹی کا نکاح اس لیے کر دیا کہ جو ان بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ | | |
| 147 | يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ (احزاب: 59) | 5 | 569 |
| | مومنہ عورتوں کو سر پر ایسی موٹی چادریں لینے کا حکم جس سے کچھ چہرہ بھی چھپ جائے۔ | | |
| 148 | کیا عورت کا چہرہ اعضاء ستر میں سے ہے؟ | 5 | 570 |
| 149 | ذَلِكَ أَذُنِي أَنْ يُعْرَفَنَّ فَلَا يُوْذِينَ ۗ (احزاب: 59) | 5 | 574 |
| | پردہ عورت کی حفاظت ہے۔ | | |
| | موسمی اور مروجہ قوالی کی حرمت | | |
| 150 | وَ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْدِيَةً ۗ (انفال: 35) | 3 | 345 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|----------------------------|-----|--|-----------|
| 345 | 5 | حمد و نعت کے ساتھ آلاتِ موسیقی کے بجانے کی حرمت۔ | 150 |
| 365 | 4 | وَاسْتَفْزِزُ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (بنی اسرائیل: 64) شیطان کی آواز سے مراد بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما طبلہ و سارنگی اور گانا بجانے کی آواز ہے۔ | 151 |
| سوار ہونے کے آداب | | | |
| 634 | 3 | وَ قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسِيهَا (ہود: 41) سواری پر اللہ کا نام لیکر سوار ہونا چاہیے۔ | 152 |
| 634 | 3 | حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی سوار ہونے کی دعاء۔ | 153 |
| 314 | 6 | وَ تَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾ (زخرف: 13) آغاز سفر کی مسنون دعائیں۔ | 154 |
| آدابِ مجلس | | | |
| 587 | 6 | سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِیْنَ تَقُومُ ﴿۴۸﴾ (طور: 48) مجلس سے اٹھتے ہوئے کیا مسنون دعا پڑھی جائے؟ | 155 |
| 10 | 7 | اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُوْلِ (مجادلہ: 9) کوئی ایسی خفیہ میٹنگ جائز نہیں جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے باعثِ آزار ہو، حدیث سے اسکی وضاحت۔ | 156 |
| 13 | 7 | اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجْلِیْسِ فَاَفْسَحُوا (مجادلہ: 11) مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی فضیلت۔ | 157 |
| مہمان نوازی کے آداب | | | |
| 650 | 3 | فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعَجْلِ حَنِیْدٍ ﴿۶۹﴾ (ہود: 69) ہر مہمان کی میزبانی کی جائے، خواہ تعارف ہو یا نہ ہو۔ | 158 |
| 650 | 3 | غریب و نادار مسافر کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ | 159 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|----------------------|-----|--|-----------|
| 655 | 3 | وَلَا تُخْزُونَ فِي ضَيْفِي ۗ (حود: 78) مہمان کی عزت صاحب خانہ کی عزت ہے۔ | 160 |
| 53 | 4 | وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۵۹﴾ (یوسف: 59) حضرت یوسف علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ یہ صفت انبیاء ہے۔ | 161 |
| رہائش کے آداب | | | |
| 205 | 3 | تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا (اعراف: 74) اونچا گھر بنانا جائز ہے بشرطیکہ تکبر مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قوم ثمود کے لیے بطور نعمت ذکر فرمائی۔ | 162 |
| 206 | 5 | وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ (شعراء: 129) اونچا اور اعلیٰ گھر بنانا کہاں درست ہے کہاں نہیں، حدیث سے۔ | 163 |
| 80 | 4 | وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ (یوسف: 100) گاؤں کی رہائش چھوڑ کر شہر آ بسنا اللہ کی نعمت ہے۔ | 164 |
| 262 | 4 | وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا (نمل: 80) رہائش کے لیے گھر کامل جانا عظیم نعمت خداوندی ہے جس کا شکر لازم ہے تو گھر میں اللہ کے نام بسم اللہ کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ | 165 |
| 409 | 4 | فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ (کہف: 16) جب آبادی میں ایمان کا بچانا مشکل ہو تو غاروں میں جا کر رہنا جائز ہے۔ | 166 |
| 413 | 4 | وَكَلْبُهُمْ بِأَسْطِ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (کہف: 18) حفاظتی کتے کو وصید چوکھٹ پر رکھنا چاہیے، گھر کے اندر نہیں لانا چاہیے۔ | 167 |
| 413 | 4 | حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ | 168 |
| 206 | 5 | اتَّبِنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ (شعراء: 128) | 169 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 206 | 5 | اونچا اور اچھا مکان بنانا کہاں درست ہے کہاں نہیں؟ | 170 |
| | | سونے جاگنے کے آداب | |
| 579 | 3 | جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ (یونس: 67) معلوم ہو رات کو جلد سونا چاہیے تاکہ نماز فجر کے لیے اٹھا جاسکے۔ | 171 |
| 5 | 4 | يَا بَتِ اِنِّي رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (یوسف: 4) اچھا خواب اپنے کسی مخلص کو بتایا جائے اور بُرا خواب بتایا ہی نہ جائے از حدیث۔ | 172 |
| 38 | 4 | وَاَمَّا الْاٰخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَاسِهٖ (یوسف: 41) جھوٹا خواب گھڑنے کا گناہ۔ | 173 |
| 42 | 4 | قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاْبَا (یوسف: 47) ضروری نہیں کہ خواب پہلے معبر کے مطابق ہی ہو جائے۔ | 174 |
| 28 | 5 | مُسْتَكْبِرِيْنَ ۙ بِهٖ سَبَرًا تَهْجُرُوْنَ (مومنون: 67) کفار مکہ رات گئے تک محفل سجاتے تھے اور دیر سے سوتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسکا رد کیا۔ | 175 |
| 28 | 5 | رات گئے تک بیکار جاگنے اور دیر سے سونے کی بُرائی۔ | 176 |
| 37 | 5 | وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۗ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ (مومنون: 97:98) سونے سے قبل دعاء پڑھنے کا استحباب تاکہ بُرے خواب سے بچا جائے۔ | 177 |
| 145 | 6 | اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَلْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا (زمر: 42) نیند کو بھی ایک موت قرار دیا گیا۔ | 178 |
| 146 | 6 | روح حیوانی و روح سلطانی۔ | 179 |
| 146 | 6 | نیند کا آغاز و اختتام اللہ کے ذکر پر ہونا چاہیے۔ | 180 |
| 146 | 6 | سونے سے قبل اور سونے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے از حدیث۔ | 181 |
| 147 | 6 | نیند موت کو یاد دلاتی ہے۔ | 182 |
| 211 | 6 | اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا (مومن: 61) | 183 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------------------|--|-----|-----------|
| 184 | دن اور رات کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرنا چاہیے۔ | 6 | 211 |
| 185 | الْمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ (نباء: 6) زمین پر سونے کی فضیلت۔ | 7 | 303 |
| 186 | وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ (نباء: 9) نیند قدرتِ خداوندی کی اعلیٰ نشانی ہے۔ | 7 | 304 |
| 187 | نیند موت کی نشانی ہے۔ | 7 | 304 |
| مختلف آداب زندگی | | | |
| 188 | وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ (مومنون: 3) وہ کھلیں جن میں کوئی جسمانی ورزش نہیں جیسے شطرنج، لڈو، سنوکر وغیرہ محض ضیاع وقت ہے، مومن کے لیے ان میں انہماک مکروہ ہے۔ | 5 | 5 |
| 189 | البتہ جن میں ورزش ہے جیسے فٹ بال، کرکٹ، ہاکی، کشتی، کبڈی، نیزہ بازی، گھڑسواری وغیرہ ان میں حرج نہیں، بشرطیکہ اور دیگر دینی فرائض سے غفلت نہ ہو۔ | 5 | 6 |
| 190 | وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ (شعراء: 224) شاعری کوئی اچھی ہے کوئی بُری ہے۔ | 5 | 227 |
| 191 | إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ﴿٢٢٧﴾ (شعراء: 227) معلوم ہوا نصرتِ اسلام اور حمد و نعت کی شاعری اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ | 5 | 228 |
| 192 | إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ (نمل: 30) خط کا آغاز بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے کرنا چاہیے، اس پر حدیث۔ | 5 | 250 |
| 193 | بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ (نمل: 36) ہدیہ قبول کرنا چاہیے، بشرطیکہ رشوت نہ ہو۔ | 5 | 252 |
| 194 | وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴿٦٨﴾ (قصص: 68) | 5 | 326 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 326 | 5 | ہر کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو بندے کو ہر اہم کام میں اللہ تعالیٰ سے بصورتی استخارہ مشورہ کرنا چاہیے۔ دعاء استخارہ۔ | 194 |
| 454 | 4 | لَا تَسْتَطْعَمًا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا (کہف: 77) | 195 |
| | | حاجت مند مسافر اپنے لیے کھانا مانگ سکتا ہے۔ | |
| 496 | 4 | يَأْتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (مریم: 42) | 196 |
| | | بزرگوں کو انکا نام لیکر نہ بلایا جائے احترام سے پکارا جائے خواہ وہ گمراہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافر چچا کو احترام سے بلایا۔ | |
| 496 | 4 | یہ بھی معلوم ہوا اگر خاندان کا بزرگ گمراہ ہو تو چھوٹے اسے سمجھا سکتے ہیں۔ | 197 |
| | | احکام میراث | |
| 254 | 2 | لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ (نساء: 7) | 198 |
| | | بیٹیوں اور بیوہ کو میراث سے محروم کرنے کا گناہ۔ | |
| 254 | 2 | مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ (نساء: 7) | 199 |
| | | زیادہ قریبی عزیز دور والے کو میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ | |
| 254 | 2 | یتیم پوتے کی میراث کا مسئلہ اور اس کا حل۔ | 200 |
| 258 | 2 | لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (نساء: 11) | 201 |
| | | میراث میں اولاد کا حصہ۔ | |
| 258 | 2 | وَلِابْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ (نساء: 11) | 202 |
| | | میراث میں والدین کا حصہ۔ | |
| 258 | 2 | بیٹا اور باپ عصبہ بنفسہ ہیں۔ | 203 |
| 258 | 2 | وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ (نساء: 12) | 204 |
| | | میراث میں میاں بیوی کا حصہ۔ | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 258 | 2 | وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً (نساء: 12) | 205 |
| | | علم فرائض کی اہمیت | |
| 258 | 2 | غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ (نساء: 12) میراث میں سے کسی کا حق مارنا ظلم ہے۔ | 206 |
| 258 | 2 | بیوہ کی میراث میں کمی اسکے لیے نکاح ثانی کی ترغیب ہے۔ | 207 |
| 499 | 2 | لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ (نساء: 176) سگے بہن بھائی کی میراث۔ | 208 |
| 383 | 3 | وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (انفال: 73) کوئی کافر و مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، کفار باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ حدیث سے | 209 |
| 404 | 7 | وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّبًّا (نجر: 19) عزیزوں کا حق میراث ہڑپ کرنے کی برائی۔ | 210 |

الْبِرُّ وَالْإِحْسَانُ

- ◎ والدین سے حسن سلوک۔
- ◎ قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی۔
- ◎ یتامیٰ و مساکین سے حسن سلوک۔
- ◎ پڑوسی سے حسن سلوک۔
- ◎ مہمان، مسافر اور ملازم سے حسن سلوک۔
- ◎ سب مسلمانوں سے حسن سلوک۔

الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | والدین سے حسن سلوک | | |
| 1 | أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً (بقرہ: 67) | 1 | 239 |
| | بنی اسرائیل کا گائے کے ذبح کا حکم اصل میں ایک نوجوان کی اطاعت والدین کا صدمہ تھا۔ | | |
| 2 | وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (بقرہ: 83) | 1 | 252 |
| | والدین سے احسان کا مفہوم۔ | | |
| 3 | والدین کا حق تمام حقوق العباد سے مقدم ہے۔ | 1 | 253 |
| 4 | وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (نساء: 36) | 2 | 321 |
| | والدین کا حق کیا ہے؟ | | |
| 5 | وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (انعام: 151) | 3 | 130 |
| 6 | وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (بنی اسرائیل: 23) | 4 | 332 |
| | اللہ نے والدین کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ان دونوں میں فرق؟ | | |
| 7 | اگر والدین ناجائز کام کا حکم دیں تو کیا کیا جائے؟ | 4 | 332 |
| 8 | اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد بندے پر سب سے بڑا حق خدمت والدین ہے۔ | 4 | 333 |
| 9 | إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ (بنی اسرائیل: 23) | 4 | 334 |
| | بوڑھے والدین کو آف تک نہ کہنے کا حکم کیوں ہے؟ | | |
| 10 | وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (بنی اسرائیل: 23) | 4 | 334 |
| | والدین سے کس انداز میں بات کی جائے؟ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 335 | 4 | وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (بنی اسرائیل: 24) والدین کے سامنے مطیع بیٹے کی حالت کیسی ہونی چاہیے۔ | 11 |
| 336 | 4 | وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَّبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ (بنی اسرائیل: 24) والدین کا حق کبھی ادا نہیں کیا جاسکتا۔ | 12 |
| 336 | 4 | مرحوم والدین کے حق میں اولاد کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ | 13 |
| 336 | 4 | والدین کی خدمت کا اجر و ثواب حدیث سے۔ | 14 |
| 337 | 4 | والدین کی نافرمانی کی سزا حدیث سے۔ | 15 |
| 338 | 4 | والدین اگر بیٹے کو حکم دیں کہ بیوی کو طلاق دید تو کیا کیا جائے؟ | 16 |
| 480 | 4 | وَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ (مریم: 14) معلوم ہو والدین سے حسن سلوک انبیاء کے لیے بھی باعثِ فضیلت ہے۔ | 17 |
| 346 | 5 | وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۝ (عنکبوت: 8) والدین کی خدمت جہاد سے بھی بڑی نیکی ہے۔ | 18 |
| 435 | 5 | وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۝ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ (لقمان: 14) حقوق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ | 19 |
| 435 | 5 | ماں کا حق خدمت زیادہ ہے اور باپ کا حق اطاعت زیادہ۔ | 20 |
| 435 | 5 | فاسق و فاجر والدین سے بھی حسن سلوک لازم ہے۔ | 21 |
| 436 | 5 | والدین کا خلاف شرع حکم نہ مانا جائے۔ | 22 |
| 58 | 6 | قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (صافات: 102) حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ اطاعت والد ہمیں درس دیتا ہے کہ والد کا حکم جان سے بھی عزیز جانا جائے۔ | 23 |
| 405 | 6 | وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۝ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا ۝ (احقاف: 15) والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کالیف اٹھاتے ہیں۔ | 24 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--|--|-----|-----------|
| 25 | ماں کا حق خدمت زیادہ ہے باپ کا حق اطاعت۔ | 6 | 405 |
| 26 | يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (طارق: 7) باپ کا پانی پشت سے اور ماں کا سینے سے آتا ہے۔ اس لیے ماں اولاد سے زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ حق خدمت زیادہ رکھتی ہے۔ | 7 | 377 |
| قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی | | | |
| 27 | وَذِي الْقُرْبَى (بقرہ: 83) رشتہ داروں سے حسن سلوک کا معنی۔ | 1 | 252 |
| 28 | غریب رشتہ داروں کا حق دیگر یتامی و مساکین سے مقدم ہے۔ | 1 | 254 |
| 29 | وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى (بقرہ: 177) قریبی رشتہ دار ہماری مالی امداد کے زیادہ مستحق ہیں۔ | 1 | 388 |
| 30 | وَبِذِي الْقُرْبَى (نساء: 36) قریبی رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ | 2 | 321 |
| 31 | وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (رعد: 21) ہر رشتہ کی حق ادا کیگی۔ | 4 | 113 |
| 32 | وَإِن تَأْتِي ذِي الْقُرْبَى (نحل: 90) | 4 | 268 |
| 33 | وَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (بنی اسرائیل: 26) قریبی رشتہ دار اگر غریب نادار ہو تو اس کا حق دوسرے فقیروں ناداروں سے زیادہ ہے۔ | 4 | 339 |
| 34 | وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى (نور: 22) رشتہ داروں سے حسن سلوک کی فضیلت۔ | 5 | 69 |
| 35 | فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (روم: 38) نادار قریبی رشتہ داروں کا خرچہ قریب ترین رشتہ داروں پر لازم ہے۔ | 5 | 7 |
| یتامی و مساکین سے حسن سلوک | | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 252 | 1 | وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ (بقرہ: 83) یتیموں مسکینوں سے حسن سلوک کا مفہوم۔ | 36 |
| 246 | 2 | وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ (نساء: 2) یتیموں کا مال کھانے کی برائی۔ | 37 |
| 251 | 2 | حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (نساء: 6) جب یتیم بالغ ہو جائے اور سمجھ دار ہو تو اسے اس کا مال دیدو۔ | 38 |
| 251 | 2 | لڑکی لڑکا کب بالغ ہو جاتے ہیں۔ | 39 |
| 256 | 2 | إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (نساء: 10) یتیم کا مال کھانے کی برائی۔ | 40 |
| 321 | 2 | وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ (نساء: 36) کفالت یتیم کا اجر۔ | 41 |
| 442 | 2 | وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ (نساء: 127) یتیموں کا مال نہ کھانے اور ان سے حسن سلوک کا حکم۔ | 42 |
| 636 | 2 | إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ (مائدہ: 89) اسلام میں غریب پروری کی اہمیت۔ | 43 |
| 133 | 3 | وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (انعام: 152) مال یتیم کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ | 44 |
| 346 | 4 | وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (بنی اسرائیل: 34) یتیم کو حق میراث سے محروم کرنے کا گناہ۔ | 45 |
| 455 | 4 | فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (کہف: 79) مال یتیم کی بہتری کے لیے اس کے مال میں نقصان کرنا جائز ہے۔ | 46 |
| 403 | 7 | كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (نجر: 17، 18) وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ | 47 |

| نمبر شمار | مفاسین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 47 | اکرام یتیم کی فضیلت حدیث سے۔ | 7 | 403 |
| 48 | فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ (نہی: 9) یتیم اور سائل کی دلداری کرنے کی فضیلت۔ | 7 | 455 |
| 49 | فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٣٠﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (ماعون: 3:2) یتیم پر ظلم کرنے کا عذاب۔ | 7 | 540 |
| 50 | مسکین کو خود بھی کھلاؤ دوسروں سے بھی کھلاؤ۔ | 7 | 540 |
| | بہتر اس سے حسن سلوک | | |
| 51 | وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ (نساء: 36) پڑوسی سے حسن سلوک کے تقاضے۔ | 2 | 321 |
| 52 | اسلام میں پڑوسی سے حسن سلوک کی اہمیت۔ | 2 | 322 |
| | مہمان مسافر اور ملازم سے حسن سلوک | | |
| 53 | وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ (نساء: 36) مہمان سے حسن سلوک کی اہمیت۔ | 2 | 323 |
| 54 | وَأَبْنِ السَّبِيلِ (نساء: 36) | 2 | 323 |
| 55 | وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (نساء: 36) غلاموں (زیر دستوں) سے حسن سلوک کی اہمیت۔ | 2 | 323 |
| | بہتر مسلمانوں سے حسن سلوک | | |
| 56 | مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا (نساء: 85) ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت۔ | 2 | 388 |
| 57 | وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا (نساء: 86) سلام کہنے کے چند شرعی آداب۔ | 2 | 389 |
| 58 | ہر کسی کو سلام کہنا چاہیے، خواہ تعارف ہو یا نہ ہو۔ | 2 | 390 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 390 | 2 | سلام کے تلفظ میں غلطیوں کی تصحیح۔ | 59 |
| 285 | 7 | وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (دہر: 8) فقراء کو کھلانے کا ثواب حدیث سے۔ | 60 |

الاخلاق

● اخلاق جلیلہ

- تقویٰ ○ مشاورت ○ خشیتِ الہیہ ○ اخلاص ○ حیا ○ صبر
- استقامت ○ توبہ ○ عفو و درگزر ○ توکل ○ ایفاء عہد ○ شکر

● اخلاق رزیلہ

- نفاق ○ تکبر ○ ظلم ○ جادوگری ○ حسد ○ استہزاء ○ خیانت
- ریاء ○ جھوٹ ○ غیبت ○ بدگمانی ○ حرص و بخل
- بہتان بازی و تہمت زنی

کتاب الاخلاق

اخلاق جلیلہ

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | تقویٰ | |
| 130 | 1 | هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۲﴾ (بقرہ: 2) تقویٰ کے تین درجات۔ | 1 |
| 118 | 2 | اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (آل عمران: 102) کیا یہ آیت منسوخ ہے؟ | 2 |
| 157 | 2 | وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (آل عمران: 133) نیکی کے کاموں میں سبقت لیجانا چاہیے۔ | 3 |
| 559 | 2 | وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾ (مائدہ: 23) | 4 |
| 646 | 2 | إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا (مائدہ: 93) تقویٰ کے تین مدارج۔ | 5 |
| 164 | 3 | وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴿۲۶﴾ (اعراف: 26) تقویٰ کا لباس ظاہری لباس سے زیادہ اہم ہے۔ | 6 |
| 164 | 3 | لباس اللہ کی نعمت ہے۔ | 7 |
| | | مشاورت | |
| 173 | 1 | وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ (بقرہ: 30) مشاورت کی اہمیت۔ | 8 |
| 193 | 2 | وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴿۱۵۹﴾ (آل عمران: 159) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم دیا گیا۔ | 9 |

| نمبر شمار | مفاسین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | حسب الہیہ | | |
| 10 | لَمَّا يَهَيِّطُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ (بقرہ: 74) | 1 | 245 |
| | خشیت الہی کی فضیلت۔ | | |
| 11 | فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا ۖ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۗ (توبہ: 82) | 3 | 479 |
| | خوف خدا سے رونے کی فضیلت۔ | | |
| 12 | وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ (رعد: 21) | 4 | 113 |
| | خوف خدا اہل ایمان کی صفت۔ | | |
| 13 | إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۗ --- وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۗ (بنی اسرائیل: 107-109) | 4 | 398 |
| | خوف خدا سے رونے کی فضیلت۔ | | |
| 14 | وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۗ (مومنون: 60) | 5 | 26 |
| | | | |
| 15 | إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ (فاطر: 28) | 5 | 634 |
| | علم خشیت الہیہ کا سبب ہے۔ | | |
| 16 | فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِيبَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ (زمر: 22) | 6 | 130 |
| | دل کی سختی اور اس کا علاج۔ | | |
| 17 | وَلَمِنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۗ (رحمان: 46) | 6 | 652 |
| | اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف اور اس کا اجر۔ | | |
| 18 | أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (حدید: 16) | 6 | 695 |
| | اونچا ہونے کی برائی حدیث سے۔ | | |
| 19 | وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ (نازعات: 40) | 7 | 319 |
| | خشیت الہی کی عظمت و فضیلت۔ | | |
| | اخلاص | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-------------|-----|---|-----------|
| 413 | 2 | فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ (سآء: 100) نیکی کے راستے میں مرنے والے کو تا قیامت اس نیکی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ | 20 |
| 125 | 6 | إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ (زمر: 11) درس اخلاص۔ | 21 |
| 278 | 6 | مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا (شوری: 20) اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ | 22 |
| 284 | 7 | إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِيُوجِبَ اللَّهُ لَكُمْ جَزَاءً ۖ وَلَا تَشْكُرُوا ﴿٩﴾ (دھر: 9) کسی سے نیکی کے بدلے یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شکر یہ ادا کرے۔ | 23 |
| حیاء | | | |
| 24 | 4 | وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ (یوسف: 25) حضرت یوسف علیہ السلام کا تنہائی میں اجنبی عورت کے پاس بیٹھنے سے بھاگنا۔ | 24 |
| 25 | 4 | جونو جوان اپنی عزت بچانا چاہے اللہ رب العزت اسکی مدد کرتا ہے۔ | 25 |
| 298 | 5 | فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۗ (قصص: 25) دختر حضرت شعیب علیہ السلام کی حیاء اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے حیا کرنا۔ | 26 |
| 555 | 5 | إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَجِئُ مِنْكُمْ ۗ (احزاب: 53) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حیاء۔ | 27 |
| صبر | | | |
| 356 | 1 | اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ (بقرہ: 153) صبر کی تعریف اور معنی۔ | 28 |
| 356 | 1 | صبر و نماز کی اہمیت در مصائب۔ | 29 |
| 360 | 1 | وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ (بقرہ: 155) | 30 |

| نمبر شمار | مفاسین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 30 | مصیبت پر صبر کا اجر۔ | 1 | 360 |
| 31 | إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کا اجر۔ | 1 | 361 |
| 32 | أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصّٰبِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ (آل عمران: 142) جنت میں جانے کے لیے مصائب اٹھانا پڑتے ہیں۔ | 2 | 163 |
| 33 | لَتُبْلَوْنَ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴿۱۸۶﴾ (آل عمران: 186) | 2 | 229 |
| 34 | وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ ﴿۷۹﴾ (نساء: 79) مصائب میں مومن کو اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ | 2 | 380 |
| 35 | ہر مصیبت مومن کے لیے دراصل ایک نعمت ہے۔ | 2 | 380 |
| 36 | وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ (مامدہ: 4) شکاری کتے کو جب سکھا دیا جائے تو وہ شکار میں سے کچھ نہیں کھاتا۔ اس سے انسان کو صبر کا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ | 2 | 523 |
| 37 | إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ (یوسف: 90) تقویٰ و صبر کی اہمیت۔ | 4 | 71 |
| 38 | وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ﴿۲۲﴾ (رعد: 22) صبر کرنا اہل ایمان کی صفت۔ | 4 | 113 |
| 39 | سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۴﴾ (رعد: 24) صبر کی فضیلت حدیث سے۔ | 4 | 114 |
| 40 | الْبَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿۴۶﴾ (کہف: 46) صبر و متانت کی فضیلت حدیث سے۔ | 4 | 435 |
| 41 | إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴿۴۴﴾ نِعْمَ الْعَبْدُ ﴿۴۴﴾ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۴۴﴾ (ص: 44) صبر ایوب علیہ السلام۔ | 6 | 98 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------|--|-----|-----------|
| 42 | فَصْبِرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا (انعام: 34) صبر طریقہ انبیاء ہے۔ | 3 | 28 |
| 43 | قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ (يوسف: 50) معلوم ہوا مومن کو عزت سے جینا چاہیے خواہ اس میں تکلیف ہو۔ | 4 | 44 |
| 44 | قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبِرْ جَمِيْلًا ۗ (يوسف: 83) مصیبت میں صبر کرنے کی فضیلت حدیث سے۔ | 4 | 67 |
| استقامت | | | |
| 45 | اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (بقرہ: 214) حصولِ جنت کے لیے تکالیف اٹھانا پڑیں گی۔ | 1 | 456 |
| 46 | وَلَيَايَاتِكُمْ مِّثْلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ (بقرہ: 214) انبیاء کرام ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے دین کے لیے عملی جدوجہد کی۔ | 1 | 456 |
| 47 | رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا (آل عمران: 8) اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ | 2 | 11 |
| 48 | فَاسْتَقِمُّ كَمَا اُمِرْتُمْ (ہود: 112) استقامت کی فضیلت۔ | 3 | 671 |
| 49 | اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ (خم سجدہ: 30) دین پر استقامت کا مفہوم اور اسکے عالی وقار حاملین۔ | 6 | 246 |
| 50 | استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ | 6 | 247 |
| 51 | اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ (احقاف: 13) استقامت اور دو پر حاضر کے زر پرست علماء و مشائخ کا حال۔ | 6 | 403 |
| توبہ | | | |
| 52 | اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ (آل عمران: 89) | 2 | 106 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 52 | سچی توبہ سے کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ | 2 | 106 |
| 53 | وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ (آل عمران: 135) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شدید احساسِ توبہ۔ | 2 | 158 |
| 54 | إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ (نساء: 17) توبہ کی شرائط اور اسکے آداب۔ | 2 | 273 |
| 55 | وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ (نساء: 110) | 2 | 426 |
| 56 | فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ (بقرہ: 54) امتِ محمدیہ کے لیے توبہ کی آسانی۔ | 1 | 213 |
| 57 | إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۗ (مائدہ: 34) توبہ سے اخروی سزا معاف ہوتی اور دنیا میں حد قصاص سے بدل جاتی ہے۔ | 2 | 572 |
| 58 | فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ (مائدہ: 39) سچی توبہ سے آخرت میں چوروں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ | 2 | 580 |
| 59 | كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ (انعام: 54) فضیلتِ توبہ۔ | 3 | 46 |
| 60 | وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ (براءت: 118) سچائی اور توبہ کی عظمت۔ | 3 | 520 |
| 61 | وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا (ہود: 3) سچی توبہ سے سابقہ گناہوں کی معافی۔ | 3 | 607 |
| 62 | وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ (یوسف: 9) توبہ کی امید پر گناہ کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔ | 4 | 11 |
| 63 | ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ (نحل: 119) | 4 | 292 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 63 | سچی توبہ سے زندگی کا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ | 4 | 292 |
| 64 | إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ (فرقان: 70) روزِ قیامت گناہوں کو نیکیاں کیسے بنایا جائے گا حدیث سے۔ | 5 | 168 |
| 65 | لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ (زمر: 53) | 6 | 153 |
| 66 | وَ أَنْيَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُاتِيَكُمْ الْعَذَابُ (زمر: 54) موت سے قبل توبہ کر لینے کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی واقعہ۔ | 6 | 156 |
| 67 | وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (شوری: 25) توبہ کی فضیلت اور قبولیت توبہ کی شرائط۔ | 6 | 288 |
| عفو و درگزر | | | |
| 68 | وَ الْكٰظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ (آل عمران: 134) غصہ پی جانے اور معاف کر دینے کی فضیلت۔ | 2 | 156 |
| 69 | فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ (آل عمران: 159) رحمدلی وہی صفت ہے۔ | 2 | 192 |
| 70 | خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۗ (اعراف: 199) عفو و درگزر کی فضیلت و اہمیت۔ | 3 | 307 |
| 71 | وَ قَالَ لِغُلَامَيْهِ اجْعَلُوا بِيضًا عَتَمَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ (یوسف: 62) برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اخلاقِ پیغمبرانہ ہے۔ | 4 | 55 |
| 72 | لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ ۗ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۗ (یوسف: 92) عفو و درگزر کی اہمیت۔ | 4 | 72 |
| 73 | درگزر کے حوالے سے سیرتِ یوسفی و سیرتِ محمدی میں مماثلت۔ | 4 | 72 |
| 74 | فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ (شوری: 40) | 6 | 299 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 74 | درگزر کی فضیلت حدیث سے۔ | 6 | 299 |
| | توکل | | |
| 75 | وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ (آل عمران: 173) حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کہنے کی فضیلت۔ | 2 | 216 |
| 76 | فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجِيعُوا أَمْرَكُمْ (یونس: 71) بندہ مومن اللہ پر بھروسہ کر کے طاغوتی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ | 3 | 581 |
| 77 | فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ (یونس: 84) اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں کو بڑے بڑے فرعونوں سے بچاتا ہے۔ | 3 | 587 |
| 78 | فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾ (یوسف: 64) جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ | 4 | 55 |
| 79 | عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۗ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ (یوسف: 67) | 4 | 57 |
| 80 | عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿٣٠﴾ (رعد: 30) | 4 | 119 |
| 81 | وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ (عنکبوت: 60) انسان کو پرندوں سے توکل سیکھنا چاہیے۔ | 5 | 378 |
| 82 | حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ (زمر: 38) توکل کی فضیلت۔ | 6 | 144 |
| 83 | وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ (طلاق: 3) عظیم درس توکل و صبر۔ | 7 | 127 |
| | ایفاء عہد | | |
| 84 | أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ (مائدہ: 1) یہ حکم اپنے معنی میں پورے نظام شریعت کو محیط ہے۔ | 2 | 503 |
| 85 | وعدہ خلافی کا گناہ۔ | 2 | 503 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 134 | 3 | وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا (انعام: 152) اللہ کے وعدہ کی تکمیل کیا ہے؟ | 86 |
| 112 | 4 | الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (رعد: 20) | 87 |
| 269 | 4 | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غَزْلَهَا (نحل: 92) دنوی لالچ میں بدعہدی کی سنگینی۔ | 88 |
| 271 | 4 | تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى (نحل: 94) بدعہدی کرنے والے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ | 89 |
| 346 | 4 | وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل: 34) | 90 |
| 501 | 4 | إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (مریم: 54) ایفاء عہد کو ایک پیغمبر کے لیے وجہ فضیلت بتایا گیا۔ | 91 |
| 9 | 5 | وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (مومنون: 8) | 92 |
| | | شکر | |
| 189 | 3 | أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ (اعراف: 50) پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر و قیمت۔ | 93 |
| 250 | 3 | وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (اعراف: 144) فضیلت شکر۔ | 94 |
| 136 | 4 | لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم: 7) شکر سے نعمت کا بڑھنا اور شکر کی صورتیں۔ | 95 |
| 137 | 4 | اچھی گاڑی رکھنا یا اچھا پہننا بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ | 96 |
| 138 | 4 | نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ اسے محروموں تک پہنچایا جائے۔ | 97 |
| 138 | 4 | نعمت کی ناشکری عذاب کا سبب ہے۔ | 98 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------------------|-----|--|-----------|
| 260 | 4 | وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ (نحل: 78) آنکھوں کانوں اور دل کا شکر۔ | 99 |
| 319 | 4 | ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٣﴾ (بنی اسرائیل: 3) اہمیت شکر اور طریقہ شکر۔ | 100 |
| 32 | 5 | وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ (مومنون: 78) آنکھوں کانوں اور دل کا شکر کیسے ادا ہو؟ | 101 |
| زبد و ترل دنیا | | | |
| 579 | 1 | لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 273) اصحابِ صفہ کی فضیلت۔ | 102 |
| 427 | 4 | وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ (کہف: 28) فضیلتِ فقراء حدیث سے۔ | 103 |

اخلاق رزیلہ

| نمبر شمار | مفاسین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | نفاق | | |
| 1 | وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا (بقرہ: 14) | 1 | 154 |
| | دو چہروں والا انسان منافق ہے۔ | | |
| 2 | دنوی مفادات کے لیے اسلام کا نام لینا منافقین کا کام ہے۔ | 1 | 158 |
| 3 | اتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ (بقرہ: 44) | 1 | 201 |
| | واعظ بے عمل کا عذاب۔ | | |
| 4 | وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ (بقرہ: 204) | 1 | 447 |
| | ایک مومن اور ایک منافق کے کردار کا باہمی تقابل۔ | | |
| 5 | عمل سے خالی دعویٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت۔ | 1 | 448 |
| 6 | فَإِنْ أَصَابْتُمْ مُمْسِيَةً (نساء: 72) | 2 | 370 |
| | منافقوں کی مفاد پرستی کی وضاحت۔ | | |
| 7 | إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (نساء: 145) | 2 | 464 |
| | جہنم میں منافقین کا خوفناک درجہ۔ | | |
| | تکبر | | |
| 8 | أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ (بقرہ: 34) | 1 | 179 |
| | تکبر کی مذمت۔ | | |
| 9 | أَهْوَلَاءٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنَاتٍ (انعام: 53) | 3 | 45 |
| | کسی کمزور کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ | | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 10 | فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا (اعراف: 13) تکبر کی برائی قرآن و حدیث سے۔ | 3 | 155 |
| 11 | قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ﴿٧٦﴾ (اعراف: 76) تکبر کفر تک بھی لیجاتا ہے۔ | 3 | 266 |
| 12 | وَمَا نَرِيكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ كَفُرُوا (هود: 27) قوم نوح علیہ السلام کے اغنیاء نے کہا کہ چند ذلیل لوگ (فقراء) ایمان لائے ہیں۔ | 3 | 624 |
| 13 | فقراء کو حقیر جاننا طریقہ کفار ہے۔ | 3 | 625 |
| 14 | إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ (بنی اسرائیل: 27) فضول خرچی اور نام و نمود پر مال کا ضیاع بھی تکبر کی ایک مکروہ صورت ہے۔ | 4 | 341 |
| 15 | فضول خرچی کی بعض صورتیں۔ | 4 | 342 |
| 16 | وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ (بنی اسرائیل: 37) زمین پہ اکڑ کر چلنے کی برائی اور تکبر کی شدید مذمت حدیث سے۔ | 4 | 348 |
| 17 | وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ (فرقان: 20) جب سردارانِ مکہ نے غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا اور ایمان سے محروم رہ گئے۔ | 5 | 144 |
| 18 | وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ (فرقان: 63) تواضع کی فضیلت اور تکبر کی مذمت۔ | 5 | 164 |
| 19 | وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: 18) | 5 | 437 |
| 20 | فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴿٣٢﴾ (نجم: 32) خوشامد پسندی کی مذمت۔ | 6 | 610 |
| 21 | وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ (حدید: 23) | 6 | 700 |
| 22 | وَأُحِيطَ بِشَرِّهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهِ (کہف: 42) | 4 | 433 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------|---|-----|-----------|
| 22 | اپنے مال پر تکبر کرنے والے کا مال تباہ کر دیا گیا۔ | 4 | 433 |
| 23 | اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَ اَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ (مریم: 73) اپنے مال اور سیاسی مرتبہ پر اترانا کفار کا طریقہ ہے۔ | 4 | 511 |
| 24 | اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَ اتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْا بِالْعُصْبَةِ اُولَى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ﴿٧٦﴾ (قصص: 76) قارون اپنے مال کے سبب متکبر ہوا اور دامن کو گھسیٹ کر چلا تو ہلاک ہوا۔ | 5 | 331 |
| ظلم | | | |
| 25 | وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٧٢﴾ (بقرہ: 72) ظلم خواہ ستر کمروں میں چھپ کر کیا جائے وہ ضرور ظاہر ہو جاتا ہے۔ | 1 | 243 |
| 26 | اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ (نمل: 62) مظلوم و مجبور کی آہ سے ڈرنا چاہیے حدیث میں اسکی صراحت۔ | 5 | 285 |
| 27 | وَ اِنْ تَبْتغُوْا فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ ؕ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾ (بقرہ: 279) مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے۔ | 1 | 593 |
| 28 | اِنَّ الَّذِیْنَ یَاکُلُوْنَ اَمْوَالَ الْیَتٰمٰی ظٰلِمًا (نساء: 10) یتیموں کا مال ظلماً ہڑپ کرنے والوں کی آخری سزا حدیث سے۔ | 2 | 256 |
| 29 | فَوَكَزَهُ مُوسٰی فَقَضٰی عَلَیْهِ ؕ (قصص: 15) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سزا دی کہ وہ ظالم تھا۔ معلوم ہوا مظلوم کا ساتھ دیا جائے نہ کہ ظالم کا، خواہ ظالم محسن ہو۔ | 5 | 293 |
| جادوگری | | | |
| 30 | یُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴿١٠٢﴾ (بقرہ: 102) جادو کفر ہے اور جادوگر کافر و زندیق ہے۔ | 1 | 274 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|----------------|--|-----|-----------|
| 31 | جادو منتر سے قطع رحمی پیدا کرنا یہودی خصلت ہے۔ | 1 | 278 |
| 32 | جادوگر کی شرعی سزا قتل ہے۔ | 1 | 579 |
| 33 | وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (لق: 4) جادو برحق ہے۔ | 7 | 585 |
| حسد | | | |
| 34 | وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (لق: 5) حسد کی مذمت۔ | 7 | 585 |
| 35 | حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ (بقرہ: 109) حسد کی بُرائی۔ | 1 | 290 |
| 36 | أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ (نساء: 54) حسد کفر تک لے جاتا ہے۔ | 2 | 339 |
| 37 | قَالَ لَا قُتِلْتَنَّا (مائدہ: 27) قائیل کا ہابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کرنا۔ | 2 | 564 |
| 38 | حسد گناہوں کی جڑ ہے۔ | 4 | 11 |
| 39 | إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبِنَا مِنَّا (یوسف: 8) حسد نے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم پر آمادہ کیا۔ | 4 | 8 |
| 40 | حسد کی بُرائی حدیث سے۔ | 4 | 84 |
| 41 | ءَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا (ص: 8) سردارانِ مکہ کو حسد ہوا کہ ہم میں سے اس شخص (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر قرآن کیوں اتارا گیا۔ | 6 | 84 |
| استہزاء | | | |
| 42 | وَيُلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٌ (ہمزہ: 1) | 7 | 527 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|--------------|---|-----|-----------|
| 42 | کمزور لوگوں پر اشارہ بازی و زبان درازی کی سزا جہنم ہے۔ | 7 | 527 |
| 43 | وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا (بقرہ: 212) کسی کمزور کا مذاق اڑانے کی برائی۔ | 1 | 452 |
| 44 | لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ (حجرات: 11) مذاق اڑانے کا عذاب حدیث سے۔ | 6 | 522 |
| 45 | وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ (حجرات: 11) طعن زنی اور برے نام سے پکارنے کا گناہ۔ | 6 | 523 |
| 46 | هَبَّازٌ مَّشَاءً بَنِيْمٌ (ن: 11) | 7 | 181 |
| خیانت | | | |
| 47 | إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا (آل عمران: 77) امانت میں خیانت کی برائی۔ | 2 | 91 |
| 48 | لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ (انفال: 27) امانت میں خیانت کا گناہ۔ | 3 | 339 |
| 49 | وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِيَّتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفٌ (معارج: 32) خیانت کرنے والے کا عذاب۔ | 7 | 211 |
| ریاء | | | |
| 50 | كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ (بقرہ: 264) دکھاوے کا انفاق۔ | 1 | 569 |
| 51 | يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا (آل عمران: 188) دکھاوے کا عمل برباد ہے۔ | 2 | 231 |
| 52 | وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ (نساء: 38) دکھاوے کا صدقہ کارِ منافقین ہے۔ | 2 | 326 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-------------|---|-----|-----------|
| 53 | يُرَادُونَ النَّاسَ (نساء: 142) دکھاوے کی مذمت۔ | 2 | 463 |
| 54 | مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿٥٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ﴿٥٥﴾ (سورہ: 15-16) ریا کار کے لیے جہنم کا جب الحزن۔ | 3 | 617 |
| 55 | مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ (بنی اسرائیل: 18) جو شخص اپنی نیکی میں صرف دنیا میں خود ستائی چاہے اسکا انجام اور جو آخرت کی بھلائی چاہے اسکا انعام۔ | 4 | 330 |
| جھوٹ | | | |
| 56 | يُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا (آل عمران: 188) نا کردہ عمل پر اپنی تعریف کی خواہش کی برائی۔ | 2 | 231 |
| 57 | أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ (نساء: 83) ہر سنی سنائی بات کو اڑا دینا گناہ ہے (حدیث سے)۔ | 2 | 386 |
| 58 | وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُضَلُّ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ (يوسف: 41) جھوٹا خواب گھڑنے کا گناہ۔ | 4 | 38 |
| 59 | جھوٹی حدیثیں گھڑنے کا گناہ۔ | 4 | 38 |
| 60 | وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا كَتَبْنَا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَآثِمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾ (احزاب: 58) کسی بے گناہ پر جھوٹا بہتان رکھنے کا گناہ۔ | 5 | 568 |
| 61 | ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٩﴾ (دخان: 49) معلوم ہوا تعریض سے جھوٹ لازم نہیں آتا۔ | 6 | 368 |
| 62 | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٠﴾ (صف: 2) | 7 | 74 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 62 | مناقش کی علامات حدیث سے۔ | 7 | 74 |
| 63 | بے عمل و اعظین اور جھوٹے سیاستدانوں کی برائی۔ | 7 | 74 |
| | غیبت | | |
| 64 | لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ (نساء: 148) اللہ رب العزت کو مومن کی پردہ داری پسند ہے، پردہ دری نہیں۔ | 2 | 466 |
| 65 | أَخِيهِ مَيْتًا فَكِرِهُتُمْوهُ (حجرات: 12) غیبت کی معاشرتی خرابیاں۔ | 6 | 525 |
| 66 | غیبت کا گناہ حدیث سے۔ | 6 | 525 |
| 67 | وہ صورتیں جو غیبت سے مستثنیٰ ہیں۔ | 6 | 526 |
| 68 | اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ مومن کی عزت و ناموس کی اہمیت۔ | 6 | 526 |
| 69 | زبان کی معمولی لغزش انسان کو جہنم میں گرا سکتی ہے۔ | 6 | 527 |
| | بدگمانی | | |
| 70 | وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (نساء: 94) کسی مسلمان کو کافر کہنے کی برائی۔ | 2 | 404 |
| 71 | بدگمانی کی مذمت۔ | 2 | 405 |
| 72 | إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ (یوسف: 8) برادران یوسف علیہ السلام کا اپنے والد گرامی کے بارے میں بدگمان ہونا اور ظلم کر بیٹھنا۔ | 4 | 9 |
| 73 | لَوْ لَا إِذْ سَبَعْتُمْوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا (نور: 12) مومنین کے بارہ میں اچھا گمان رکھنے کا حکم۔ | 5 | 60 |
| 74 | إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ (حجرات: 6) بری خبر کا بلا تحقیق مان لینا حکم قرآن کے خلاف ہے۔ | 6 | 514 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 524 | 6 | اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (حجرات: 12) بدگمانی کا گناہ اور عذاب حدیث سے۔ | 75 |
| | | حرص و بخل | |
| 392 | 4 | قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ (بنی اسرائیل: 100) | 76 |
| 330 | 5 | وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ (قصص: 77) قارون سے کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنی آخرت کو سنوار لو، مگر وہ حرص و بخل میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ | 77 |
| 43 | 7 | وَمَنْ يُؤَقِّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ (عن: 9) مذمت بخل حدیث سے۔ | 78 |
| 183 | 7 | إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَأْذِنُونَ ﴿١٨﴾ (ن: 17-18) بخل کرنے والے مالکان باغ کی بدبختی کا واقعہ۔ | 79 |
| 208 | 7 | إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ (معارج: 19) بخل و حرص انسان کی فطرت میں ہے اور اس پر قابو پانا ہی جہاد زندگی ہے۔ | 80 |
| 425 | 7 | وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ (البیل: 8) بخل کی برائی حدیث سے۔ | 81 |
| 517 | 7 | أَلْهِكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ (التكاثر: 1) بخل اور ہوس دنیا کی مذمت۔ | 82 |
| 518 | 7 | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبرت آموز حکایت۔ | 83 |
| 518 | 7 | مال دنیا خود بُرا نہیں۔ اس میں نیت کا اعتبار ہے۔ | 84 |
| 519 | 7 | مال کی کثرت باعثِ فخر چیز نہیں۔ | 85 |
| 519 | 7 | قبر کی پکار۔ | 86 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| | | بہتان بازی و تہمت زنی | |
| 71 | 5 | إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (نور: 23) | 87 |
| | | پاک دامن عورتوں پر تہمت زنی کا گناہ حدیث سے۔ | |
| 347 | 4 | وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل: 36) | 88 |
| | | بلا تحقیق کسی کے بارے میں بڑی بات کہنے کی سنگینی۔ | |

الشريعة الإسلامية

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | شریعت اسلامیہ کے اہم قرآنی اصول | | |
| 1 | فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (بقرہ: 30) نظام خلافت کا قیام فرض ہے۔ | 1 | 171 |
| 2 | وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقرہ: 31) خلافت کا حقدار عالم ہی ہو سکتا ہے۔ | 1 | 175 |
| 3 | وَلَا تَشْتَرُوا بِأَلْبَتِّي ثَمَنًا قَلِيلًا (بقرہ: 41) انصاف فروخت کرنے والوں کی بُرائی۔ | 1 | 195 |
| 4 | فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (بقرہ: 54) شریعت کا سخت حکم بھی پورا کیا جائے۔ | 1 | 213 |
| 5 | فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ (بقرہ: 59) نصوص شرعیہ میں تبدیلی حرام ہے۔ | 1 | 219 |
| 6 | وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ (بقرہ: 65) ناجائز حیلوں سے شرعی احکام بدل نہیں سکتے۔ | 1 | 234 |
| 7 | اتَّخِذْنَا هُزُؤًا (بقرہ: 67) اللہ کا حکم پورا کرو، خواہ حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ | 1 | 236 |
| 8 | قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نُهَا (بقرہ: 69) شریعت کے احکام میں اپنی طرف سے پابندیاں نہیں لگانی چاہیں۔ | 1 | 238 |
| 9 | أَفْتَوْا مِنْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (بقرہ: 85) شریعت کے ایک حصہ کو لینا ایک کو چھوڑنا یہودی خصلت ہے۔ | 1 | 258 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 343 | 1 | لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (بقرہ: 143) امت محمدیہ کا اجماع حجت ہے۔ | 10 |
| 401 | 1 | يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ: 185) شریعت میں نرمی ہے سختی نہیں۔ | 11 |
| 424 | 1 | قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (بقرہ: 189) اسلامی کیلنڈر قمری مہینوں سے ہے، شمسی مہینوں سے نہیں۔ | 12 |
| 482 | 1 | وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (بقرہ: 228) اسلام عادلانہ عالمی نظام قائم کرتا ہے۔ | 13 |
| 526 | 1 | اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا (بقرہ: 246) سیاست کو تابع دین ہونا چاہیے۔ | 14 |
| 527 | 1 | وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمَلِكِ مِنْهُ (بقرہ: 247) اسلام میں حکومت کسی خاندان کی میراث نہیں۔ | 15 |
| 551 | 1 | لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ (بقرہ: 256) دین میں مجبوری کے نہ ہونے کا معنی۔ | 16 |
| 609 | 1 | لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ: 286) بندے کو اسکی طاقت سے زیادہ شرعی تکلیف نہیں دی جاتی۔ | 17 |
| 609 | 1 | کیا بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ نجاست آلود حصہ جسم کو کاٹ دیں؟ | 18 |
| 51 | 2 | ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا (آل عمران: 41) امور شرعیہ میں اشارہ بمنزل کلام بن سکتا ہے۔ | 19 |
| 258 | 2 | اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا (نساء: 11) شریعت کا حکم واجب العمل ہے، خواہ حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ | 20 |
| 297 | 2 | يُرِيدُ اللهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ (نساء: 28) | 21 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 21 | دین میں سختی نہیں، نرمی ہے۔ | 2 | 297 |
| 22 | إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ (نساء: 31) صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی میں کیا فرق ہے؟ | 2 | 309 |
| 23 | صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کیا فرق ہے؟ | 2 | 309 |
| 24 | فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (نساء: 65) قرآن و سنت کے قانون کی موجودگی میں غیر اسلامی قانون کا نفاذ کفر ہے۔ | 2 | 362 |
| 25 | وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى (نساء: 115) حجیت اجماع۔ | 2 | 431 |
| 26 | لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (مائدہ: 87) اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ | 2 | 631 |
| 27 | لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (انعام: 152) کسی کو اسکی طاقت سے زیادہ شرعی تکلیف نہیں دی جاتی۔ | 3 | 133 |
| 28 | وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ (اعراف: 3) شریعت کے مقابلہ میں کسی عزیز دوست وغیرہ کی بات نہ مانی جائے۔ | 3 | 147 |
| 29 | مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدًا إِذْ أَمَرْتُكَ (اعراف: 12) امر و جوب کیلئے ہے جب تک قرینہ صارفہ موجود نہ ہو۔ | 3 | 154 |
| 30 | قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا (اعراف: 28) خلاف شرع کاموں میں خاندان کی بات نہ مانی جائے۔ | 3 | 168 |
| 31 | قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (اعراف: 32) فتوائے حرمت میں جلد بازی کی مذمت۔ | 3 | 173 |
| 32 | لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (اعراف: 42) مجبوری میں بعض حرام چیزوں کے حلال ہونے کی صورتیں۔ | 3 | 183 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 273 | 3 | وَقُولُوا حِطَّةً (اعراف: 161) نصوص شرعیہ میں تبدیلی حرام ہے۔ | 33 |
| 274 | 3 | إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ (اعراف: 163) ناجائز حیلوں سے حرام کو حلال نہیں بنایا جاسکتا۔ | 34 |
| 412 | 3 | قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا (براءت: 24) شرعی حکم کے خلاف والدین یا خاندان کی بات مت مانی جائے۔ | 35 |
| 422 | 3 | اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ (براءت: 31) قرآن و سنت کے خلاف کسی کا فتویٰ ماننا اسے رب ماننے کی طرح ہے۔ | 36 |
| 425 | 3 | إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (براءت: 34) مذہبی راہنماؤں کا زر پرست ہو جانا دین کے لیے بلاء عظیم ہے۔ | 37 |
| 445 | 3 | أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۗ (براءت: 49) احکام شرعیہ کا مذاق اڑانا کفر قرار دیا گیا۔ | 38 |
| 448 | 3 | وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْتَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۗ (براءت: 58) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض منافقین کا کام ہے۔ | 39 |
| 509 | 3 | إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (براءت: 111) مومن کی ہر چیز اللہ کی امانت ہے، وہ اسکے حکم کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے۔ | 40 |
| 661 | 3 | قَالُوا ائِشْعَبِيبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ (هود: 87) معلوم ہو ا دین کو صرف نماز روزے تک محدود سمجھنا کافرانہ ذہن ہے، دین مکمل نظام حیات ہے۔ | 41 |
| 600 | 4 | لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۗ (انبیاء: 23) | 42 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 42 | اللہ کے کسی حکم پر اعتراض جائز نہیں، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ | 4 | 600 |
| 43 | إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (نور: 51) کتاب و سنت کے ہر حکم کے آگے مومن کا سر تسلیم خم ہے۔ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی قانون کی طرف نہیں جاتا۔ | 5 | 106 |
| 44 | وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾ (نور: 48) قرآن و سنت کے قانون کی موجودگی میں کسی دوسرے قانون سے فیصلہ لینا منافقین کا کام ہے۔ | 5 | 104 |
| 45 | أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴿٤٣﴾ (فرقان: 43) جو شخص شریعت کو چھوڑ کر طبیعت پر چلتا ہے اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ | 5 | 155 |
| 46 | قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذِبًا كَذِبًا يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ (شعراء: 74) شریعت کے خلاف آباء یا خاندان کی اندھی تقلید جائز نہیں۔ | 5 | 193 |
| 47 | وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ﴿٦٨﴾ (نقص: 68) اللہ تعالیٰ کی پسند اور اختیار کردہ چیز پر اعتراض مشرکانہ طریقہ ہے۔ | 5 | 326 |
| 48 | وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿٨﴾ (عنکبوت: 8) معلوم ہو اوالدین کا کوئی خلاف شرع حکم نہیں جانا جائے گا۔ | 5 | 346 |
| 49 | يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ (احزاب: 1) دین کے کسی حصہ کو کفار کی خوشنودی کے لیے بدلنا جائز نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا، تو کوئی امتی کیسے بدل سکتا ہے؟ | 5 | 470 |
| 50 | وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٦﴾ (احزاب: 36) | 5 | 514 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 514 | 5 | اللہ و رسول کا حکم آجائے تو مومن کے لیے سوائے تسلیم کوئی چارہ نہیں، شریعت پر عقل قربان ہے۔ | 50 |
| 582 | 5 | إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب: 72) | 51 |
| 42 | 6 | أُحْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ (صافات: 22) | 52 |
| 100 | 6 | وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ (ص: 44) | 53 |
| 107 | 6 | قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (ص: 76) | 54 |
| 238 | 6 | فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ (م سجدہ: 16) | 55 |
| 271 | 6 | وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ (شوری: 10) | 56 |
| 295 | 6 | وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ (شوری: 37) | 57 |
| 320 | 6 | وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُهْتَدُونَ (زخرف: 22) | 58 |
| 378 | 6 | قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (جاثیہ: 14) | 59 |
| 521 | 6 | وَإِنْ طَآئِفَتٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آقْتَلُوا (حجرات: 9) | 60 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 521 | 6 | معلوم ہو قتل جیسے گناہ سے بھی کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا۔ | 60 |
| 609 | 6 | الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّيْمَةَ (نجم: 32) کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں فرق؟ | 61 |
| 609 | 6 | ترک فرض گناہ کبیرہ ہے اور ترک واجب گناہ صغیرہ۔ | 62 |
| 506 | 6 | لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (حجرات: 1) خدا اور رسول کی نص صریح کے مقابلہ میں قیاس کی کچھ حیثیت نہیں۔ | 63 |
| 418 | 7 | وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَبَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ (شمس: 8) ہر انسان کے ضمیر میں نیکی و بدی کا شعور ڈال دیا گیا ہے۔ | 64 |
| 419 | 7 | إِذَا تُبْعَثَ أَشْقَاهَا ۗ (شمس: 12) عورت سے ناجائز محبت گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ | 65 |

الانسان

- ☆ انسان کی اصلیت و فطرت۔
- ☆ انسانی مساوات۔
- ☆ حرمتِ انسانی۔
- ☆ مقصدِ تخلیقِ انسانی۔

الانسان

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (آل عمران: 59) پہلا انسان مٹی سے بنا ہے بندروں سے نہیں (ڈارون کارڈ)۔ | 2 | 73 |
| 2 | خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (نساء: 1) انسانی مساوات کا درس قرآنی۔ | 2 | 243 |
| 3 | کیا حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے پیدا نہیں کیا گیا؟ | 2 | 243 |
| 4 | انسان بندوں سے بدلے ہوئے نہیں ہیں۔ | 2 | 243 |
| 5 | وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (نساء: 32) مردوں کی اپنی ذمہ داریاں اور انکا اجر ہے اور عورتوں کی اپنی۔ | 2 | 311 |
| 6 | عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا خط چھوڑ دینا چاہیے۔ | 2 | 312 |
| 7 | أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ (نساء: 53) اسلام میں نسلی تفاخر کا کوئی تصور نہیں۔ | 2 | 341 |
| 8 | وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (نساء: 79) انسان پر مصائب کیوں آتے ہیں؟ | 2 | 379 |
| 9 | انسان کی تقدیر میں اسکے عمل کا بھی دخل ہے۔ | 2 | 380 |
| 10 | غَيْرِ أُولِي الضَّرْرِ (نساء: 95) یہ الفاظ ایک نابینا صحابی کی ولداری کے لیے قرآن مجید میں خصوصی طور پر اتارے گئے۔ | 2 | 406 |
| 11 | اللہ تعالیٰ کے ہاں کمزور لوگوں کی اہمیت و قدر و قیمت۔ | 2 | 406 |
| 12 | كَيْفَ يُوَارِئُ سَوْءَةَ أَخِيهِ (مائدہ: 31) مرنے کے بعد انسان کے جسم کا دفنایا جانا ہی اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ | 2 | 567 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 5 | 3 | هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ (انعام: 2) انسان کے مٹی سے پیدا کیے جانے کا معنی۔ | 13 |
| 35 | 3 | فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ (انعام: 42) دنیوی مصائب انسان کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ | 14 |
| 42 | 3 | وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (انعام: 52) اسلام امیر و غریب کو ایک صف میں کھڑا کرتا ہے۔ | 15 |
| 42 | 3 | اسلام میں معاشرہ کے کمزور انسانوں کی اہمیت۔ | 16 |
| 45 | 3 | أَهْوَأَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا (انعام: 53) کسی کمزور کا مذاق اڑانا اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ | 17 |
| 88 | 3 | وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (انعام: 98) ڈارون کے نظریہ کا بطلان۔ | 18 |
| 152 | 3 | ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ (اعراف: 11) ہر انسانی تصویر اللہ کی تخلیق ہے اس کا مذاق گناہ ہے۔ | 19 |
| 152 | 3 | چہرے کی پلاسٹک سرجری کی حرمت۔ | 20 |
| 154 | 3 | وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ (اعراف: 12) مٹی کا آگ سے بہتر ہونا۔ | 21 |
| 163 | 3 | فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ (اعراف: 25) انسان کا چاند یا کسی دوسرے سیارہ پر رہنا ممکن نہیں۔ | 22 |
| 169 | 3 | وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ (اعراف: 29) انسان فطرتِ اسلام پر پیدا ہوا اسی پر دوبارہ اٹھے گا۔ | 23 |
| 216 | 3 | أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ (اعراف: 94) مصائب عموماً انسان کی تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے باز آئے۔ | 24 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 234 | 3 | وَ نَقُصِّ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ (اعراف: 130) مصائب انسان کو اپنے کردار پر نظر ثانی کی دعوت دیتے ہیں۔ | 25 |
| 283 | 3 | مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (اعراف: 172) ہر انسان کا نسب باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ | 26 |
| 283 | 3 | الَّتِي بَرَّيْتُمْ ﴿۱۷۲﴾ (اعراف: 172) ہر انسان فطرتِ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ | 27 |
| 451 | 3 | هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا (اعراف: 189) وَ فِي الرِّقَابِ (براءت: 60) انسانوں کی غلامی کے ختم کرنے میں اسلام کا کردار۔ | 28 |
| 593 | 3 | وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا (يونس: 12) انسان صرف تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ ہمہ وقت اسے یاد رکھے۔ | 29 |
| 613 | 3 | وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ﴿۹﴾ (هود: 9) انسان نعمت کے نہ ملنے پر مایوس اور مل جانے پر معزور ہو جاتا ہے۔ | 30 |
| 139 | 4 | وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴿۹﴾ (ابراہیم: 9) کسی کو اپنا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ | 31 |
| 157 | 4 | وَ سَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَائِبِينَ ﴿۳۳﴾ (ابراہیم: 33) انسان ساری کائنات کا مقصود ہے۔ سب کچھ اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ | 32 |
| 184 | 4 | وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۶﴾ (حجر: 26) انسان کی تخلیق مٹی سے کیسے کی گئی؟ | 33 |
| 184 | 4 | ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی تردید۔ | 34 |
| 184 | 4 | إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۸﴾ (حجر: 28) انسانی تخلیق میں عناصر اربعہ کا جمع ہو جانا۔ | 35 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 260 | 4 | وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (نحل: 78) خود انسان تو حید باری تعالیٰ کی اعلیٰ دلیل ہے۔ | 36 |
| 325 | 4 | وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (بنی اسرائیل: 11) انسان جلد باز واقع ہوا ہے، غم و غصہ میں خود کو اور اولاد کو بد دعائیں دینے لگتا ہے۔ | 37 |
| 369 | 4 | وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (بنی اسرائیل: 70) انسان فرشتوں سے کیسے افضل ہے؟ | 38 |
| 369 | 4 | انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے دلائل۔ | 39 |
| 383 | 4 | وَإِذَا أَعْنَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَخْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ (بنی اسرائیل: 83) انسان کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو وہ متکبر بن جاتا ہے اور اگر رحمت دے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ | 40 |
| 384 | 4 | وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنی اسرائیل: 85) جسم اور روح کا باہمی تعلق۔ | 41 |
| 541 | 4 | مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (طہ: 55) زمین سے ہر انسان کی تخلیق کے تین معانی۔ | 42 |
| 650 | 4 | فَاتَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (حج: 5) رحم مادر میں تخلیق انسانی کے مراحل حدیث سے۔ | 43 |
| 651 | 4 | وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (حج: 5) اَرذَلِ الْعُمُرِ کی تحقیق۔ | 44 |
| 692 | 4 | أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ (حج: 65) سارا جہان انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ | 45 |
| 11 | 5 | وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (مؤمنون: 12) | 46 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 46 | ہر انسان کے جسم میں اس جگہ کی مٹی شامل ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے۔ | 5 | 11 |
| 47 | وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (فرقان: 54) معلوم ہوا انسان مقصود کائنات ہے۔ | 5 | 161 |
| 48 | الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (لقمان: 20) معلوم ہوا انسان مقصود کائنات ہے۔ | 5 | 440 |
| 49 | وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (شوری: 30) انسان کو جو بیماری یا تکلیف آتی ہے وہ اسکے گناہوں کے سبب ہے۔ | 6 | 290 |
| 50 | معصومین اور داعیانِ حق پر کیوں مصائب آتے ہیں؟ | 6 | 290 |
| 51 | اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (حجرات: 13) حسب و نسب پر فخر کرنے کا رد۔ | 6 | 532 |
| 52 | ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد۔ | 6 | 533 |
| 53 | وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰذَا مَا لَدٰى عَتِيْدٍ اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّٰرٍ عٰنِيْدٍ (ق: 23-24) ہر انسان کے ساتھ ایک قرین (ساتھی) فرشتہ ہے اور ایک قرین شیطان ہے، حدیث سے اسکی وضاحت۔ | 6 | 549 |
| 54 | وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ (ذاریات: 56) تخلیق انسانی کا مقصد عبادتِ خداوندی ہے۔ | 6 | 572 |
| 55 | ثُمَّ يَعُوْذُوْنَ لِيَا قَالُوْا فْتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتِمَّ اسَاۗءُ (مجادلہ: 3) اسلام غلاموں کی آزادی پر زور دیتا ہے۔ | 7 | 6 |
| 56 | وَفَصِيْلَتِهٖ الَّتِي تُوْهِى (معارج: 13) حسب و نسب پر فخر کرنا بے معنی ہے۔ | 7 | 207 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 208 | 7 | إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ (معارج: 19) انسان کو بخیل و حریص پیدا کیا گیا ہے۔ | 57 |
| 591 | 5 | وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ ﴿١١﴾ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغًا (سبا: 11) حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے اور بقول حدیث آپ ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے، گویا لوہا یا بڑھی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ | 58 |
| 106 | 6 | أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ (ص: 76) شیطان کے اس دعویٰ کا بطلان کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ | 59 |
| 410 | 6 | حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿١٥﴾ (احقاف: 15) معلوم ہوا چالیس برس کی عمر سب سے مضبوط تر عمر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس عمر تک نیکی میں پورا زور لگالے بعد میں ضعف غالب آنے لگتا ہے۔ | 60 |
| 272 | 7 | بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٤﴾ (قیامہ: 14) خیر و شر کا فرق ہر انسان کے خمیر میں ڈال دیا گیا ہے۔ | 61 |
| 325 | 7 | وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ ﴿٣﴾ (عبس: 3) ایک نابینا صحابی کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت عظیم درسِ عظمتِ انسان۔ | 62 |
| 402 | 7 | فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَدَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ﴿١٥﴾ (نجر: 15) امیری بھی انسان کا امتحان ہے اور غربی بھی امتحان ہے۔ | 63 |
| 472 | 7 | لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ (الہین: 4) انسان کا سب سے بہتر صورت میں پیدا کیا جانا۔ | 64 |
| 472 | 7 | اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ | 65 |
| 498 | 7 | إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ (بنہ: 7) انسانی شرافت کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان و عمل ہے، نسب نہیں۔ | 66 |

الشيطان

- شیطان کی تخلیق۔
- اسکی عبادات۔
- اسکی انسان دشمنی۔
- کیا مومن جنات جنت میں جائیں گے؟

شیطان

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | شیطان کی تخلیق، عادات اور انسان دشمنی | | |
| 1 | فَسَجِدُوا لِلَّهِ إِلَّا ابْلِيسَ ۝ (بقرہ: 34) ابلیس کی وجہ تسمیہ۔ | 1 | 178 |
| 2 | فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ۝ (بقرہ: 36) شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے وسوسہ دیا؟ | 1 | 184 |
| 3 | وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ (بقرہ: 208) شیطان انسان پر حلال و حرام کو مشتبه کرتا ہے۔ | 1 | 375 |
| 4 | الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۝ (بقرہ: 268) شیطان انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتا۔ | 1 | 575 |
| 5 | إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ (آل عمران: 36) بوقتِ ولادت نو مولود بچے کو شیطان آ کر چھوٹا ہے تو وہ روتا ہے۔ | 2 | 44 |
| 6 | إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۝ (آل عمران: 175) شیطان ڈرا کر راہِ جہاد سے روکتا ہے۔ | 2 | 218 |
| 7 | وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ (نساء: 38) فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۝ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ (نساء: 76) مومنین رحمان کی فوج ہیں اور کفار شیطان کی فوج۔ | 2 | 325 |
| 8 | وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (نساء: 83) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو دنیا پر شیطان ہی کا راج ہوتا۔ | 2 | 374 |
| 9 | وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (نساء: 83) اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو دنیا پر شیطان ہی کا راج ہوتا۔ | 2 | 387 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 10 | وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ۝ (نساء: 119) | 2 | 435 |
| | شیطان انسان کو اُکساتا ہے تاکہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرے اور اس تبدیلی کی چند صورتیں۔ | | |
| 11 | يَعِدُّهُمْ وَيَبْنِيهِمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ (نساء: 120) | 2 | 436 |
| | شیطان نے مختلف فرقوں کو مختلف امیدیں دلا کر گمراہ کیا۔ | | |
| 12 | إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ وَالْأَلْبَسِ ۗ (مائدہ: 91) | 2 | 639 |
| | شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسان کو حیوان بناتا ہے۔ | | |
| 13 | وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (انعام: 43) | 3 | 35 |
| | شیطان انسان کے سامنے گناہ کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے۔ | | |
| 14 | وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (انعام: 68) | 3 | 60 |
| | جماعت اہل اسلام سے کٹنے والا یوں شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے جیسے کیلی بکری کو بھیریا اٹھالیتا ہے۔ | | |
| 15 | كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ (انعام: 142) | 3 | 123 |
| | شیطان وسوسات کے ذریعے انسان پر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ | | |
| 16 | فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا ۗ (اعراف: 20) | 3 | 158 |
| | شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہا السلام کو گیسے پھسلا یا؟ | | |
| 17 | يُبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ ۗ (اعراف: 27) | 3 | 165 |
| | شیطان انسان کو لباس سے آزاد اور ننگا کرنا چاہتا ہے۔ | | |
| 18 | فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ۗ (اعراف: 175) | 3 | 284 |
| | شیطان نے بلعم بن باعور عابد کو مال دنیا کے ذریعے گمراہ کیا۔ | | |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 284 | 3 | وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ (اعراف: 200) جب دل میں شیطانی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ | 19 |
| 308 | 3 | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ۗ (اعراف: 201) اہل تقویٰ شیطانی وسوسہ آنے پر فوراً سنبھل جاتے ہیں عہد فاروقی میں ایک متقی نوجوان کا ایمان افروز واقعہ۔ | 20 |
| 357 | 3 | وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ ۗ (انفال: 48) شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کفار مکہ کو بہکا کر میدان بدر میں لایا اور ان کو یوں مروایا۔ | 21 |
| 5 | 4 | إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۗ (یوسف: 5) شیطان حسد کے ذریعے بھائی کو سگے بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ | 22 |
| 148 | 4 | قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۗ (ابراہیم: 22) روز قیامت شیطان انسان سے کہے گا تم اپنی مرضی سے میری بات مانی میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا بس دعوت دی تھی لہذا مجھے الزام نہ دو۔ | 23 |
| 189 | 4 | قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۗ (حجر: 37-38) شیطان کو قیامت تک زندگی کیوں دے دی گئی؟ | 24 |
| 274 | 4 | إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ (نحل: 99) شیطان کو انبیاء پر اور انکی برکت سے اولیاء پر کوئی اختیار نہیں۔ | 25 |
| 341 | 4 | إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ (بنی اسرائیل: 27) شیطان انسان کو فضول خرچی پر لگا کر اسکا خلق اور مال تباہ کرتا ہے۔ | 26 |
| 365 | 4 | وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ۗ (بنی اسرائیل: 64) شیطان موسیقی کی آواز کے ذریعے انسان کو بُرائی کی طرف کھینچتا ہے۔ | 27 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 28 | اَفْتَتَّخِذُ وْنَهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِی (کہف: 50) شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ شیطان اپنے بچے کیسے بناتا ہے؟ | 4 | 439 |
| 29 | اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَ لِرِزْوٰجِكَ فَلَآ یُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ (طہ: 117) شیطان آج تک نارحسد میں جل رہا ہے اور اولاد آدم سے انتقام لیتا ہے۔ | 4 | 574 |
| 30 | کَمَثَلِ الشَّیْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسٰنِ اِکْفُرْ (حشر: 16) شیطان روز قیامت انسان کے اعمال سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ | 7 | 49 |
| 31 | اس سلسلہ میں برصیصا راہب کا عبرت ناک واقعہ۔ | 7 | 49 |
| 32 | یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰنُ مِنَ الْمِیْسِ (بقرہ: 275) جنات کے چھونے سے انسان کو بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ | 1 | 584 |
| 33 | لِیَعْرِشَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ یَاْتِکُمْ رُسُلٌ مِّنْکُمْ یَقْضُوْنَ عَلَیْکُمْ اٰیٰتِیْ وَ یُنذِرُوْنَکُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هٰذَا قَالُوْا شَہِدْنَا عَلٰی اَنْفُسِنَا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیٰوَةُ الدُّنْیَا وَ شَہَدُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ کَانُوْا کٰفِرِیْنَ ﴿۱۳۰﴾ ذٰلِکَ اَنْ لَّمْ یَکُنْ رَبُّکَ مُہْلِکَ الْقُرٰی بِظُلْمٍ وَ اَهْلَہَا غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَ لِکُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا ﴿۱۳۲﴾ (انعام: 130 تا 132) گو یا جن و انس میں سے ہر کسی کے لیے اسکے عمل کے برابر درجہ ہے (تو مومن جنات جنت میں جائیں گے)۔ | 3 | 116 |
| 34 | خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ (اعراف: 12) حقیقت ابلیس پر کلام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ | 3 | 153 |
| 35 | لَا تَیْنَهُمْ مِّنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَن اَیْمَانِهِمْ وَ عَن شَمَائِلِهِمْ (اعراف: 17) شیاطین انسان پر چاروں طرف سے حملہ کرتے ہیں۔ | 3 | 156 |
| 36 | اس چار طرفہ حملہ سے بچنے کی دعا۔ | 3 | 156 |
| 37 | قَالَ اِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ ﴿۱۵﴾ (اعراف: 15) | 3 | 155 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 155 | 3 | شیطان کو تا قیامت عمر دیدی گئی ہے۔ | 37 |
| 166 | 3 | إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ (اعراف: 27) شیاطین انسان کو ہر حالت میں دیکھتے ہیں۔ | 38 |
| 166 | 3 | مجامعت اور بیت الخلا میں داخلہ سے قبل بسم اللہ کی اہمیت۔ | 39 |
| 179 | 3 | خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ (اعراف: 38) جنات کو بھی موت آتی ہے۔ | 40 |
| 149 | 4 | مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ (ابراہیم: 22) کیا انسان پر جنات کا سایہ نہیں ہو سکتا؟ | 41 |
| 184 | 4 | وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (حجر: 27) جنات کا آگ سے بنا قرآن و حدیث سے۔ | 42 |
| 254 | 5 | قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ (نمل: 39) جنات کی طاقت کہ ایک بہت بڑے تخت کو چند گھنٹوں میں کئی ہزار میل دور سے لاسکتے ہیں۔ | 43 |
| 412 | 6 | وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا (احقاف: 19) یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومن جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ | 44 |
| 422 | 6 | يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (احقاف: 31) جنات کے جنت میں جانے کی تحقیق۔ | 45 |
| 656 | 6 | فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ (رحمان: 77) مومن جنات بھی جنت میں جائیں گے۔ | 46 |

السیاسة الاسلامیة

○ — مسلمانوں کی خارجہ پالیسی۔

پہلا نقطہ۔ پُر امن کفار سے اچھے تعلقات رکھے جائیں۔

دوسرا نقطہ۔ ملت کے اجتماعی مفاد کے خلاف کفار سے مفاد لینا الحاد و

زندیقیت ہے۔

تیسرا نقطہ۔ جنگی تیاری مکمل رکھنا اور عہد شکن فتنہ پرور کفار کو سبق سکھانا۔

○ — مسلمانوں کی داخلہ پالیسی۔

پہلا نقطہ۔ اتحادِ ملتِ اسلامیہ۔

دوسرا نقطہ۔ قیامِ عدل (انسانی حقوق کی پاسداری)۔

تیسرا نقطہ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔

السیاسة السلامیة

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | مسلمانوں کی خارجہ پالیسی | | |
| | پہلا نقطہ : پُر امن کفار سے اچھے تعلقات رکھے جائیں | | |
| 1 | أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ (بقرہ: 114) کافروں کا مسجد میں مشروط طور پر داخلہ جائز ہے۔ | 1 | 295 |
| 2 | لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ (بقرہ: 272) کفار کو نفلی صدقہ دینے کا جواز۔ | 1 | 578 |
| 3 | وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ (آل عمران: 75) معلوم ہوا کفار سے لین دین تجارت جائز ہے۔ | 1 | 90 |
| 4 | أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ (آل عمران: 110) کفار کو دعوتِ اسلام کے تین طریقے۔ | 2 | 129 |
| 5 | وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ ۚ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۝ (نساء: 90) پُر امن کفار سے ایفاء عہد کا حکم۔ | 2 | 395 |
| 6 | اسلام امن کا مذہب ہے دہشت گردی کفار کا شیوہ ہے۔ | 2 | 396 |
| 7 | آج امتِ مسلمہ پر ضروری ہے کہ اقوام متحدہ سے باہر نکل کر مسلم اقوام متحدہ بنائیں۔ | 2 | 396 |
| 8 | وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ (نساء: 92) اسلام میں معاہدہ امن والے کافر کی جان کی اہمیت۔ | 2 | 401 |
| 9 | لَهْمَتْ ظَآئِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضَلُّوكَ ۗ (نساء: 113) یہ آیت ذمی یہودی کی پاسداری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ | 2 | 425 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 10 | وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (مائدہ: 5) | 2 | 524 |
| | کفار سے ہدیہ لینا اور انہیں دینا جائز ہے۔ | | |
| 11 | وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَا تَعْدِلُوۡا (مائدہ: 8) | 2 | 538 |
| | اسلام کفار سے بھی عدل کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ | | |
| 12 | فَكَانَ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَبِيۡعًا (مائدہ: 32) | 2 | 569 |
| | اسلام دہشت گردی نہیں امن سکھاتا ہے۔ | | |
| 13 | لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا (انعام: 108) | 3 | 95 |
| | جب بتوں کو گالی دینا جائز نہیں تو انکا توڑنا کیسے جائز ہے؟ اسکا جواب | | |
| 14 | وَ اِلٰى عَادٍ اٰخَاهُمْ هُوۡدًا (اعراف: 65) | 3 | 200 |
| | کفار کو انسانی اور خونی رشتے سے بھائی کہا جاسکتا ہے۔ | | |
| 15 | وَ اِنۡ جَنَحُوا لِلسَّلٰمِ فَاَجْنَحۡ لَهَا (انفال: 61) | 3 | 369 |
| | جو کفار صلح کرنا چاہیں انکے ساتھ ضرور صلح کرو۔ | | |
| 16 | فَيَسِيۡحُوۡا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ (براءت: 2) | 3 | 391 |
| | کفار سے معاہدہ ختم کرنا ہو تو اس کا اعلان ضروری ہے۔ | | |
| 17 | وَ اِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيۡنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجْرُهٗ (براءت: 6) | 3 | 398 |
| | کفار کو خطہ عرب میں داخلہ کی محدود اجازت۔ | | |
| 18 | مستامن کفار کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ | 3 | 398 |
| 19 | حَتّٰى يَسْمَعَ كَلِمَ اللّٰهِ (براءت: 6) | 3 | 398 |
| | دین کے سمجھنے کی خواہش رکھنے والے کو ویزہ دینا اسلامی حکومت پر لازم ہے۔ | | |
| 20 | وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُمْ (نحل: 91) | 3 | 398 |
| | کفار سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں۔ | | |
| 21 | اُدْعُ اِلٰى سَبِيۡلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (نحل: 125) | 3 | 295 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 21 | کفار کو عمدہ طریقہ سے دعوتِ اسلام دی جائے ان سے اچھے خلق کا مظاہرہ کیا جائے۔ | 4 | 295 |
| 22 | وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ (بنی اسرائیل: 53) کفار سے بھلائی کی بات کہنے کا حکم۔ | 4 | 356 |
| | دوسرا نقطہ - ملت کے اجتماعی مفاد کے خلاف کفار کی مدد کرنا اور ان دشمنانِ دین سے ذاتی مفاد لینا زندقیت اور کفر ہے | | |
| 23 | لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ (آل عمران: 28) کفار سے ناجائز دوستی کی چار صورتیں۔ | 2 | 34 |
| 24 | لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۗ (آل عمران: 118) کفار کو رازدار نہ بنایا جائے (ان پر قومی راز نہ اگلا جائے)۔ | 2 | 141 |
| 25 | مرزائیوں عیسائیوں کو اہم حکومتی عہدوں پر نہ بٹھایا جائے۔ | 2 | 142 |
| 26 | مسلمانوں کی اپنی مسلم اقوام متحدہ ہونی چاہیے۔ | 2 | 142 |
| 27 | اِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ ۗ (آل عمران: 120) کفار کو مسلمانوں کی ترقی ہرگز نہیں بھاتی۔ | 2 | 143 |
| 28 | اِنْ تُطِيعُوا الدِّينَ كَفَرُوا وَيَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ (آل عمران: 149) کفار کی مرضی پر نہ چلا جائے، اپنی پالیسی اپنائی جائے۔ | 2 | 173 |
| 29 | يَتَوَلَّوْهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُمِنْهُمْ ۗ (مائدہ: 51) مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے مدد لینے یا ان کو مدد دینے والا انہی میں سے ہے۔ | 2 | 597 |
| 30 | بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ (مائدہ: 51) کفار کو حکومتِ اسلامیہ کے اعلیٰ مناسب پر بٹھانا حرام ہے۔ | 2 | 598 |
| 31 | کفر ایک ہی ملت ہے۔ | 2 | 598 |
| 32 | مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ (مائدہ: 81) مشرکین سے دوستی کا وبال۔ | 2 | 626 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 33 | لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ (ممتحنہ: 1) کفار سے کوئی دوستی جائز ہے کوئی ناجائز۔ | 7 | 57 |
| | تیسرا نقطہ - جنگی تیاری مکمل رکھو اور عہد شکن مسلم کش فتنہ پرور کفار کو خوب سبق سکھاؤ | | |
| 34 | خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَبِيْعًا (نساء: 71) آج امت مسلمہ پر ایٹمی اسلحہ کا تیار کرنا لازم اور فرض ہے۔ | 2 | 370 |
| 35 | فَإِنْ لَّمْ يَعْزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلْمَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (نساء: 91) عہد شکنی کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے کفار سے جنگ کا حکم۔ | 2 | 396 |
| 36 | وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَبْذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (انفال: 58) بدعہد کفار کا عہد انکے منہ پر مارو۔ | 3 | 366 |
| 37 | آج کی نام نہاد اقوام متحدہ اسلام دشمن قوتوں کی آلہ کار ہے اس سے خیر کی توقع نہیں۔ | 3 | 366 |
| 38 | وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ (انفال: 60) جہاد کے لیے اسلحہ کی تیاری اور ہر وقت جنگی تیاری مکمل رکھنے کا حکم، حدیث میں اسکی فضیلت آج مسلمانوں پر ایٹمی پاور کا حصول فرض ہے۔ | 3 | 368 |
| 39 | وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (نساء: 75) کفار کی قید و بند میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کا حکم۔ | 2 | 372 |
| 40 | وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ (انفال: 72) کفار کے زغمے میں مقید مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کا حکم۔ | 3 | 383 |
| 41 | وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا إِنَّه الْكُفْرُ (براءت: 12) | 3 | 402 |

| نمبر شمار | مفاسین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 41 | آج اسرائیل و امریکہ کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے یہ آیتہ الکفر ہیں۔ | 3 | 402 |
| 42 | کَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرْ ذَوَا عَالِيكُمْ لَا يَقْبِضُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً (برامت: 3) اکثر کفار مسلمانوں سے کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ | 3 | 400 |
| | مسلمانوں کی داخلہ پالیسی | | |
| | پہلا نقطہ - اتحاد و ملت اسلامیہ | | |
| 43 | فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا إِذَاتَ بَيْنِكُمْ (انفال: 1) مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی اہمیت۔ | 3 | 315 |
| 44 | فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ (برامت: 11) سب مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ | 3 | 402 |
| 45 | إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (برامت: 50) اپنے ذاتی مفادات کو ملت کے اجتماعی مفادات سے وابستہ نہ رکھنے والا شخص منافق ہے۔ | 3 | 445 |
| 46 | صِبْغَةَ اللَّهِ (بقرہ: 138) نسلی، لسانی اور علاقائی رنگوں کو مٹا کر دین کے رنگ میں رنگے جانے کا حکم۔ | 1 | 336 |
| 47 | وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران: 103) تفرقہ بازی سے تحذیر اور حقانیت اہل سنت و جماعت۔ | 2 | 120 |
| 48 | مسلمانوں میں تفرقہ بازی کیسے شروع ہوئی؟ | 2 | 121 |
| 49 | مسلمانوں کے لیے درس امن و اخوت۔ | 2 | 126 |
| 50 | وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (انعام: 153) تفرقہ بازی کی مذمت اور اسکی تاریخ۔ | 3 | 134 |
| 51 | وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (یونس: 19) | 3 | 549 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 51 | امت واحدہ کا تصور۔ | 3 | 549 |
| 52 | فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ^۱ (انبیاء: 94) اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان و عمل صالح دیکھا جاتا ہے، خواہ کوئی قبیلہ، رنگ، زبان یا علاقہ ہو۔ | 4 | 635 |
| 53 | فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ^۲ (حج: 50) | 4 | 681 |
| 54 | هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ ^۳ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (حج: 78) اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا نام مسلمین رکھا ہے اور یہی نام پہلی امتوں کا تھا۔ تو ہم پہلے مسلمان ہیں پھر پاکستانی، سعودی، عربی، عجمی، خان، جٹ، اراکین وغیرہ ہیں۔ | 4 | 701 |
| 55 | وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً (مومنون: 52) تمام انبیاء کے پیروکار ایک ہی امت ہیں یعنی امت مسلمہ۔ | 5 | 24 |
| 56 | إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ^۴ (نح: 10) جب سب مسلمانوں نے اپنے ایک فرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے جسم کا حصہ جانا اور انکے تحفظ یا انکا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کی عظمت بتائی۔ | 6 | 463 |
| 57 | وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ^۵ (حجرات: 9) مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی فضیلت۔ | 6 | 517 |
| 58 | إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (حجرات: 10) اسلامی اخوت کی اہمیت۔ | 6 | 517 |
| 59 | يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ^۶ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ^۷ (حجرات: 13) پاکستانی، ایرانی، عراقی، عربی، عجمی اور شیخ، راجہ، خان، ہاشمی اسدی تہمی یہ سب شناختیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی معزز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل اعزاز ایمان اور حسن کردار ہے۔ | 6 | 527 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 60 | حسب و نسب پر فخر کرنے کا رد۔ | 6 | 528 |
| 61 | سب اہل اسلام باہم کفو ہیں (انکا باہم نکاح ہو سکتا ہے)۔ | 6 | 529 |
| 62 | اپنے نام کے ساتھ اپنے نسب کا حوالہ دینا۔ | 6 | 532 |
| 63 | وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحَقُوا بِهِمْ ^ط (جمعہ: 3) اس آیت کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں آنے والے عجمی مؤمنین کی تعریف فرمانا۔ | 7 | 87 |
| دوسرا نقطہ - قیام عدل (انسانی حقوق کی پاسداری) | | | |
| 64 | وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ^ط (نساء: 58) قیام عدل کی اہمیت قرآن و حدیث سے۔ | 2 | 344 |
| 65 | وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ^ط (نساء: 107) کسی خائن کا ساتھ نہ دیا جائے، خواہ قریبی عزیز ہو۔ | 2 | 424 |
| 66 | مجرموں کی طرف داری کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ | 2 | 425 |
| 67 | كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ^ع (نساء: 135) حق بات کہی جائے، خواہ قریبی عزیز کے خلاف ہو۔ | 2 | 452 |
| 68 | ایمانی رشتہ جسمانی رشتہ سے اہم تر ہے۔ | 2 | 452 |
| 69 | تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ^س (مائدہ: 2) نیکی کے پھیلانے میں مدد کی جائے، شر کے پھیلانے میں نہیں۔ | 2 | 507 |
| 70 | وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ^ع (انعام: 152) قیام عدل میں اپنا و بیگانہ برابر رکھے جائیں۔ | 3 | 134 |
| 71 | إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (محل: 90) عدل اور احسان میں تین طرح سے فرق۔ | 4 | 268 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 168 | 5 | وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (فرقان: 72) جھوٹی گواہی کی برائی حدیث سے۔ | 72 |
| | | تیسرا نقطہ - امر بالمعروف ونہی عن المنکر | |
| 131 | 2 | كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: 110) امت کا ہر فرد مبلغ ہے۔ | 73 |
| 609 | 2 | لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَابُ (مائدہ: 63) برائی سے منع نہ کرنا برائی کرنے کے برابر ہے۔ | 74 |
| 625 | 2 | كَانُوا إِلَّا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوا (مائدہ: 79) یہود میں سے جو لوگ برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ بھی بندر و خنزیر بنا دیے گئے۔ | 75 |
| 675 | 2 | أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ (اعراف: 165) امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی فرضیت۔ | 76 |
| 276 | 3 | کیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض کفایہ ہے؟ | 77 |
| 465 | 3 | يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (براءت: 71) اہل ایمان کی نشانی امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ | 78 |

الجهاد

- جہاد کی فرضیت و اہمیت۔
- احکام جہاد۔
- مقاصد جہاد۔
- اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا اجر۔

جہاد

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 1 | وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 190) راہ خدا میں جہاد کا حکم۔ | 1 | 426 |
| 2 | كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (بقرہ: 216) جہاد کا منکر کافر ہے۔ | 1 | 458 |
| 3 | قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (بقرہ: 217) حرمت والے مہینوں میں قتال کی حرمت۔ | 1 | 460 |
| 4 | ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بقرہ: 246) حاکم اسلامی کا سب سے اہم فریضہ اقامت جہاد ہے۔ | 1 | 525 |
| 5 | رَبَّنَا آفِرْغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا (بقرہ: 250) جنگ میں کثرت دعاء و ابہتال چاہیے۔ | 1 | 536 |
| 6 | مسلمان کا اصل ہتھیار تیغ و سنان نہیں جذبہ ایمان ہے۔ | 1 | 537 |
| 7 | وَوَثِّبْتَ أَقْدَامَنَا (آل عمران: 147) غلبہ اسلام کی دعا میدان جنگ میں اتر کر کرنا سنتِ انبیاء کرام ﷺ ہے۔ | 2 | 172 |
| 8 | أَمَنَةٌ نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ (آل عمران: 154) جنگ میں اونگھ کا آنا باعثِ رحمت ہے۔ | 2 | 181 |
| 9 | وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران: 173) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے مجاہدین کفار کی کثرت سے نہیں گھبراتے۔ | 2 | 216 |
| 10 | وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (نساء: 75) جہاد کے دو مقاصد (دین کی سر بلندی اور مظلوم مسلمانوں کی مدد)۔ | 2 | 372 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 373 | 2 | راہ خدا میں قتال کا اجر و ثواب حدیث سے۔ | 11 |
| 375 | 2 | فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ (نساء: 77) جہاد سے کئی کترانے والے منافقین کا رد۔ | 12 |
| 377 | 2 | أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (نساء: 78) موت سے فرار ممکن نہیں تو کیوں نہ اسے راہ خدا میں پایا جائے۔ | 13 |
| 408 | 2 | وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ (نساء: 95) اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے عظیم جنتی درجات۔ | 14 |
| 562 | 2 | وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (مائدہ: 23) کفار پر غلبہ کے لیے ہتھیار سے زیادہ رحمت پروردگار چاہیے۔ | 15 |
| 562 | 2 | يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ (مائدہ: 26) انکار جہاد کی وجہ سے بنی اسرائیل کو میدان تیبہ میں چالیس سال تک بھٹکایا گیا، اس میں آج ہمارے لیے درس ہے۔ | 16 |
| 314 | 3 | فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَبِيحًا (مائدہ: 32) دہشت گردی اور جہاد میں فرق؟ | 17 |
| 322 | 3 | قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (انفال: 1) اموال غنیمت کا حکم۔ غنیمت نفل ہے مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ضرورت نہیں اور نہ ہی اسکے لیے جہاد ہے۔ | 18 |
| 323 | 3 | إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ (انفال: 9) صرف گھر میں بیٹھ کر دعا سے فتح نہیں ملتی پہلے میدان میں اُترو پھر دعا کرو، یہی سنت نبویہ ہے۔ | 19 |
| 323 | 3 | آج بھی اگر فضائے بدر پیدا ہو تو فرشتے مدد کے لیے اُتر سکتے ہیں۔ | 20 |
| 326 | 3 | إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ (انفال: 15) میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ۔ | 21 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 22 | وَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾ (انفال: 19) جنگ میں اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ | 3 | 330 |
| 23 | وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (انفال: 41) مالِ غنیمت اور اسکے خمس کے احکام۔ | 3 | 349 |
| 24 | خمس میں ذوی القربیٰ کی بحث۔ | 3 | 350 |
| 25 | إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا (انفال: 45) جنگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کامیابی دلاتا ہے نہ کہ عورتوں کے گانے۔ | 3 | 355 |
| 26 | فَمَا تَتْلِفْنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ (انفال: 57) بدعہدی کرنے والے کفار کو وہ مار مارو کہ پچھلوں کو نصیحت ہو جائے۔ | 3 | 365 |
| 27 | فَأُتْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ (انفال: 58) بدعہد کفار کا عہد انکے منہ پر مار دو۔ | 3 | 366 |
| 28 | آج مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسلم اقوام متحدہ بنائیں۔ | 3 | 366 |
| 29 | أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ (براءت: 24) اہمیت جہاد فی سبیل اللہ۔ | 3 | 412 |
| 30 | حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۲۹﴾ (براءت: 29) مکمل غلبہ اسلام تک کفار سے جہاد کے جاری رکھنے کا حکم۔ | 3 | 418 |
| 31 | جزیہ کے چند ضروری احکام۔ | 3 | 419 |
| 32 | مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ (براءت: 36) چار مہینوں (ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب) میں کفار سے لڑائی کا آغاز حرام ہے۔ | 3 | 428 |
| 33 | ان چار ماہ میں قتال کی حرمت اب بھی باقی ہے۔ | 3 | 429 |
| 34 | إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِثْقَالَكُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ (براءت: 38) جب جہاد کا وقت ہو تو دینوی ضروریات کو بالائے طاق رکھ دینا ضروری ہے۔ | 3 | 431 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 442 | 3 | إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (براءت: 45) حالاتِ حاضرہ میں مسلمانوں پر طاعوتی طاقتوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ | 35 |
| 487 | 3 | لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ (براءت: 91) جب جہاد فرض ہو تو اس سے کون سے لوگ مستثنیٰ ہیں؟ | 36 |
| 522 | 3 | ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخِصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ (براءت: 120) جو جہاد کے لیے نکلا اسے اسکے ہر عمل پر اجر ملتا ہے، اسکا ہر عمل عبادت ہے۔ | 37 |
| 525 | 3 | قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ (براءت: 123) مسلمانوں کو قریب والے کفار سے جہاد کرنے کا حکم۔ | 38 |
| 675 | 4 | أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (حج: 39) اذنِ جہاد کے متعلق اترنے والی سب سے پہلی آیت۔ (حج: 39) | 39 |
| 676 | 4 | اس آیت میں جہاد کا پہلا مقصد بیان ہوا کہ کفار کے ظلم کا مقابلہ کیا جاسکے۔ | 40 |
| 677 | 4 | وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ (حج: 40) جہاد کا دوسرا مقصد، اگر یہ نہ ہوتا تو آج کوئی مسجد محفوظ نہ ہوتی۔ | 41 |
| 678 | 4 | الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (حج: 41) جہاد کا تیسرا مقصد، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کا نفاذ۔ | 42 |
| 689 | 4 | وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا (حج: 58) جو جہاد کے لیے نکلے پھر خواہ شہید ہو جائے یا طبعی موت فوت ہو، وہ بہر حال شہید ہے۔ | 43 |
| 484 | 5 | وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ | 44 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 53 | بمباری جائز نہیں ہے۔ | 6 | 431 |
| 54 | مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ (حشر: 7) اموال فئی کے بارے میں قرآن و سنت کا فیصلہ۔ | 7 | 30 |
| 55 | فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ (متحنہ: 10) کفار کی جو عورتیں دارالحرب سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آجائیں اور وہ مومنہ ہوں تو ان کا نکاح اپنے کافر شوہروں سے ختم ہے۔ | 7 | 66 |
| باب - اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پانے کا اجر | | | |
| 56 | وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ (بقرہ: 154) حیات شہداء فی سبیل اللہ۔ | 1 | 357 |
| 57 | وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۶۹﴾ (آل عمران: 169) زندگی کا معنی اور شہید کیسے زندہ ہے؟ | 2 | 207 |
| 58 | اللہ رب العزت کے ہاں شہید کا درجہ حدیث سے۔ | 2 | 211 |
| 59 | وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿۳۱﴾ (یوسف: 31) بوقت شہادت شہید کو کوئی الم کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ | 4 | 30 |
| 60 | وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿۴﴾ (سورۃ محمد: 4) شہید کے لیے جنتی انعامات۔ | 6 | 434 |

وعد غلبۃ الاسلام فی ضوء القرآن

قرآن اور وعدہ غلبہ اسلام

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1 | قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ (آل عمران: 12) دنیا میں دائمی غلبہ صرف اسلام کے لیے ہے۔ | 2 | 14 |
| 2 | وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا (آل عمران: 55) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکاروں کے لیے وعدہ غلبہ۔ | 2 | 71 |
| 3 | لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى (آل عمران: 111) یعنی کفار مسلمانوں پر ہمیشہ غالب نہیں رہ سکتے۔ | 2 | 132 |
| 4 | وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران: 139) مسلمانوں کی موجودہ پستی ایمانی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ | 2 | 162 |
| 5 | مسلمانوں کو حالاتِ حاضرہ سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ | 2 | 162 |
| 6 | لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (آل عمران: 196) کفار کا غلبہ عارضی ہے۔ | 2 | 238 |
| 7 | وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (نساء: 141) کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہ دیے جانے کے چار مفہوم۔ | 2 | 459 |
| 8 | وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (مائدہ: 23) غلبہ اسلام کیلئے ہتھیار سے زیادہ اللہ رب العزت پر بھروسہ چاہیے۔ | 2 | 562 |
| 9 | وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (انفال: 19) دائمی غلبہ اہل ایمان کا ہے۔ | 3 | 330 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|---|-----------|
| 362 | 3 | ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ (انفال: 53) | 10 |
| | | امت مسلمہ کی زبوں حالی اطاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرتابی کے باعث ہے۔ | |
| 362 | 3 | | 11 |
| | | نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتِ کبریٰ ہیں۔ | |
| 404 | 3 | قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ (براعت: 14) | 12 |
| | | غلبہ اسلام جہاد سے وابستہ ہے۔ | |
| 423 | 3 | هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ (براعت: 33) | 13 |
| | | غلبہ اسلام کی تین صورتیں اخلاقی، سیاسی اور دینی۔ | |
| 587 | 3 | رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ (یونس: 85) | 14 |
| | | بنی اسرائیل کے احوال سے امت مسلمہ کی زبوں حالی کی مشابہت۔ | |
| 101 | 4 | اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ (رعد: 11) | 15 |
| | | قوم مسلم اپنی زبوں حالی کی خود ذمہ دار ہے۔ | |
| 122 | 4 | لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشْقٰى ﴿٣٤﴾ (رعد: 34) | 16 |
| | | کفار کے لیے بالآخر دنیا میں عذاب مقرر ہے۔ | |
| 610 | 4 | اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ (انبیاء: 44) | 17 |
| | | اسلام دشمن قوتوں کے لیے دارنگ کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ | |
| 641 | 4 | وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصّٰلِحُوْنَ (انبیاء: 105) | 18 |
| | | اہل ایمان جب صالحیت کی شرط پر اتریں گے، تو زمین کے وہی حاکم ہوں گے۔ | |
| 656 | 4 | مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَن لَّنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَلْيَبْتَذِرْ سَبَبَ (سج: 15) | 19 |
| | | اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارین میں مدد کا اعلان فرمایا ہے۔ | |
| 677 | 4 | وَلِيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهٗ ؕ (سج: 40) | 20 |
| | | اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھیں۔ | |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 21 | وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾ (نقص: 5) | 5 | 282 |
| | تاریخ بنی اسرائیل میں امت مسلمہ کو سبق دیا گیا ہے کہ اگر وہ بد عملی سے توبہ کر لیں تو انہیں پھر زمین پر غلبہ دیا جاسکتا ہے۔ | | |
| 22 | وَ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ (روم: 47) | 5 | 412 |
| | مومنوں کی مدد کرنا اللہ کا حق ہے، بشرطیکہ وہ ایمانی تقاضے پورے کریں۔ | | |
| 23 | وَ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَاكُمْ مِنْهُمْ وَ لَكِنْ لِيَبْلُوْا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ؕ (سورة محمد: 4) | 6 | 432 |
| | اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے شکوہ بے جا کا جواب۔ | | |
| 24 | فَلَا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ؕ وَ أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ؕ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ (سورة محمد: 35) | 6 | 448 |
| | مسلمانوں کو کفار سے صلح کی درخواست نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ درخواست کریں کیونکہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ | | |
| 25 | وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (سورة محمد: 38) | 6 | 449 |
| | دین کسی قوم کا محتاج نہیں۔ یہ آیت عجمی مسلمانوں کی فضیلت میں اتری۔ | | |
| 26 | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ؕ (نح: 28) | 6 | 486 |
| | اللہ رب العزت نے غلبہ اسلام کا وعدہ کس طرح پورا فرمایا؟ | | |
| 27 | وَ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ (حشر: 2) | 7 | 27 |
| | جب مومنین میں جذبہ صادق ہو تو اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ | | |
| 28 | هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (صف: 9) | 7 | 80 |
| | غلبہ اسلام کی تین صورتیں۔ | | |

إِزَالَةُ شُبُهَاتٍ عَنِ الْإِسْلَامِ

اسلام پر وارد چند شبہات کا ازالہ

- * اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔
- * اسلام نے سلسلہ غلامی کو بچایا نہیں، مٹایا ہے۔
- * اسلام نے عورت کا مقام گرایا نہیں، اٹھایا ہے۔

اسلام میں دہشت گردی کا کوئی مقام نہیں

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | اسلام میں دہشت گردی کا کوئی مقام نہیں | | |
| 1 | إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ۗ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾ (نساء: 90) | 2 | 395 |
| | جو کفار مسلمانوں سے معاہدہ امن کر لیں اور اسکے پاسدار رہیں تو ان کا خون محفوظ ہے۔ کیونکہ اسلام امن کا مذہب ہے۔ | | |
| 2 | وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (نساء: 92) | 2 | 400 |
| | کسی ذمی یا معاہدہ والے کافر کا قتل جائز نہیں ہے۔ | | |
| 3 | مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (مائدہ: 32) | 2 | 568 |
| | جس نے ایک قتل ناحق کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ | | |
| | دہشت گردی اور جہاد میں فرق | | |
| 4 | وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ (انعام: 151) | 3 | 132 |
| | اسلام سے قبل عرب میں خونریزی عام تھی۔ اسلام نے امن قائم کیا۔ | | |
| 5 | قَالَ سَنُقَاتِلُ أَبْنَاءَهُمْ (اعراف: 127) | 3 | 232 |
| | اہل اسلام ہمیشہ سے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ | | |
| 6 | وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا (انفال: 61) | 3 | 369 |
| | اگر کفار صلح سے رہنا چاہیں تو تم ضرور ان سے صلح کرو۔ | | |
| 7 | گویا اسلام امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کا نہیں۔ | 3 | 369 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 370 | 3 | وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ (انفال: 63) | 8 |
| | | جب اسلام نے خون کے پیاسوں کو باہم شیر و شکر کر دیا۔ | |
| 219 | 1 | وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا (بقرہ: 58) | 9 |
| | | فتح کے موقع پر عاجزی کا حکم دیا گیا، تکبر اور خون ریزی کا نہیں۔ | |
| 676 | 4 | أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (حج: 39) | 10 |
| | | جہاد کا حکم اس لیے ہوا تا کہ کفار کی دہشت گردی مٹائی جاسکے۔ اہل اسلام ابتداء سے کفار کی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ | |
| 677 | 4 | وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ (حج: 40) | 11 |
| | | اگر جہاد نہ ہوتا تو آج دنیا کی کوئی مسجد سلامت نہ ہوتی۔ | |
| 343 | 5 | الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢٧﴾ (عنکبوت: 2) | 12 |
| | | حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور ان کے بوڑھے والدین پر کیا کیا ظلم ڈھایا گیا یعنی دہشت گردی کی انتہاء کی گئی اور پہلی امتوں میں اہل ایمان سے کیا کیا دہشت گردی ہوئی۔ اسلام شروع سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ | |
| 369 | 5 | وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿٤٦﴾ (عنکبوت: 46) | 13 |
| | | اسلام کفار سے خوش خلقی کا حکم دیتا ہے، دہشت گردی کا نہیں۔ | |
| 95 | 3 | لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ (انعام: 108) | 14 |
| | | بتوں کے گرانے کا حکم کن صورتوں میں ہے۔ | |
| 538 | 2 | وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ (مائدہ: 8) | 15 |
| | | قرآن کفار سے دہشت گردی کا نہیں، قیام عدل کا حکم فرماتا ہے۔ | |
| 251 | 6 | ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (حم سجدہ: 34) | 16 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|--|-----|-----------|
| 16 | اسلام امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کا نہیں۔ | 6 | 251 |
| 17 | وَ اذْکُرْ اَخَا عَادٍ ؕ (احقاف: 21) پُر امن کفار کو انسانی بنیاد پر بھائی کہا گیا ہے کیونکہ سب اولادِ آدم ہیں تو جسے بھائی کہا جائے اسے مارنا کب جائز ہے؟ | 6 | 415 |
| 18 | فَاِذَا لَقِیْتُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَضْرِبُوْا الرِّقَابِ ؕ (سورۃ محمد: 4) معلوم ہوا جنگ میں صرف کافر فوجیوں کو مارا جائے عام شہریوں کو نہیں۔ لہذا شہری آبادیوں پر بمباری جائز نہیں، یہ دہشت گردی ہے۔ | 6 | 431 |
| 19 | حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ؕ (سورۃ محمد: 4) جہاد اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ | 6 | 431 |
| 20 | دہشت گردی کا شکار ہمیشہ سے مسلمان رہے ہیں۔ | 6 | 431 |
| 21 | لَا یَنْهٰکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِیْنَ لَمْ یُقَاتِلُوْکُمْ فِی الدِّیْنِ وَ لَمْ یُخْرِجُوْکُمْ مِّنْ دِیَارِکُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْا اِلَیْهِمْ ؕ (ممتحنہ: 8) قرآن نے پُر امن کفار سے نیکی کرنے کا حکم فرمایا ان سے لڑنے کا نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار میں سے جنگ میں غیر شامل بچوں عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کا قتل جائز نہیں ہے۔ | 7 | 64 |
| 22 | اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۙ وَ رَاٰی النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ ۙ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ ۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۙ (نصر: 1-3) یعنی جب فتح ملے تو خونریزی نہ کرو بلکہ عاجزانہ حمد و تسبیح کہو۔ | 7 | 54 |
| اسلام نے غلامی کو رخصت کر دیا تاکہ اس کے منالے میں مدد دی ہے | | | |
| 23 | وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (نساء: 92) ہر قتلِ خطا میں ایک غلام کا آزاد کرنا ضروری قرار دیا گیا تاکہ عنلامی کا سلسلہ کم ہو۔ | 2 | 400 |
| 24 | اَوْ کَسُوْتْهُمُ اَوْ تَحْرِیْرُ رَقَبَةٍ ؕ (مائدہ: 89) اسلام میں ہر کفارہ قسم میں غلام کا آزاد کرنا ضروری قرار دیا گیا، تاکہ عنلامی ختم ہو۔ | 2 | 636 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---------------------------------|---|-----|-----------|
| 25 | وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط (براءت: 60) مکاتب غلام کو زکوٰۃ دینا جائز کیا گیا تاکہ وہ آزادی کی نعمت حاصل کر سکے۔ | 3 | 451 |
| 26 | فَكَ رَقَبَةٍ ^ط أَوْ اطْعَمَ (بلد: 13-14) اسلام نے غلامی کو دنیا سے مٹا دیا ہے۔ | 7 | 413 |
| 27 | وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ (نور: 33) جو غلام کتابت چاہتا ہو اسے کتابت دو تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ | 5 | 91 |
| 28 | وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ^ط (نور: 33) مکاتب غلام کو مالی مدد دوتا تاکہ وہ آزاد ہو۔ | 5 | 91 |
| غلاموں سے حسن سلوک | | | |
| 29 | فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَا ^ط (مجادلہ: 3) ہر کفارہ ظہار میں ایک غلام کی آزادی رکھی گئی تاکہ غلام ختم ہوں۔ | 7 | 5 |
| 30 | وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ^ط (نساء: 36) غلاموں سے احسان کرنے کا حکم۔ | 2 | 320 |
| 31 | وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا (نور: 33) لوٹڈیوں کو بے حیائی پر مجبور کیے جانے کا سلسلہ بند کیا گیا۔ | 5 | 92 |
| قرآن اور تحفظ حقوق نسوان | | | |
| 32 | هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ^ط (بقرہ: 187) اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ | 1 | 416 |
| 33 | لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ^ط (بقرہ: 226) اسلام حقوق نسوان کا محافظ ہے (ایلاء کو چار ماہ سے زائد لٹکا یا نہیں جاسکتا)۔ | 1 | 477 |
| 34 | الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ^ط فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^ط (بقرہ: 229) اسلام کا عورت پر احسان (دو سے زیادہ رجعی طلاق نہیں رکھی)۔ | 1 | 484 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 35 | وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ (آل عمران: 36) یعنی بعض خواتین کو کروڑوں مردوں پر فضیلت دی گئی۔ | 2 | 44 |
| 36 | وَاصْطَفَيْكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (آل عمران: 42) سیدہ مریم <small>علیہا السلام</small> کی فضیلت۔ | 2 | 54 |
| 37 | أَنِّي لَا أُضِيْعُ عَمَلًا عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ (آل عمران: 195) عورت کی ہر نیکی مرد کی طرح ہے۔ | 2 | 237 |
| 38 | وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (نساء: 1) عورت بحیثیت انسان مرد سے کم نہیں۔ | 2 | 243 |
| 39 | لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (نساء: 7) مرنے والے کی بیٹیوں اور بیوہ کو میراث سے محروم رکھنے کی رسم جاہلیت کا سدباب۔ | 2 | 254 |
| 40 | لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا (نساء: 19) اسلام سے قبل عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا سدباب۔ | 2 | 275 |
| 41 | لَتَذُھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوھُنَّ (نساء: 19) طلاق کی صورت میں عورت کو دیا گیا زیور واپس لینا ظلم ہے، سوا خاص حالات کے۔ | 2 | 275 |
| 42 | وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (نساء: 19) عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم۔ | 2 | 275 |
| 43 | اتَّخِذُوْهُنَّ بُھْتَانًا وَاثْمًا مُّبِيْنًا (نساء: 20) لہام سے قبل عورت پر کیا گیا مظالم روار کھے جاتے تھے۔ | 2 | 277 |
| 44 | وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ (نساء: 22) اسلام سے قبل سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ | 2 | 279 |
| 45 | وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ (نساء: 124) | 2 | 439 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 439 | 2 | ایمان و عمل کے اعتبار سے عورت مرد سے کم نہیں۔ | 45 |
| 442 | 2 | وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ (نساء: 127) عورتوں کو اسلام سے قبل میراث سے محروم رکھا جاتا تھا اور دیگر مظالم روار کھے جاتے۔ | 46 |
| 238 | 4 | وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ (نحل: 58) کفار عرب بیٹی کی پیدائش پر جل بھن کر سیاہ رو ہو جاتے تھے۔ | 47 |
| 239 | 4 | عورت کو اس کا صحیح مقام صرف اسلام نے دیا ہے۔ | 48 |
| 274 | 4 | مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ (نحل: 97) اسلام میں عورت کمتر مخلوق نہیں۔ نہ وہ ایمان و تقویٰ میں مرد سے پیچھے ہے۔ | 49 |
| 199 | 6 | مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (مومن: 40) قبولیت عمل میں عورت مرد کے برابر ہے۔ | 50 |
| 316 | 6 | وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ (زخرف: 17) بیٹی کی پیدائش پر غم کرنا کار کفار ہے۔ | 51 |
| 604 | 6 | أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ ﴿٢١﴾ (نجم: 21) بیٹی کی پیدائش پر پریشان ہونا طریقہ کفار ہے۔ | 52 |
| 3 | 7 | قَدْ سَبَّحَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (مجادلہ: 1) اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ سی عورت کے شکوہ پر فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ | 53 |
| 335 | 7 | وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۖ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ (تکویر: 8-9) اسلام نے عورت کو حرمت و حفاظت دی ہے۔ | 54 |

الاسلام و خسران المجتمع الغربی

اسلام اور تہذیب مغرب کی زبوں حالی

- * طہارت کے حوالے سے۔
- * شرب خمر کے حوالے سے۔
- * حقوق زوجین کے حوالے سے۔
- * طلاق کے حوالے سے۔
- * وجوب عدت کے حوالے سے۔
- * حرمت لواطت کے حوالے سے۔
- * ستر عورت اور بے پردگی کے حوالے سے۔
- * مرد و عورت کے اختلاط کے حوالے سے۔
- * حرمت زنا کے حوالے سے۔
- * اطاعت و خدمت والدین کے حوالے سے۔

اسلام اور تہذیب مغرب کی زبوں حالی

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | طہارت کے حوالے سے | | |
| 1 | فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ^۱ (براءت: 108) اسلام میں طہارت کی اہمیت اور انگریزی تہذیب کی زبوں حالی۔ | 3 | 506 |
| 2 | وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ^۱ (مائدہ: 6) وضو اور غسل کا فلسفہ۔ | 2 | 533 |
| 3 | وَ يُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ (انفال: 11) طہارت کے لئے پانی کا بیان۔ | 3 | 325 |
| | حرمت شراب کے حوالے سے | | |
| 4 | يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ۚ وَإِنَّهُمَا آكْرَهٌ مِنْ نَفْعِهِمَا ^۱ (بقرہ: 219) برطانیہ میں روڈ ایکسی ڈینٹس کی سب سے بڑی وجہ شراب نوشی ہے۔ | 1 | 464 |
| 5 | إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ (مائدہ: 91) مغربی تہذیب میں شراب اور جوئے کی تباہ کاریاں۔ | 2 | 639 |
| | حقوق زوجین کے حوالے سے | | |
| 6 | وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^۱ (بقرہ: 228) اسلام میں عورت نہ بھیڑ بکری ہے نہ شتر بے مہار، بلکہ ذمہ دار انسان ہے۔ البتہ معسر بی تہذیب میں وہ شتر بے مہار ہے۔ | 1 | 482 |
| 7 | لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ^۱ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ (نساء: 32) | 2 | 311 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 7 | عورتوں کو ہر کام میں مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنے کا خط چھوڑ دینا چاہیے۔ | 2 | 311 |
| 8 | الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (نساء: 34) مرد کو عورت پر حاکم کیوں بنایا گیا اس کا فلسفہ۔ | 2 | 314 |
| | طلاق کے حوالے سے | | |
| 9 | الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ (بقرہ: 237) اسلام نے نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے وہی جب چاہے کھول سکتا ہے۔ اہل یورپ و امریکہ نے عورت کو بھی حق طلاق دیا جس وجہ سے آج نکلے گھر بکھر گئے ہیں۔ | 1 | 512 |
| | وجوب عدت کے حوالے سے | | |
| 10 | وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (بقرہ: 228) عدت اس لیے ہے تاکہ دو مردوں کا نطفہ ایک عورت میں جمع نہ ہو، انگریزی تہذیب میں اسکی کچھ اہمیت نہیں کہ انسان کی نسل خلط نہ ہونے پائے۔ | 1 | 479 |
| | حرمت لواطت کے حوالے سے | | |
| 11 | فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا حَاكِمًا (حجر: 73-74) لواطت کی خباثت اور آج تمام یورپین ممالک کا اسکے جواز پر اتفاق۔ | 4 | 199 |
| 12 | وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا (اعراف: 84) فعل لواطت کا عذاب اور یورپ و امریکہ کی زبوں حالی۔ | 3 | 210 |
| | ستر عورت اور بے پردگی کے حوالے سے | | |
| 13 | بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا (اعراف: 22) شیطان انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس نے اقوام مغرب کو مکمل ننگا کر دیا ہے۔ | 3 | 160 |
| 14 | قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ (اعراف: 26) يُبْنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا (اعراف: 27) | 3 | 165 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|---|---|-----|-----------|
| 14 | آج مغربی اقوام پر شیطان مکمل مسلط ہو چکا ہے۔ | 3 | 165 |
| 15 | وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (نور: 31) اسلامی لباس ہی عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ | 5 | 83 |
| مرد و عورت کے اختلاط کے حوالے سے | | | |
| 16 | قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (يوسف: 33) کردارِ یوسف علیہ السلام اور تہذیبِ مغرب کی زبوں حالی۔ | 4 | 32 |
| 17 | وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا (يوسف: 109) عورت نبی یا امام نہیں بن سکتی کیونکہ اسکا شمع محفل بننا اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ | 4 | 87 |
| حرمتِ زنا کے حوالے سے | | | |
| 18 | وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل: 32) اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والے افعال بھی حرام قرار دیے ہیں جیسے بد نظری، پکڑنا، چھونا۔ اور یورپ نے زنا کو مکمل جائز کر دیا۔ آج نصف کے قریب انگریز حرامی ہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں۔ | 4 | 345 |
| 19 | الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (نور: 2) آج گئے گزرے دور میں بھی مسلم ممالک میں انگریزوں والی بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ | 5 | 51 |
| اطاعت و خدمتِ والدین کے حوالے سے | | | |
| 20 | إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ (بنی اسرائیل: 23) بوڑھے والدین کو آف کہنے کی بھی اجازت نہیں اسکا فلسفہ۔ | 4 | 334 |
| 21 | فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا (طہ: 125) کافر کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اسکا ایک نمونہ یورپ میں بوڑھے والدین کی زبوں حالی بھی ہے۔ | 4 | 580 |

قلۃ متاع الدنیاء فی ضوء القرآن

قلت متاع دنیا و ترآن کی روشنی میں

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| | قرآن اور حقیقت دنیا | | |
| 1 | بَاتِّخَاذِكُمُ الْعَجَلِ (بقرہ: 54) جو چیز مومن کو اللہ سے دور کر دے، وہ بچھڑے جیسی ہے۔ | 1 | 213 |
| 2 | یہ دنیا مقام تہہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی حیثیت، از حدیث۔ | 1 | 214 |
| 3 | وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ (بقرہ: 96) دنیا کی مثال ایک اسٹیشن کی طرح ہے۔ | 1 | 269 |
| 4 | موت کو یاد رکھنے کی اہمیت و ضرورت۔ | 1 | 269 |
| 5 | إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ (بقرہ: 249) ہوس دنیا کی مثال نہر بنی اسرائیل کی طرح ہے۔ | 1 | 533 |
| 6 | لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ (آل عمران: 10) مال و اولاد کی کثرت باعثِ فضیلت نہیں۔ | 2 | 13 |
| 7 | وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (آل عمران: 14) مال دنیا کی کثرت امتحانِ عظیم ہے۔ | 2 | 18 |
| 8 | دنیا کے بارے میں چند امور کا لحاظ ضروری ہے۔ | 2 | 19 |
| 9 | كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (آل عمران: 185) موت کی تیاری لازم ہے۔ | 2 | 228 |
| 10 | قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ (آئدہ: 100) | 2 | 653 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| 10 | گندمال جہنم کا ایندھن ہے۔ | 2 | 653 |
| 11 | وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ (انعام: 32) دنیا کی بے قدری اور آخرت کی قدر و قیمت۔ | 3 | 26 |
| 12 | دنیا صفر ہے اور آخرت عدد۔ | 3 | 26 |
| 13 | ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ (اعراف: 95) دنوی آسائشوں میں اللہ سے غافل ہو جانا کفار کا کام ہے۔ | 3 | 216 |
| 14 | کسی کی دنیوی راحت اسکی صداقت کی دلیل نہیں۔ | 3 | 217 |
| 15 | وَنَقِصَ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (اعراف: 130) مصائب انسان کو اپنے کردار پر نظر ثانی کی دعوت دیتے ہیں۔ | 3 | 234 |
| 16 | إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَتَانِهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا (اعراف: 163) مال حرام کی آسان یا بی امتحان عظیم ہے۔ | 3 | 274 |
| 17 | إِنْ تَحِبُّوا عَلَيْهِ يُلْهَثُ (اعراف: 176) دنیا کی حرص میں بتلا انسان کی کتے سے تشبیہ۔ | 3 | 285 |
| 18 | أَنْبَاءَ أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَفِتْنَةٌ (انفال: 28) مال و اولاد کی بے جا محبت انسان کو راہِ حق سے ہٹاتی ہے۔ | 3 | 339 |
| 19 | أَنْبَاءَ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ (يونس: 24) حیاتِ دنیا کی بے ثباتی کی مثال۔ | 3 | 553 |
| 20 | وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (رعد: 26) اللہ کے ہاں دنیا کی بے قدری اور آخرت کی قدر و قیمت۔ | 4 | 115 |
| 21 | ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ (حجر: 3) لمبی خواہشاتِ دنیا میں ڈوب جانا کافروں کا کام ہے، مومن ایک مسافر کی طرح دنیا کو گزارتا ہے۔ | 4 | 171 |

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|--|-----|-----------|
| 22 | مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ (نحل: 96) دنیا کو زوال ہے اور آخرت لازوال ہے۔ | 4 | 272 |
| 23 | وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا زَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ (کہف: 32) متکبر مالدار اور متواضع عیالدار کی مثال۔ | 4 | 430 |
| 24 | وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ (کہف: 45) مال دنیا کی بارش سے مثال اور اسکا فلسفہ۔ | 4 | 435 |
| 25 | لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ اس آیت کے تحت رسول اللہ ﷺ اور شیخین کے زہد و فقر کا رقت آمیز تذکرہ۔ (طہ: 131) | 4 | 583 |
| 26 | اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۗ (انبیاء: 1) حقیقت دنیا و فکر آخرت۔ | 4 | 590 |
| 27 | وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۗ (فرقان: 18) مثال الذین اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ ۗ (عنکبوت: 41) دنوی زندگی کی خانہ عنکبوت سے تشبیہ اور اسکا مفہوم۔ | 5 | 143 |
| 28 | وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۗ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۗ (عنکبوت: 64) دنیا کی مثال کھیل تماشہ کے ساتھ کیسے ہے؟ | 5 | 380 |
| 29 | لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ (زخرف: 33) اللہ تعالیٰ کے ہاں دولت دنیا کی بے قدری۔ | 6 | 325 |
| 30 | اعْلَمُوا أَنبَاءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهُوَ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ (حدید: 20) دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے۔ | 6 | 699 |
| 31 | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ (حشر: 19) بے ثباتی دنیا بزبان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ | 7 | 51 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 91 | 7 | قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ (جمہ: 8) موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے یہ چیز انسان کو گناہ سے دور رکھتی ہے۔ | 32 |
| 106 | 7 | لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ (منافقون: 9) مال دنیا کمانے میں حرام و حلال کی تمیز ختم کر دینے والوں کے لیے تشبیہ۔ | 33 |
| 158 | 7 | الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ملک: 2) موت کا فکر زندگی سے زیادہ ہونا چاہیے اور دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ | 34 |
| 270 | 7 | يَوْمَ الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۗ وَصَاحِبَتِهِ وَ أَخِيهِ ۗ (معارج: 11-12) جن بیوی بچوں کے لیے ہم حرام اکٹھا کرتے ہیں وہ روز قیامت ہمارے دشمن ہونگے | 35 |
| 319 | 7 | وَأَثَرُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ (نازعات: 38) دنیا آخرت پر ترجیح دینے کی بُرائی۔ | 36 |

بعض جدید فقہی مسائل

| نمبر شمار | مضامین | جلد | صفحہ نمبر |
|-----------|---|-----|-----------|
| | طہارت و نماز | | |
| 1 | وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۗ (بقرہ: 115) چلتی گاڑی میں عند العذر فرض نماز کا جواز۔ | 1 | 297 |
| 2 | طلوع فجر کی تحقیق اور برطانیہ میں طلوع فجر کا صحیح وقت۔ | 1 | 418 |
| 3 | قبلہ نما (COMPASS) کی شرعی حیثیت۔ | 3 | 589 |
| 4 | ہوائی جہاز اور ٹرین میں نماز کا حکم۔ چلتی ٹرین یا بس یا ہوائی جہاز میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنی جائز ہے۔ | 1 | 298 |
| | روزہ | | |
| 5 | تحقیق یہ ہے کہ انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ | 1 | 396 |
| 6 | انجکشن سے روزہ ٹوٹنے کے دلائل کا جواب۔ | 1 | 397 |
| 7 | انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ | 1 | 403 |
| 8 | رویت ہلال میں علم فلکیات سے مدد لینا جائز ہے۔ | 1 | 407 |
| 9 | اگر کوئی شخص مغرب سے روزہ رکھ کر مشرق میں جائے یا اسکا الٹ ہو اور روزوں کی تعداد بدل جائے تو کیا کرے؟ | 1 | 409 |
| 10 | برطانیہ کی مختصر ترین راتوں میں سحری کیسے ختم کی جائے؟ | 1 | 419 |
| | زکوٰۃ | | |
| 11 | کیا بینک اور بلڈنگ سوسائٹی کا طویل المیعاد قرض وجوب زکوٰۃ سے مانع ہے؟ | 1 | 199 |
| 12 | کیا پرائیڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے؟ | 3 | 454 |

| صفحہ نمبر | جلد | مضامین | نمبر شمار |
|-----------|-----|--|-----------|
| 456 | 3 | سیکورٹی ڈپازٹ کی زکوٰۃ کسی پر لازم نہیں ہے۔ | 13 |
| | | نکاح | |
| 502 | 1 | طبی وجوہ کی بنیاد پر برتھ کنٹرول جائز ہے۔ | 14 |
| 255 | 4 | ٹیسٹ ٹیوب بے بی کے حصول کا جواز اور اسکے دلائل۔ | 15 |
| 610 | 3 | غربت کے خطرہ سے خاندانی منصوبہ بندی حرام اور گمراہی ہے۔ | 16 |
| | | بیع | |
| 591 | 1 | انعامی بانڈز کی شکل میں ملنے والی اضافی رقم سود نہیں ہے۔ | 17 |
| 465 | 1 | مروجہ لاٹری بھی جوئے کی ایک قسم ہے۔ | 18 |
| 298 | 2 | پگڑی کے مروج کاروبار کا شرعی حکم۔ | 19 |
| 300 | 2 | املاک کی انشورنس کا شرعی حکم۔ | 20 |
| 302 | 2 | انشورنس کے بارے میں شبہات کا ازالہ۔ | 21 |
| 305 | 2 | لائف انشورنس (بیمہ زندگی) کا شرعی حکم۔ | 22 |
| | | حلال و حرام | |
| 382 | 1 | بامر مجبوری حرام دواؤں کا استعمال۔ | 23 |
| 510 | 2 | جدید برقی مشین کے ذبیحہ کا شرعی حکم۔ | 24 |
| 511 | 2 | جھٹکے والا جانور حرام و مردار ہے۔ | 25 |
| 512 | 2 | خون کی ڈرپ لگوانا حلال ہے۔ | 26 |
| 112 | 7 | موبائل، آئی پیڈ اور مووی میں رکھی جانے والی تصویر جائز ہے۔ | 27 |



ماخذ و مراجع

| سن طباعت | مطبوعہ | مصنف | نام کتاب |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| کتاب الہایہ | | | |
| | | | ✿ قرآن مجید |
| | | | ✿ تورات |
| | | | ✿ انجیل |
| | | | ✿ زبور |
| کتاب تفسیر | | | |
| ۱۳۰۹ھ | دار المعرفہ بیروت | ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۱ھ | جامع البیان |
| ۱۳۲۳ھ | مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکہ | امام عبدالرحمان بن محمد بن ادیس بن ابی حاتم متوفی ۳۲۷ھ | تفسیر ابن ابی حاتم |
| ۱۳۰۳ھ | دار الفکر بیروت | امام عبدالرحمان جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | الدر المنثور فی التفسیر بالماثور |
| ۱۳۹۹ھ | دار الفکر بیروت | امام علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم الخازن متوفی ۷۲۵ھ | لباب العاویل فی معانی التنزیل |
| ۱۳۹۹ھ | دار الفکر بیروت | امام ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی متوفی ۵۱۶ھ | معالم التنزیل |
| | مکتبہ آیۃ اللہ عظمیٰ ایران | منسوب بہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متوفی ۲۸ھ | تویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس |
| ۱۹۹۲ھ | دار المعرفہ بیروت | امام حافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر دمشقی متوفی ۷۷۳ھ | تفسیر القرآن العظیم |
| | دار الحدیث ملتان | امام فخر الدین عمر رازی متوفی ۶۰۶ھ | التفسیر الکبیر |
| | دار فراس مصر | امام ابو الخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۶۸۵ھ | انوار التنزیل |
| ۱۳۰۵ھ | دار الفکر بیروت | امام عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی متوفی ۷۱۰ھ | مدارک التنزیل |
| ۱۳۱۲ھ | دار الفکر بیروت | امام ابو الیمان محمد بن یوسف اندلسی متوفی ۷۵۳ھ | البحر المحیط |
| ۱۳۳۵ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ و امام جلال الدین محلی متوفی ۸۶۳ھ | تفسیر جلالین |
| ۱۳۱۰ھ | دار احیاء التراث العربی بیروت | امام احمد صاوی مالکی متوفی ۱۲۳۳ھ | تفسیر الصاوی |
| | مطبع کریمی بمبئی | علامہ ملا احمد جیون جوپوری متوفی ۱۳۳۰ھ | التفسیرات الاحمدیہ |

| | | | |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------------|
| | روح المعانی | علامہ سید محمود آلوسی بغدادی ۱۲۷۰ھ | دار احیاء التراث |
| | روح البیان | امام علامہ اسماعیل حقی حنفی | دار احیاء التراث |
| | تفسیر مظہری | قاضی ثناء اللہ پانی پتی متوفی ۱۲۲۵ھ | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ |
| | تفسیر عزیزی | شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی متوفی ۱۲۳۹ھ | مطبع فاروقی دہلی |
| | الجواہر فی تفسیر القرآن | شیخ طنطاوی بن جوہری مصری متوفی ۱۳۵۹ھ | دار الفکر بیروت |
| | تفسیر المنار | علامہ محمد رشید رضا متوفی ۱۳۵۲ھ | دار المعرفہ بیروت |
| ۱۳۰۳ھ | الفتوحات الالہیہ | شیخ سلیمان بن معروف بہ الجمل | مطبعہ بہیہ مصر |
| ۱۳۳۵ھ | اسباب النزول | امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت |
| | زاد المسیر | علامہ ابو الفرج عبدالرحمان بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ھ | مکتب اسلامی بیروت |
| ۱۳۰۸ھ | حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی | علامہ محی الدین محمد بن مصطفیٰ متوفی ۹۵۱ھ | مکتبہ حقیقت استنبول ترکی |
| ۱۳۸۶ھ | فی ظلال القرآن | سید محمد قطب شہید مصری متوفی ۱۳۸۵ھ | دار احیاء التراث العربی |
| ۱۳۱۲ھ | تفسیر منیر | ڈاکٹر وحید زحیلی | دار الفکر بیروت |
| | تفسیر رضوی | امام احمد رضا خان فاضل بریلوی متوفی ۱۳۴۰ھ | |
| | تفسیر نعیمی | حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ | اسلامی کتب خانہ گجرات |
| | نور العرفان | حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ | اسلامی کتب خانہ گجرات |
| ۱۳۱۸ھ | تبیان القرآن | شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی | فرید بک سٹال لاہور |
| | ضیاء القرآن | ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری | ضیاء القرآن لاہور |
| | خزائن العرفان | علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ | تاج کمپنی کراچی |
| | فتح القدر | شیخ محمد بن علی بن محمد شوکانی متوفی ۱۲۵۰ھ | محفوظ العلی بیروت |
| ۱۳۰۶ھ | معارف القرآن | علامہ مفتی محمد شفیع کراچی | ادارۃ المعارف کراچی |
| ۱۳۱۱ھ | تفسیر مہمات القرآن | امام عبداللہ محمد بن علی بلنسی متوفی ۷۸۲ھ | دار الغرب اسلامی بیروت |
| ۱۳۰۵ھ | الجامع الاحکام القرآن | ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی | دار احیاء التراث العربی بیروت |
| ۱۳۰۸ھ | احکام القرآن | امام ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن عربی مالکی | دار الکتب العلمیہ بیروت |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| ۱۳۰۰ھ | سہیل اکیڈمی لاہور | امام ابو بکر احمد بن علی جصاص حنفی متوفی ۳۷۰ھ | احکام القرآن |
| تفاسیر علماء شیعہ | | | |
| ۱۳۲۸ھ | موسستہ الاعلیٰ بیروت | آیت اللہ مکارم شیرازی | تفسیر نمونہ |
| ۱۳۷۸ھ | کتاب فروشی اسلامیہ تہران | ملاح اللہ کاشانی | صحیح الصادقین |
| ۱۳۲۵ھ | موسسہ اعلیٰ بیروت | علامہ ابو علی فضل بن حسن طبری متوفی ۵۲۸ھ | مجمع البیان |
| ۱۳۲۸ھ | دارالکتاب قم ایران | ابو حسن بن محمد طاہر عالمی متوفی ۱۳۱۰ھ | مرآة الانوار |
| | کتاب فروشی اسلامیہ تہران | محمد بن مرتضیٰ فیض کاشانی متوفی ۱۲۲۰ھ | تفسیر صافی |
| ۱۳۹۰ھ | مطبعہ حیدریہ نجف اشرف | فرات بن ابراہیم بن فرات کوفی متوفی ۲۱۲ھ | تفسیر فرات الکوفی |
| ۱۳۸۳ھ | ذوی القربی قم ایران | امام ابو محمد حسن بن علی عسکری | تفسیر حسن عسکری |
| ۱۹۸۵ء | چاند کمپنی لاہور | شیخ فرمان علی شاہ | ترجمہ القرآن |
| ۱۳۰۳ھ | دارالکتاب ایران | شیخ علی بن ابراہیم بن ہاشم قمی متوفی ۳۰۷ھ | تفسیر قمی |
| ۱۳۸۰ھ | مکتبہ علمیہ تہران | ابونضر محمد بن مسعود بن عیاش سمرقندی | تفسیر عیاشی |
| تفاسیر مرزائیہ | | | |
| ۱۹۸۶ء | مرکز احمدیت لندن | مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی | تفسیر کبیر |
| | مطبع کریمی لاہور | محمد علی ایم اے مرزائی لاہوری | ترجمہ قرآن |
| تفاسیر خوارج | | | |
| ۱۳۱۷ھ | مجمع الملک سعودیہ | شیخ سلاح الدین یوسف اہل حدیث | حاشیہ قرآن |
| ۱۳۰۷ھ | ادارۃ المعارف کراچی | علامہ مفتی محمد شفیع متوفی ۱۳۹۳ھ | معارف القرآن |
| | ترجمان القرآن لاہور | سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ | تفہیم القرآن |
| | فاران فاؤنڈیشن لاہور | شیخ امین احسن اصلاحی | تدبر قرآن |
| | اسلامی اکادمی لاہور | علامہ ابوالکلام آزاد | ترجمان القرآن |
| | تاج کمپنی لاہور | علامہ محمود الحسن دیوبندی متوفی ۱۳۳۹ھ | ترجمہ قرآن |
| | تاج کمپنی لاہور | علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی متوفی ۱۳۶۹ھ | حاشیہ القرآن |
| | تاج کمپنی لاہور | شیخ علامہ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۶۲ھ | بیان القرآن |
| | مکتبہ رشیدیہ لاہور | علامہ سید امیر علی بیخ آبادی متوفی ۱۳۳۷ھ | مواہب الرحمن |

| ترجمہ و تفسیر | علامہ عبد الماجد دریا آبادی | تاج کمپنی لاہور |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| علوم القرآن | | |
| التجیر فی علم التفسیر | امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | دار المنار قاہرہ |
| الاتقان فی علوم القرآن | امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | دار الکتب العلمیہ |
| البرہان فی علوم القرآن | علامہ بدر الدین محمد بن عبداللہ زکشی | دار المعرفہ بیروت |
| اطلس القرآن | ڈاکٹر ابوخلیل شوقی | دار الفکر بیروت |
| الفوز الکبیر فی اصول التفسیر | امام احمد بن عبدالرحیم المعروف بہ شاہ ولی اللہ دہلوی متوفی ۱۱۷۶ھ | مکتبہ البیہقی |
| المعجم المفہر س الالفاظ القرآن | محمد فواد عبدالباقی مصری | دار الحدیث قاہرہ |
| التبیان فی اقسام القرآن | شمس الدین محمد بن ابی بکر المعروف بہ ابن قیم جوزیہ | مکتبہ ابن حمیمہ قاہرہ |
| القراءات | | |
| النشر فی القراءات العشر | امام حافظ ابو الخیر محمد بن محمد دمشقی المعروف بہ ابن جزری متوفی ۸۳۳ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت |
| متن الشاطبیہ | امام قاسم بن فیروز بن خلف شاطبی اندلسی متوفی ۵۹۰ھ | اشاعتہ القراءات ملتان |
| التیسیر | امام حافظ کبیر ابو عمر عثمان بن سعید دانی متوفی ۲۲۴ھ | مکتبہ جعفری تبریزی تہران ۱۹۲۰ء |
| عنايات رحمانی | فتح محمد بن محمد اسماعیل پانی پاتی | اشاعتہ القراءات ملتان |
| کتاب التبصرہ | امام مقرئ ابو محمد کلی بن ابی طالب متوفی ۱۰۴۵ھ | دار سلفیہ بمبئی |
| المکتفی فی الوقف والابتداء | امام مقرئ ابو عمر عثمان بن سعید دانی متوفی ۵۹۰ھ | موسسہ الرسالہ بیروت |
| کتاب الحدیث | | |
| مسند امام اعظم | امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت متوفی ۱۵۰ھ | المیزان لاہور |
| موطا امام مالک | امام مالک بن انس متوفی ۱۷۹ھ | اسلامی اکادمی لاہور |
| صحیح البخاری | امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ | دار السلام ریاض |
| صحیح مسلم | امام ابو الحسین محمد بن مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری متوفی ۲۶۱ھ | دار الاسلام ریاض |
| سنن ابی داؤد | امام ابو داؤد سلیمان بن اشوث سجستانی ازدی متوفی ۲۷۵ھ | دار السلام |

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-------|
| سنن النسائی | امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی نسائی متوفی ۳۰۳ھ | دار السلام ریاض | ۱۴۲۱ھ |
| سنن ابن ماجہ | امام ابو عبد اللہ بن محمد یزید زبجی قرظی المعروف بہ ابن ماجہ متوفی ۲۴۳ھ | دار السلام ریاض | ۱۴۲۱ھ |
| موطا امام محمد | امام محمد بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ھ | نور محمد کراچی | |
| مسند طیلسی | امام ابو داؤد سلیمان بن جارود طیلسی حنفی متوفی ۲۰۴ھ | ادارۃ القرآن کراچی | ۱۹۹۱ء |
| مصنف عبد الرزاق | امام ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع صنعانی متوفی ۲۱۱ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | ۲۰۱۰ء |
| کتاب الآثار | امام محمد بن حسن شیبانی | مکتبہ اعلیٰ حضرت لاہور | ۱۴۲۵ھ |
| مسند الحمیدی | امام عبد اللہ بن زبیر حمیدی متوفی ۲۱۹ھ | عالم الکتب بیروت | |
| مصنف ابن ابی شیبہ | امام ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ کوفی عسی متوفی ۲۳۵ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | ۱۴۲۶ھ |
| مسند احمد | امام احمد بن محمد بن حنبل متوفی ۲۴۱ھ | دار الفکر بیروت | |
| سنن دارقطنی | امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۲۸۵ھ | دار الفکر بیروت | ۱۴۱۴ھ |
| سنن کبریٰ للبیہقی | امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی متوفی ۴۵۸ھ | دار المعرفہ بیروت | ۱۴۱۲ھ |
| سنن دارمی | امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن بہرام سمرقندی دارمی متوفی ۲۵۰ھ | دار الفکر بیروت | |
| المستدرک | امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نيساپوری متوفی ۴۰۵ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | ۱۴۱۱ھ |
| صحیح ابن خزیمہ | امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نيساپوری متوفی ۳۱۱ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | ۲۰۰۹ء |
| مسند ابی یعلیٰ | امام ابو یعلیٰ احمد بن علی بن ثنی موصلی متوفی ۳۰۷ھ | دار المعرفہ بیروت | ۱۴۲۶ھ |
| صحیح ابن حبان | امام ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان تمیمی متوفی ۲۵۴ھ | پیتا لا فکار اردن | |
| شرح معانی الآثار | امام ابو جعفر احمد بن محمد ازدی مصری طحاوی متوفی ۳۲۱ھ | مکتبہ حقانیہ ملتان | |
| مسند ابی عوانہ | امام ابو عوانہ یعقوب بن اسحاق متوفی ۳۱۴ھ | دار الباز مکہ مکرمہ | |
| المعجم الکبیر | امام حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ | دار احیاء التراث العربی بیروت | |
| المعجم الوسط | امام حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | ۱۴۲۰ھ |
| المعجم الصغیر | امام حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی متوفی ۳۶۰ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | ۱۴۳۴ھ |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| ۱۳۹۰ھ | مکتبہ عربیہ حلب | امام حافظ ابو نعیم اصبہانی متوفی ۲۳۰ھ | دلائل النبوة |
| ۱۳۰۷ھ | دارالکتب العربیہ بیروت | امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصبہانی متوفی ۲۳۰ھ | حلیۃ الاولیاء |
| | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۲۵۸ھ | دلائل النبوة |
| | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام زکی الدین عبد العظیم عبد القوی منذری متوفی ۶۵۶ھ | الترغیب والترہیب |
| | مکتبہ رحمانیہ لاہور | امام ولی الدین تبریزی متوفی ۷۲۲ھ | مشکوٰۃ المصابیح |
| | موسسۃ المعارف بیروت | امام حافظ نور الدین علی بن ابی بکر ہبیشی متوفی ۸۰۷ھ | مجمع الزوائد |
| | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | الخصائص الکبریٰ |
| ۱۳۰۵ھ | موسسۃ الرسالہ بیروت | امام علی متقی بن حسام الدین برہان پوری متوفی ۹۷۵ھ | کنز العمال |
| | فاروقی کتب خانہ لاہور | امام ابو نعیم محمد بن عیسیٰ ترمذی متوفی ۲۷۹ھ | شمائل الترمذی |
| ۱۳۲۲ھ | مکتبہ برکات رضا گجرات انڈیا | امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی قادری متوفی | جامع الاحادیث |
| ۱۹۹۹ء | دارالسلام ریاض | امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ | ریاض الصالحین |
| | دارالبازمکہ بیروت | امام حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | الجامع الصغیر |
| ۱۳۳۱ھ | مکتبہ مدنی برکاتی گجرات انڈیا | علامہ حافظ ظفر الدین بہاری حنفی | صحیح البخاری |
| ۱۳۲۸ھ | شمیر برادرز لاہور | امام شیخ محمد بن سجان علی حنفی متوفی ۱۳۲۲ھ | آثار السنن |
| | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی ۲۳۰ھ | کتاب الاسماء الصفات |
| ۱۳۲۵ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام حافظ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت متوفی ۲۶۳ھ | رحلۃ فی طلب الحدیث |
| ۱۳۰۹ھ | دارالشارع الاسلامیہ بیروت | امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی | الادب المفرد |
| شروح حدیث | | | |
| ۲۰۰۹ء | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی متوفی ۸۵۵ھ | عمدة القاری شرح صحیح البخاری |
| ۱۳۲۳ھ | دارالحدیث قاہرہ | امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ | فتح الباری شرح |
| ۲۰۰۹ء | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام شہاب الدین ابو عباس احمد بن محمد قسطلانی شافعی متوفی ۹۲۳ھ | ارشاد الساری شرح صحیح البخاری |
| | مطبع مجازی مصر | علامہ نور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ | فیض الباری |

| | | | |
|-------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| | مکتبہ رضوان لاہور | شیخ الحدیث علامہ سید محمود احمد رضوی | فیوض الباری |
| | مکتبہ نبویہ رضویہ فیصل آباد | شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی | تفہیم البخاری |
| ۱۳۷۵ھ | قدیمی کتب خانہ کراچی | امام محی الدین ابوزکریا بیہقی بن شرف نووی متوفی ۶۷۶ھ | شرح صحیح مسلم |
| ۲۰۰۱ء | فرید بک سٹال لاہور | شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی | شرح صحیح مسلم |
| ۱۳۲۷ھ | دار البشائر اسلامیہ | شیخ علامہ خلیل احمد شہار پوری متوفی ۱۳۴۶ھ | بذل الجہود شرح سنن ابی داؤد |
| ۱۳۱۵ھ | دار الفکر بیروت | علامہ ابوطیب محمد شمس الحق عظیم آبادی | عون المعبود شرح سنن ابی داؤد |
| ۱۳۲۷ھ | دار البشائر الاسلامیہ بیروت | علامہ شیخ محمد زکریا کاندھلوی متوفی ۱۳۰۶ھ | تعلیقات علی شرح سنن ابی داؤد |
| ۱۳۱۳ھ | ادارۃ القرآن کراچی | امام شرف الدین حسین بن محمد بن عبداللہ طیبی متوفی ۷۴۶ھ | الکاشف عن حقائق السنن علی مشکوٰۃ |
| | مکتبہ اسلامیہ لاہور | حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی متوفی ۱۳۹۱ھ | مرآة المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح |
| | مکتبہ نور محمد کراچی | علامہ شیخ عبدالحی لکھنوی متوفی ۱۳۰۳ھ | التعلیق المحمد شرح موطا امام محمد |
| | سٹال لاہور | شیخ الحدیث علامہ محمد علی نقشبندی (والد گرامی صاحب تفسیر ہذا برہان القرآن) | شرح موطا امام محمد |
| ۱۳۱۶ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت | امام ابوسلیمان محمد بن خطاب متوفی ۳۸۸ھ | معالم السنن شرح سنن ابی داؤد |
| | مکتبہ خالد بن ولید کراچی | علامہ رسول منظور قاسمی | تکمیل الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ |
| | مکتبہ امدادیہ ملتان | علامہ شیخ محمد حنیف گنگوھی | ممدوح و بہبود شرح سنن ابی داؤد |
| ۱۳۱۲ھ | دارۃ البرکات گھوسی انڈیا | علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی | نزحۃ القاری شرح صحیح بخاری |
| | دار المعرفہ بیروت | علامہ امام عبدالرؤف المناوی متوفی ۱۰۳۱ھ | فیض القدییر شرح جامع صغیر |
| ۱۳۱۵ھ | دار الفکر بیروت | علامہ حافظ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ | تعلیقات علی شرح سنن ابی داؤد |
| ۱۳۲۴ھ | مکتبہ الشیخ کراچی | شیخ الحدیث علامہ محمد عاقل | الدر المنصور علی سنن ابی داؤد |
| | المصباح لاہور | شیخ الحدیث علامہ منظور احمد | فضل المعبود شرح سنن ابی داؤد |
| ۱۳۲۱ھ | دار الحدیث قاہرہ | علامہ شیخ عبدالرحمان مبارک پوری ۱۳۲۵ھ | تحفۃ الالوذی شرح سنن ترمذی |
| | فاروقی کتب خانہ لاہور | علامہ شیخ سید انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ھ | العقب الشذی شرح سنن الترمذی |
| | فاروقی کتب خانہ | علامہ سید علی بن سلیمان دہلی شاذلی | نفع قوت المفتدی شرح سنن ترمذی |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|--|
| | شرح سنن نسائی | امام حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | قدیمی کتب خانہ کراچی دار السلام لاہور |
| | شرح سنن ابن ماجہ | علامہ عطاء اللہ ساجد اہل حدیث | |
| | اسعاف الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ | قاری محمد طیب نقشبندی خود صاحب تفسیر ہذا برہان القرآن | مکتبہ برہان القرآن لاہور |
| | تفسیق النظام شرح مسند امام اعظم | علامہ شیخ محمد حسن سنہلی | المیزان لاہور |
| | اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ | امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ | مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر |
| | مرقات الفاتح شرح مشکوٰۃ المصابیح | امام علامہ علی بن سلطان محمد القاری متوفی ۱۰۱۴ھ | مکتبہ امدادیہ ملتان |
| علوم حدیث | | | |
| | تدریب الراوی نخبۃ الفکر | امام حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | مکتبہ توفیقیہ قاہرہ |
| | شر و الاثم السنہ | امام حافظ ابو بکر محمد بن موسیٰ حازی | فاروقی کتب خانہ لاہور |
| ۱۳۳۶ھ | مقدمہ مشکوٰۃ | امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ | مکتبہ البشری کراچی |
| ۱۹۶۷ء | المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث | جماعت مستشرقین ہالینڈ | بریل لیڈن |
| ۱۳۱۰ھ | موسوعۃ المراف الحدیث النبوی | ابوہاجر محمد سعید بن سیونی زغلول | دار الفکر بیروت |
| ۱۳۲۳ھ | اطلس الحدیث النبوی | ڈاکٹر شوقی ابو خلیل دمشق | دار الفکر بیروت |
| اسماء الرجال | | | |
| ۱۳۱۳ھ | تہذیب التہذیب | امام حافظ شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۸۵۲ھ | دار احیاء التراث العربی بیروت |
| | میزان الاعتدال | امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد زہبی متوفی ۷۴۸ھ | دار الفکر بیروت |
| ۱۳۸۶ھ | کتاب الموضوعات | علامہ ابو الفرج عبد الرحمن جوزی متوفی ۵۹۷ھ | سعید اینڈ سنز کراچی |
| ۱۳۲۵ھ | الک الی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ | امام حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | برکات رضا گجرات انڈیا |
| کتب لغت | | | |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--|
| ۲۰۰۷ء | دارالمشرق بیروت | لویس معلوف مصری یسوعی | المنجد فی اللغه |
| | قدیمی کتب خانہ کراچی | علامہ ابوالفضل مبد الحفیظ بلیاوی | مصباح اللغات |
| ۲۰۰۷ء | دارالمشرق بیروت | لجنۃ المحققین من اهل مصر | المنجد فی الاعلام |
| | المکتبۃ العلمیہ بیروت | امام محمد الدین ابوالسعادات مبارک بن محمد جزری المعروف ابن اثیر متوفی ۶۰۶ھ | النهاية فی غریب الحدیث والاثار |
| | دارالبازمکہ مکرمہ | امام حافظ احمد بن حجر عسقلانی متوفی ۷۳۸ھ | تفسیر غریب الحدیث |
| ۱۳۰۶ھ | مطبعہ خیریہ مصر | سید محمد مرتضیٰ حسینی زبیدی حنفی متوفی ۱۲۰۵ء | تاج العروس |
| ۱۳۹۲ھ | دارالکتب العربیہ ایران | علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ | مفردات القرآن |
| | مکتبہ امدادیہ ملتان | علامہ کریم الدین | کریم اللغات |
| | دارالاشاعت کراچی | الیاس انطون | القاموس المدرسی |
| ۱۳۰۸ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | علامہ شریف علی بن محمد جرجانی | التعریفات |
| کتب تاریخ | | | |
| ۲۰۰۳ء | دارالمنار قاہرہ | امام حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | تاریخ الخلفاء |
| ۱۳۰۸ھ | دارالریان بیروت | امام حافظ ابوالفداء اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۳ھ | البدایہ والنہایہ |
| ۱۳۰۸ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۳۱۰ھ | تاریخ الامام والملوک اکمل فی التاريخ |
| | کتاب فروشی اسلامیہ تہران | مرزا محمد تقی ایرانی | ناسخ التواریخ |
| | مکتبہ الفیصل لاہور | سید محمد قاسم | اسلامی انسائیکلو پیڈیا |
| ۱۹۸۶ء | نفیس اکیڈمی لاہور | علامہ مورخ عبدالرحمان بن خلدون متوفی ۸۰۸ھ | مقدمہ ابن خلدون |
| ۱۹۵۵ء | نفیس اکیڈمی لاہور | علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی | تاریخ اسلام |
| کتب سیرت و فضائل | | | |
| | دارالفکر بیروت | امام علامہ یوسف بن اسماعیل مہبانی | حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین |
| | دارالقبلہ جدہ | امام حافظ ابوالفداء اسماعیل بن کثیر متوفی ۷۷۳ھ | شماکل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم |
| ۱۳۱۲ھ | المکتب الاسلامی بیروت | امام علامہ احمد بن محمد قسطلانی متوفی ۹۲۳ھ | المواہب اللدنیہ |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|
| | دار البازمكة مكرمه | امام نور الدين علي بن احمد سهودي متوفى ٩١١ هـ | وفاء الوفا باحوال دار المصطفى |
| ٢٠١٠ هـ | دار الكتب العلمية بيروت | امام حافظ شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي متوفى ٤٢٨ هـ | سير اعلام النبلاء |
| ١٣٣٢ هـ | مكتبة اعلیٰ حضرت لاہور | امام شيخ عبدالحق محدث دهلوی متوفى | مدارج النبوت |
| ١٣٢٣ هـ | دار الفكر بيروت | ڈاکٹر شوقی ابو خلیل دمشقی | اطلس السيرة النبوية |
| | فاروقی کتب خانہ ملتان | قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ اندلسی متوفى ٥٣٣ هـ | الثقا تعریف حقوق المصطفى |
| ١٣٢٢ هـ | دار الحدیث قاہرہ | علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ | جلاء الافہام فی الصلوٰۃ و اسلام علی خیر الانام |
| ١٣٢٨ هـ | دار صادر بیروت | امام شہاب الدین احمد بن علی محمد کنانی | میسیر الصحابہ |
| ١٣٢٨ هـ | دار صادر بیروت | علامہ ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر قرطبی متوفى ٣٦٣ | الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب |
| ٢٠٠٨ هـ | دار الكتب العلمية بيروت | امام عزالدین ابوالحسن علی بن محمد جزری المعروف بہ ابن اثیر متوفى ٦٣٠ هـ | اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ |
| | مکتبہ ضیاء القرآن لاہور | علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری | ضیاء النبی |
| | دار المعرفۃ بیروت | علامہ شمس الدین ابن قیم الجوزیہ متوفى ٤٥١ هـ | زاد المعاد |
| | مکتبہ مصطفیٰ البابی مصر | امام علامہ محمد یوسف النہانی متوفى ١٣٥٠ هـ | جواهر الحجار |
| فقہ ائمہ اربعہ | | | |
| | دار الفكر بيروت | دکتر و ہبہ زحیلی | الفقہ علی السلامی وادلہ |
| | دار ابن حزم بیروت | شیخ عبدالرحمان الجزائری | الفقہ علی المذاهب الاربعہ |
| فقہ حنفی | | | |
| | شرکت علمیہ ملتان | امام ابوالحسن علی بن ابی بکر مرغینانی متوفى ٥٩٣ هـ | الہدایہ |
| | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ | امام شیخ کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید سیواسی المعروف بابن ہمام متوفى ٦٨١ هـ | فتح القدر |
| | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ | علامہ جلال الدین خوازی | الکفایہ شرح ہدایہ |
| | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ | امام اکمل الدین محمد بن محمود متوفى ٤٨٦ هـ | العنایہ شرح ہدایہ |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| ۱۳۰۵ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام شیخ زین العابدین بن ابراہیم | الاتباہ والنظار علی مذہب ابی حنیفہ |
| ۱۳۱۷ھ | ادارۃ القرآن کراچی | امام علامہ شیخ سندی | لباب المناسک |
| ۱۳۱۷ھ | ادارۃ القرآن کراچی | امام شیخ ملا علی بن سلطان متوفی ۱۰۱۳ھ | المسک المعقظ |
| ۱۳۱۷ھ | ادارۃ القرآن | علامہ حسین بن محمد سعید عبدالغنی مکی | ارشاد الساری فی مناسک القاری |
| | مکتبہ رضویہ کراچی | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ | فتاویٰ رضویہ |
| ۱۳۱۳ھ | دارالاشاعت براؤن انڈیا | علامہ مفتی جلال الدین امجدی | فتاویٰ فیض الرسول |
| ۱۳۲۶ھ | مکتبہ المدینہ کراچی | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ | جد الممتار |
| | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ | جماعۃ فقہاء احناف | فتاویٰ عالمگیری |
| | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ | امام فخر الدین حسن بن منصور فرنگی حنفی متوفی ۲۵۹ھ | فتاویٰ قاضی خان |
| | مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ | امام حافظ محمد بن محمد المعروف بابن بزاز متوفی ۸۶۷ھ | فتاویٰ بزازیہ |
| | قدیمی کتب خانہ کراچی | امام حسن بن عمار بن علی شربلانی | مراقی الفلاح شرنور الضیاح |
| | قدیمی کتب خانہ کراچی | امام سید احمد طحاوی | حاشیہ طحاوی |
| | قدیمی کتب خانہ کراچی | امام شیخ حسن بن علی شربلانی | نور الایضاح |
| ۱۳۰۴ھ | مکتبہ مصطفیٰ البابی مصر | امام علاء الدین حصکفی متوفی ۱۰۸۸ھ | در مختار |
| ۱۳۰۴ھ | مکتبہ مصطفیٰ البابی مصر | محمد امین ابن عابد بن شامی متوفی ۱۲۵۲ھ | رد المحتار |
| | شعبہ برادرز لاہور | اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی | احکام شریعت |
| | ادارۃ الفراس کراچی | مرتبہ علامہ شیخ مجاہد الاسلام قاسمی | جدید فقہی مباحث |
| ۱۳۲۰ھ | مکتبہ المدینہ کراچی | صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۲۷ھ | بہار شریعت |
| | دارۃ المعارف الامجدیہ گھوسی انڈیا | صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۶۷ھ | فتاویٰ امجدیہ |
| کتب فقہ شافعی | | | |
| ۱۳۹۳ھ | دار المعرفہ بیروت | علامہ ابواسحاق شیرازی متوفی ۴۵۵ھ | المہذب |
| | مکتبہ المدینہ کراچی | حجتہ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ | احیاء علوم الدین |
| ۱۳۱۲ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام حافظ جلال الدین سیوطی متوفی ۹۱۱ھ | الجاوی للفتاویٰ |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| ۱۳۳۳ھ | مکتبہ المدینہ کراچی | حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ | مکاشفۃ القلوب |
| | پروگریسو بکس لاہور | حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ | منہاج العابدین |
| ۱۳۳۴ھ | مکتبہ المدینہ کراچی | امام شیخ ابوطالب مکی متوفی ۳۸۶ھ | قوت القلوب |
| | مکتبہ فریدیہ ساہیوال | علامہ شیخ بدالدین اسحاق | اسرار الاولیاء (ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر) |
| | مکتبہ توفیقیہ قاہرہ | امام شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی متوفی ۶۷۱ھ | التذکرہ فی احوال الموتی والآخرہ |
| | مطبعہ کیلانی | علامہ شیخ وجیہ الدین احمد متوفی ۹۹۸ھ | حقیقت محمدیہ |
| | پروگریسو بکس لاہور | مجدد الف تانی شیخ احمد سرہندی فاروقی | مکتوبات امام ربانی |
| | مشاقق بک کارنر لاہور | انام ابوالحسن شطنوفی شافعی | بھیجۃ الاسرار |
| ۱۳۹۷ھ | دارالاشاعت کراچی | امام شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی | کلیات امدادیہ |
| کتاب فقہ مالکی | | | |
| ۱۳۱۶ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام خلیل بن اسحاق بن شعیب مالکی متوفی ۷۶۷ھ | مختصر خلیل |
| ۱۳۱۶ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد مغربی متوفی ۹۵۳ھ | مواہب الجلیل |
| | دار نشر الکتب السلامی لاہور | امام قاضی ابو ولید محمد بن احمد بن رشد قرطبی اندلسی متوفی ۵۹۵ھ | بدایۃ المجتہد |
| | دار الفکر بیروت | امام ابو عبد اللہ محمد بن محمد عبد ری متوفی ۷۳۷ھ | المدخل |
| کتاب فقہ حنبلی | | | |
| ۱۳۰۵ھ | دار الفکر بیروت | علامہ موافق عبد اللہ بن احمد بن قدامہ متوفی ۶۲۰ھ | المغنی |
| ۱۳۱۰ھ | مکتبہ التقدم العلمیہ مکہ مکرمہ | امام علامہ عبد الغنی المقدسی متوفی ۶۰۰ھ | عمدۃ الاحکام |
| | مکتبہ التقدم مکہ مکرمہ | علامہ محمد بن اسماعیل صنعانی متوفی ۱۱۸۲ھ | العده شرح العمدة |
| کتاب فقہ شیعہ | | | |
| ۱۳۲۹ھ | دارالاجتبی نجف | محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ | الفروع من الکافی |
| ۱۳۲۹ھ | دارالاجتبی | شیخ ابو جعفر علی بن محمد بابویہ قمی متوفی ۸۱۶ھ | من لاسخضرہ الفقہیہ |
| ۱۳۲۹ھ | دارالاجتبی نجف | شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۴۶۰ھ | تہذیب الاحکام |
| ۱۳۲۹ھ | دارالاجتبی نجف | شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۴۶۰ھ | الاستبصار |

| تختہ العوام | شیخ مظفر حسین | نول کشور دہلی |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| قصیدہ بدالامامی | امام ابو حسن علی بن عثمان دوسی | مکتبہ حقیقت ترکی استنبول ۱۳۰۵ھ |
| تصحیح المسائل | امام علامہ شاہ فضل الرسول | گلزار حسنی بمبئی |
| السریقہ شرح الطریقتہ الحمدیہ | علامہ ابوسعید خادمی قونوی متوفی ۱۱۷۶ھ | مکتبہ حقیقت استنبول ۱۳۲۰ھ |
| الصواعق المحرقہ | امام احمد بن حجر ہیثمی مکی متوفی ۹۷۳ھ | مکتبہ حقیقت استنبول |
| تطہیر الجنان | امام احمد بن حجر ہیثمی مکی متوفی ۹۷۳ھ | مکتبہ حقیقت استنبول |
| القول الفصل شرح فقہ اکبر | امام محی الدین محمد بن عطاء الدین متوفی ۹۵۶ھ | مکتبہ حقیقت استنبول |
| العقائد النفسیہ | امام شیخ عمر بن محمد نسفی متوفی ۳۷۷ھ | مکتبہ امدادیہ ملتان |
| بدایہ الہدایہ | حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ | مکتبہ توفیقیہ قاہرہ |
| شمول الاسلام لآباء الرسول اکرام | علی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ | بحکم علامہ اختر رضا |
| الامن والعلی | اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ | شعبہ برادرز لاہور |
| ملفوظات اعلی حضرت | اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ | مکتبہ المدینہ کراچی ۱۳۲۰ھ |
| قمر التمام فی نفی النفل من سید الانام | علی حضرت امام احمد رضا بریلوی | فرید بک سٹال لاہور |
| شہادت مول السلام | سید محمد قطب مصری | اتحاد اسلامی ۱۳۹۳ھ |
| مطلع القمربن بابۃ سبقہ العریہ | امام احمد رضا فاضل بریلوی قادری متوفی ۱۳۳۰ھ | مکتبہ بہار شریعت لاہور ۱۳۳۱ھ |
| المعتقد المعتقد | امام علامہ شاہ فضل رسول بدایونی برکاتی | مکتبہ حقیقت استنبول |
| المستند المعتقد | اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی متوفی ۱۳۳۰ھ | مکتبہ حقیقت استنبول |
| السراقت والجواہر | امام عبدالوہاب احمد بن علی شعرانی متوفی ۹۷۳ھ | دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ |
| کتاب المعتقدات و الکلام | | |
| الفقہ الاکبر | امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت | دار الکتب العلمیہ بیروت ۲۰۰۷ھ |
| الطریقتہ الحمدیہ | امام علامہ محمد بن علی برکلی متوفی ۹۸۱ھ | مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد |
| الحدیقتہ الندیہ شرح الطریقتہ الحمدیہ | امام علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی دمشقی حنفی متوفی ۱۱۳۳ھ | مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| ٢٠٠٤ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | امام علامہ صد علی بن سلطان القاری متوفی ۱۰۱۲ھ | شرح الفقہ الاکبر |
| | مکتبہ توفیقیہ قاہرہ | حجۃ الاسلام امام محمد بن محمد غزالی متوفی ۵۰۵ھ | المفتر من الصندل |
| | مکتبہ امدادیہ ملتان | علامہ مسعود بن عمر المعروف بہ سعد الدین تفتازانی متوفی ۷۹۰ھ | شرح عقائد نسفیہ |
| | مکتبہ امدادیہ ملتان | علامہ محمد عبدالعزیز فرہاری | النبر اس حاشیہ شرح عقائد نسفیہ |
| شیعہ کتب تاریخ و احوال ائمہ | | | |
| ۱۲۰۰ھ | دارالفتون بیروت | سلیم بن قیس کوفی کذاب متوفی ۹۰ھ | کتاب سلیم بن قیس |
| | داراحیاء التراث العربی بیروت | علامہ شیخ محمد باقر مجلسی | بحار الانوار |
| ۱۲۱۸ھ | کتب خانہ عمومی تم | نصر بن مزاحم منقری متوفی ۲۱۲ھ | دفعہ صفین |
| ۱۲۲۵ھ | دارالکتب العلمیہ بیروت | مورخ ابو حسن علی بن حسین سعودی متوفی ۳۲۶ھ | مروج الذهب |
| ۱۲۳۰ھ | منشورات الفجر بیروت | ابوالحسن علی بن عیسیٰ اربلی متوفی ۳۹۶ھ | کشف الغمہ |
| | انتشارات اسلامیہ تہران | ابوعبداللہ محمد بن محمد معروف بہ شیخ مفید متوفی ۴۳۸ھ | الارشاد |
| ۱۲۲۸ھ | دارالمرئضی بیروت | ملا محمد باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ | جلاء العیون |
| ۱۳۸۷ھ | انتشارات سرور | ملا محمد باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ | چہارہ معصوم |
| ۱۳۸۸ھ | انتشارات سرور | ملا محمد باقر مجلسی متوفی ۱۱۱۰ھ | حیات القلوب |
| شیعہ کتب عقائد و کلام | | | |
| ۱۲۲۹ھ | دارالاجتبیٰ نجف | ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۳۲۹ھ | اصول کافی |
| ۱۲۰۹ھ | دارالبلاغہ بیروت | مرتبہ سید شریف رضی متوفی ۲۲۸ھ | نہج البلاغہ خطبات حضرت علی |
| ۱۲۲۱ھ | موسسۃ علمی بیروت | ابومنصور احمد بن علی طبرسی | الاحتجاج |
| ۱۲۲۹ھ | انوار الہدیٰ قم | سید عبداللہ شبر متوفی ۱۲۲۲ھ | حق الیقین فی اصول الدین |
| ۱۲۰۵ھ | منظمتہ الاسلامی تہران | ادعیہ امام زین العابدین | صحیفہ سجادیه |
| ۱۲۲۰ھ | دارالثلثین بیروت | کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی متوفی ۶۷۹ھ | شرح نہج البلاغہ |
| شیعہ کتب حدیث | | | |
| | دارالکتب نجف | ابوجعفر محمد بن علی بن حسین صدوق متوفی ۳۸۱ھ | جامع الاخبار |

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--|--------------------|
| ۱۳۱۳ھ | موسسة اهل البيت | شیخ ابوالعباس عبداللہ بن جعفر حمیری | ضرب السناد |
| ۱۳۲۸ھ | کتاب فرشی اسلامیہ تہران | ابج جعفر محمد بن علی بن حسین صدوق متوفی ۳۸۱ھ | علل الشرائع |
| ۱۳۶۲ھ | منشورات علمی تہران | ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ متوفی ۲۹۰ | بصائر الدرجات |
| کتاب مرزانیہ | | | |
| | مرکز احمدیت لندن | مرزا غلام احمد قادیانی | براہین احمدیہ |
| | // | // // // | تحفہ بغداد |
| | // | // // // | آئینہ کمالات اسلام |
| | // | // // // | ازالہ اوہام |
| | // | // // // | چشمہ معرفت |
| | // | // // // | حماتہ البشری |
| | // | // // // | خطبہ الہامیہ |
| | // | // // // | کشتی نوح |
| | // | // // // | اعجاز احمدی |
| | // | // // // | اعجاز المسح |
| | // | // // // | ایک غلطی کا ازالہ |
| | // | // // // | نزول المسح |
| | // | // // // | تحفہ گولڑویہ |
| | // | // // // | اربعین |
| | // | // // // | حقیقۃ الوحی |
| | // | // // // | مجموعہ اشتہارات |
| | // | // // // | ملفوظات |
| | // | // // // | آریہ دھرم |
| | // | // // // | ایام اسح |
| | // | // // // | حقیقۃ المہدی |
| ۱۹۹۶ء | مرکز احمدیت لندن | مرزا غلام احمد قادیانی | درعین منظوم کلام |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-------|
| کلام محمود منظوم کلام | مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی | مرکز احمدیت لندن | ۱۹۹۶ء |
| انوار خلافت | مرزا بشیر الدین محمود پسر مرزا غلام احمد قادیانی | ضیاء الاسلام قادیان | ۱۹۱۶ء |
| حیات ناصر | شیخ یعقوب علی عرفانی قادیانی | | |
| سیرۃ المہدی | مرزا بشیر الدین محمود | | |
| تذکرۃ المہدی | سراج الحق ہانسوی قادیانی | ضیاء الاسلام پریس قادیان | ۱۹۱۵ء |
| شیعہ کتب رجال | | | |
| الذریعہ الی تصانیف اشیعہ | محمد محسن المعروف بہ آقا بزرگ تہرانی | دارا حیات التراث العربی بیروت | ۱۳۳۰ھ |
| الکئی والالقب | شیخ عباس قتی متوفی ۱۳۲۰ھ | مکتبۃ الصدر تہران | ۱۳۹۷ھ |
| رجال نجاشی | ابوالعباس احمد بن علی بن احمد نجاشی کوفی متوفی ۴۵۰ | شرکت الاعلیٰ بیروت | ۱۳۳۱ھ |
| رجال کشی | شیخ الطائفہ شیخ طوسی متوفی ۴۶۰ھ | مرکز مصطفوی قاہرہ | ۱۳۳۰ھ |
| رد قادیانیت | | | |
| برق آسمانی بر خرمن قادیانی | مناظر اسلام علامہ ظہور احمد بگوی متوفی ۱۹۳۵ء | ادارہ تحفظ عقائد اسلامیہ کراچی | |
| الحق المبین | علامہ حکیم عبدالغنی ناظم | ادارہ تحفظ عقائد اسلامیہ | |
| سیف چشتیائی | فاتح قادیانیت امام سید پیر مہر علی شاہ گیلانی متوفی ۱۳۵۶ھ | کتب خانہ مہریہ گولڑہ شریف | |
| قادیانی مذہب کا علمہ محاسبہ | علامہ پروفیسر الیاس برنی حیدرآبادی | مہتاب کمپنی لاہور | |
| التصریح بما تواتر فی نزول المسیح | علامہ شیخ سید محمد انور شاہ کشمیری متوفی ۱۳۵۲ | المطبوعات الاسلامیہ حلب شام | ۱۳۸۵ھ |
| دلائل ختم نبوت | قاری محمد طیب نقشبندی خود صاحب تفسیر ہذا | مکتبہ برہان القرآن لاہور | |
| کتب و بابیہ | | | |
| ہدیۃ المہدی | علامہ وحید الزمان حیدرآبادی | میور پریس دہلی | ۱۳۲۵ھ |
| رسائل و مسائل | سید ابوالاعلیٰ مودودی | اسلامک پبلی کیشنز لاہور | |
| تفہیمات | سید ابوالاعلیٰ مودودی | اسلامک پبلی کیشنز لاہور | |

| | | | |
|-------|-----------------------|--|--------------------|
| | ادارہ اسلامیات لاہور | علامہ شیخ اشرف علی تھانوی | الاقاضات الیومیہ |
| | ترجمان القرآن لاہور | سید ابوالاعلیٰ مودودی | تشیجات |
| | اسلامی کتب خانہ لاہور | علامہ شیخ اشرف علی تھانوی | امداد المشتاق |
| | مکتبہ رحمانیہ لاہور | علامہ شیخ اشرف علی تھانوی | ارواح ثلاثہ |
| | مکتبہ امدادیہ دیوبند | علامہ شیخ قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند | تحذیر الناس |
| ۱۳۲۱ھ | شمع بک ایجنسی لاہور | علامہ شیخ محمد اسماعیل دہلوی | تقویۃ الایمان |
| | کوہ نور دہلی | علامہ محمود احمد عباسی | خلافت معاویہ ویزید |
| | مکتبہ رحمانیہ لاہور | علامہ شیخ اشرف علی تھانوی | نشر الطیب |



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہم کو تمہارے پاس تمہارے رب کا لفظ ہے
اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
مکہ مکرمہ

تفسیر بُرُہَانِ الْاٰیَاتِ

علامہ قاری محمد طیب نقشبندی

مجمع جامعہ رسولیہ اسلامک سٹڈیز ہائیسٹیٹ انگیلینڈ

جلد ہفتم

مکتبہ برون القرآن